

یروشلم

ایک شہر، تین مذاہب

(JERUSALEM: ONE CITY, THREE FAITHS)

مصنفہ: کیرن آرم سٹرانگر

ترجمہ: ظاہر منصور فاروقی

Virtual Home
for Real People

فہرست

پیش لفظ ☆☆

مصنفو کا تعارف ☆☆

ابتدائیہ ☆☆

پہلا باب صیہون

دوسراباب بنی اسرائیل

تیسرا باب شہر داؤد

چوتھا باب شہر یہوداہ

پانچواں باب جلاوطنی

چھٹا باب انطا کیہ

ساتواں باب بتاہی

آٹھواں باب ایلیا کا پیٹولینا

نواں باب نیا پیشلم

وسواں باب شہر سج

گیارھواں باب بیت المقدس

بارھواں باب القدس

تیرھواں باب صلیبی جنگیں

چودھواں باب جہاد

پندرھواں باب عثمانیوں کا شہر

سولھواں باب دیوار گریہ

سترهواں باب اسرائیل

اٹھارواں باب صیہون؟

☆☆ کتابیات

پیش لفظ

یروشلم، تیس صدیوں کی تاریخ کا امین اور تین تو حید پرست مذاہب کے پیروکاروں کی عقیدتوں کا مرکز ہے۔ علمی اور تحقیقی حوالے سے ایک متمول شہر اور تاریخ میں ایک منفرد مقام کا حامل ہے۔ اردو زبان میں یروشلم کی تاریخ پر کوئی مبسوط اور دقیع کتاب موجود نہیں۔ چند ایک مصنفوں نے اس موضوع پر قلم اٹھایا بھی ہے تو ان کے پیش نظر شہر کی تاریخ کا اسلامی دور رہا۔ کچھ مولفین نے محض صلیبی جنگوں، اسلامی لشکروں کی شام و فلسطین کی فتوحات یا پھر واقعہ معراج النبی ﷺ کے حوالے سے بیت المقدس کا تذکرہ کیا ہے لیکن ظاہر ہے اس میں شہر کو ثانوی حیثیت دی گئی ہے۔ یوں یہ قدیم شہر جس طرح ایک بھرپور اور ہمہ گیر تاریخی اور علمی کام کا تقاضا کرتا ہے وہ ضرورت پوری نہیں ہوتی تھی۔ کیرن آرم سٹر انگ نے یروشلم کی انفرادیت اور اہمیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے "One City, Three Faiths" کے عنوان سے جو تحقیقی کام مرتب کیا ہے وہ بلاشبہ تاریخ کے طالب علم کے لیے ذریعہ تسلیکیں ہے۔ اسی کتاب کا اردو ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے۔

زیر نظر کتاب یروشلم کی سیماں صفت تاریخ کا احوال ہے۔ اس میں کعنی، یبوی، یہودی، یونانی، رومی، بازیطنی، عرب، مملوک، عثمانی، برطانوی، فلسطینی اور اسرائیلی ادوار کی داستان بلا کم و کاست بیان کی گئی ہے۔ اس میں کانسی کے دور سے لے کر بیسویں صدی کے آخری عشرے تک کا مکمل روحانی اور طبعی منظر نامہ موجود ہے۔

کیرن آرم سٹر انگ نے ایک سورخ کی نظر سے محض شہر کی تاریخ مدون نہیں کی بلکہ اس شہر کے حکمرانوں اور باشندوں کے مذاہب پر ایک غیر جاندار بمصر کی حیثیت سے بھر پور تبصرہ بھی کیا ہے۔ اگرچہ مصنفہ کی تعلیم و تربیت خالصتاً مذہبی بنیادوں پر ہوئی ہے اور انہوں نے شعور کی دلیل پر ایک نن کی حیثیت سے قدم رکھا لیکن کتاب کی مدویں کے دوران انہوں نے کسی مرحلہ پر مذہبی تعصب کا مظاہرہ نہیں کیا یہودیت، عیسائیت اور اسلام کی تعلیمات اور ان کے اثرات کا جائزہ کیرن آرم سٹر انگ نے جس گھرائی اور گیرائی سے لیا ہے وہ قابل داد ہے۔ بنیادی طور پر ایک عیسائی اور یورپی ہونے کے باوجود مصنفہ نے اسلامی تعلیمات اور پیغمبر اسلام کی مدح سرائی میں بخل سے کام نہیں لیا۔

کیرن یروشلم پر یہودیوں اور بالخصوص صیہونیوں کے دعویٰ ملکیت کو مسترد کرتی ہیں۔ ان کا کہنا

ہے کہ اگر مسلمان یو شلم کے لیے اجنبی اور حملہ آور ہیں تو یہودی بھی اسی طرح اجنبی اور حملہ آور ہیں۔ وہ آثار قدیمہ کے تحقیقی نتائج اور بابل کے مندرجات کو بنیاد بنا کر یہودیوں کے دعویٰ کا بطلان کرتی ہیں کہ وہ اس کے بانی و موسس ہیں۔ کیرن کا کہنا ہے کہ یو شلم کی تقدیس تقاضا کرتی ہے کہ اس کے مکینوں کے ساتھ حضرت داؤڈ اور حضرت عمرؓ کا مثالی اور ارفع طریقہ عمل اختیار کیا جائے۔

قدمیم کرداروں اور مقامات کے نام اردو قالب میں ڈھالتے ہوئے ”بابل“ کے اردو ایڈیشن مطبوعہ پاکستان بابل سوسائٹی، انارکلی لاہور (1968ء) سے مدد لی گئی ہے۔ دوسری زبانوں میں لکھے گئے قدمیم کرداروں اور مقامات کے ناموں کو اردو میں لکھتے ہوئے ہمارے مختلف مصنفوں اور مترجمین نے اپنے اپنے فہم سے کام لیا ہے۔ چنانچہ ایک ہی نام مختلف کتابوں میں مختلف شکلیں رکھتا ہے۔ کسی بھی زبان میں لکھتے ہوئے نام کو دوسری زبان میں لکھتے ہوئے تغیر و تبدل کا امکان موجود رہتا ہے۔ بابل کے اردو ایڈیشن کو اس لیے معتر اور مستند قرار دیا جاسکتا ہے کہ یہ محض تحریر نہیں۔ اس کے مندرجات صدیوں سے تلاوت ہوتے آرہے ہیں چنانچہ درست ترین تلفظ کے مطابق بولے اور لکھے جارہے ہیں۔

طاہر منصور فاروقی

2/43، شاہدرہ ٹاؤن، لاہور

فون: 7914506

مصنفہ کا تعارف

کیرن آرام سٹرائلنگ نے رومان کیتھولک نن کی حیثیت سے سات سال تک خدمات سرانجام دیں۔ 1968ء میں انہوں نے آکسفورڈ یونیورسٹی سے لٹریچر میں گریجویشن کی۔ لندن یونیورسٹی میں مادرن لٹریچر کی لیکچرر ہیں۔ پھر ایک پیلک گرلنڈسکول کے انگلش ڈیپارٹمنٹ سے وابستہ ہو گئیں۔ 1982ء میں وہ فری لانسر رائٹر اور براڈ کاستر بن گئیں۔ ایک طویل عرصہ تک انہوں نے برطانیہ اور پھر امریکہ میں مذہبی امور

کے مبصر کی حیثیت سے خدمات سرانجام دیں۔ اس دوران انہوں نے 1983ء میں مشرق و سطحی میں جا کر سینٹ پال کی زندگی اور مذہبی خدمات کے موضوع پر ٹیلی وژن کے لیے دستاویزی فلم بنائی۔ ٹیلی وژن کے لیے ان کے دیگر معروف پروگرام درج ذیل ہیں۔

Varieties of Religious Experience (1984)

Tongues of Fire (1985)

1996ء میں موصوفہ نے بل موئر ز کی ٹیلی وژن سیریز GENESIS میں شرکت کی۔ آج کل وہ یو باسیک کالج فارسٹڈی آف جیوڈ ازم اینڈ دی ٹریننگ آف ریز اند ٹھپرز، میں پڑھاتی ہیں۔ وہ مسلم سو شل سائنسز، الیوسی ایشن کی اعزازی رکن ہیں۔ ان کی درج ذیل تصنیفات اب تک منظر عام پر آچکی ہیں۔

1. The Gospel According to Woman (1987)
2. Through the Narrow Gate (1981)
3. Holy War: The Crusades & Their impact On Todays World. (1991)
4. The english Mystics Of fourteenth Century. (1992)
5. Muhammad: A Biography Of The Prophet. (1992)
6. A History Of God: The 4000- Year Quest of Judaism. Chiristianity & Islam. (1993)
7. Jerusalem : One City three Faiths. (1996)



ابتداء سی

یو شلم میں دوسرے کسی بھی شہر کے عکس مجھے تاریخ زمانہ حال کی ایک نمایاں جہت محسوس ہوئی ہے۔ شاید ہر تنازعہ علاقے میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ لیکن 1983ء میں جب میں یو شلم میں پہلی بار علمی کام کرنے کی تو اس حقیقت نے مجھے شدت سے متاثر کیا۔ پہلے تو میں شہر کو دیکھ کر اپنے رُمل کی شدت پر حیران ہوئی۔ ایک ایسی جگہ میں گھومنا پھرنا حیرت انگیز تھا جو بچپن ہی سے میری زندگی کی ایک تصوراتی حقیقت تھی۔ میں نے بادشاہ داؤ داور یوسع مسح، کی داستانیں سن رکھی تھیں۔ جب میں نوجوان نہ تھی تو مجھے سکھایا گیا کہ صح کے مراقبہ کا آغاز بائل کے مناظر کو ذہن میں رکھ کر کیا کروں۔ میرے ذہن میں کتنسمنے باغ، کوہ زیتون اور دایاڑ لو روزا کے مناظر اپنے انداز سے سحر کارتھے۔ اب جبکہ میں انہی مقامات سے روزانہ گزرنے لگی تو میں نے محسوس کیا کہ یو شلم کا حقیقی شہر نظر آنے والے شہر سے زیادہ شوریدہ سر اور الجھا ہوا ہے۔ مثلاً مجھے یہ حقیقت تسلیم کرنا پڑی کہ یو شلم صرف عیسائیوں کے لیے ہی نہیں، یہودیوں اور مسلمانوں کے لیے بھی مقدس اور اہم ہے۔ جب میں نے خفتانوں میں مبوس یہودیوں اور اکھڑا سرائیلی سپاہیوں کو پوری عقیدت کے ساتھ مغربی دیوار کے پتھر چومنے ہوئے دیکھایا پھر مسلمان خاندانوں کے ہجوم اپنے اجلے مبوسات میں حرم الشریف کو جمعہ کی نماز کے لیے شہر کی گلیوں میں سے گزرتے ہوئے دیکھے تو مجھے پہلی بار مذہبی تکشیریت کے چلتیخ کا اندازہ ہوا۔ یہ لوگ ایک ہی نشان کو بالکل مختلف انداز میں دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اپنے شہر مقدس کے ساتھ ان لوگوں کی وابستگی کسی بھی شک و شبہ سے بالاتر ہے۔ لیکن یہ سب ”میرے یو شلم“ سے بالکل غائب تھے۔ ذہن میں موجود بائل کے مناظر کے قدیم عکس بیسویں صدی کے یو شلم کو براہ راست دیکھتے ہوئے نیا ارتباط مہیا کر رہے تھے۔ میری زندگی کے انتہائی یادگار واقعات سے وابستہ ہونے کی وجہ سے یو شلم میری اپنی شناخت کا حصہ بن چکا تھا۔

ایک برطانوی شہری ہونے کے باوجود شہر پر میرا کوئی سیاسی دعویٰ نہیں تھا حالانکہ یو شلم میں میرے نئے ساتھی اور دوست کچھ اسی طرح کے حوالے اور نسبتیں رکھتے تھے۔ اس حوالے سے اسرائیلیوں اور فلسطینیوں نے مجھے اپنے دلائل پیش کئے تو میں ماضی کے واقعات کے گھرے اتصال پر حیران رہ گئی اسرائیل کے قیام یا 1967ء کی چھ روزہ جنگ تک کے واقعات کی تفصیلات مجھے بتائی گئیں۔ میں نے محسوس کیا کہ واقعات بیان کرتے ہوئے اصل زور اس بات پر دیا جاتا ہے کہ پہلے کس نے کیا کیا؟ تشدید پر

پہلے کون اتر؟ صیہونی یا عرب؟ کس نے پہلے فلسطین کی صلاحیتوں کو سمجھا اور ملک کو ترقی دی؟ یروشلم میں پہلے کون رہتا تھا۔ یہودی یا عرب؟ موجودہ پریشان کن صورتحال پر بحث کرتے ہوئے اسرائیلی اور فلسطینی، دونوں ہی جملی طور پر ماضی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ان کا مناظرہ کافی کے دور سے شروع ہو کر قرون وسطی سے ہوتا ہوا بیسویں صدی میں پہنچتا ہے۔ اور پھر جب اسرائیلیوں اور فلسطینیوں نے انتہائی تقاضے کے ساتھ مجھے ”اپنا گھر“ دکھایا تو وہی تاریخی عمارتیں اور آثار قدیمہ جو دونوں کے لیے اہم اور مقدس تھے، تنازعہ بن کر سامنے آئے۔

یروشلم میں پہلی صبح کو میرے اسرائیلی ساتھیوں نے بتایا کہ کس طرح بادشاہ ہیرودیس کے دور میں استعمال کئے گئے پتھروں کو شناخت کیا جا سکتا ہے۔ مجھے بتایا گیا کہ ان پتھروں کے کنارے نمایاں طور پر تیز دھار ہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ پتھر یروشلم سے یہودیوں کی اس والبستگی کی یاددالاتے رہتے ہیں جس کا تعلق پہلی صدی قبل مسیح سے ہے، جب اسلام ابھی معصی شہود پر نہیں آیا تھا۔ جب ہم پرانے شہر میں سے گزرے تو مجھے بتایا گیا کہ عثمانیوں نے اپنے دور اقتدار میں یروشلم کو بری طرح نظر انداز کیا۔ انیسویں صدی میں یہ دوبارہ بھرپور زندگی سے اس وقت ہمکنار ہوا جب یہودیوں نے یہاں سرمایہ کاری کی۔ اس کے ثبوت میں مجھے سرموڑ زموٹنے فیورے کی پونچکی اور رو تھس چائلڈ خاندان کے سرمایہ سے بنائے گئے ہسپتال دکھائے گئے۔ اسرائیلی دعویٰ کرتے ہیں کہ جس طرح یروشلم ان کے دور میں فروغ پا رہا ہے، ماضی میں اس کی کوئی مثال موجود نہیں۔

میرے فلسطینی دوستوں نے مجھے ایک مختلف یروشلم دکھایا۔ انہوں نے مجھے حرم الشریف کی شان و شوکت کے بارے میں بتایا۔ اس کے ارد گرد مملوکوں کے بنائے ہوئے نفیس اور خوش نما مدرسوں کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ سب کچھ یروشلم سے مسلمانوں کی عقیدت والبستگی میں تعمیر کیا گیا تھا۔ پھر مجھے امویوں کے محلات دکھائے گئے۔ جب ہم بیت الحرم میں سے گزر رہے تھے تو میرے فلسطینی میزبان نے راکیل کے مقبرہ کے پاس کارروک دی اور پر جوش انداز میں بتایا کہ مسلمانوں نے اس یہودی یادگار کی صدیوں تک نگہداشت کی۔ لیکن اس کا رخیر کا صلہ انہیں انتہائی بھونڈے انداز میں دیا گیا۔

ایک لفظ بار بار دہرا یا گیا۔ کٹریکول اور اسرائیلیوں اور فلسطینیوں نے بھی اصرار کے ساتھ کہا کہ یروشلم ان کے لیے ”قدس“ ہے۔ فلسطینی تو اس شہر کو کہتے ہی ”القدس“ ہیں۔ اسرائیلی یہ بات تسلیم نہیں کرتے۔ ان کا کہنا ہے کہ یروشلم سب سے پہلے یہودیوں کے لیے مقدس شہر ہے۔ یہ مسلمانوں کے لیے کبھی

بھی مکہ اور مدینہ کی طرح اہم نہیں رہا لیکن اس سیاق و سباق میں لفظ "مقدس" کے کیا معنی ہیں؟ آخر کس طرح محض ایک شہر، خطا کار انسانوں سے لبریز، اور انتہائی ناپاک سرگرمیوں سے آلوہ شہر۔۔۔ مقدس قرار دیا جا رہا ہے؟ آخر کیوں عسکری و ہربیت کا اعتراف کرنے والے یہودی، مقدس شہر سے پیار کرتے ہیں اور مغربی دیوار کے لیے جذباتی ہو جاتے ہیں؟ آخر کیوں ایک ملحد عرب جب پہلی دفعہ مسجد اقصیٰ کو دیکھتا ہے تو اشکبار ہو جاتا ہے؟ میں سمجھ سکتی ہوں کہ آخر عیسائیوں کے لیے یہ شہر کیوں مقدس ہے؟ اس شہر نے "مسیح" کی موت اور پھر زندہ ہو جانے کے مناظر دیکھے ہیں۔ اس نے عیسائی مذہب کو جنم لیتے ہوئے دیکھا ہے لیکن یہودیت اور اسلام کو تشكیل دینے والے واقعات تو یروشلم سے سینکڑوں میل دور و نما ہوئے تھے۔ ایک نے صحرائے سینا میں جنم لیا اور دوسرے نے ارض ججاز میں۔ اسی طرح سوال یہ ہے کہ یہودیوں کے لیے کوہ صیہون کی بجائے کوہ سینا کیوں ایک مقدس مقام نہیں جہاں خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب بخشی اور اسرائیل کے ساتھ عہد کیا۔ ظاہر ہے میں غلط طور پر یہ سمجھ رہی تھی کہ کسی شہر کا تقدس نجات کی تاریخ کے واقعات سے وابستہ ہوتا ہے۔ اور نجات سے مراد انسانوں کے معاملات میں خدا کی مداخلت کا اساطیری تصور ہے۔ چنانچہ میری جستجو یہ تھی کہ دیکھوں آخر ایک مقدس شہر کیا ہوتا ہے؟ یہی جستجو اس کتاب کی تصنیف کا سبب بنی۔

لفظ "مقدس" یروشلم کے لیے آزادی سے استعمال ہوتا ہے۔ اگرچہ اس کے معنی بذات خود واضح ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ نہایت پیچیدہ ہیں۔ تینوں توحید پرست مذاہب نے شہر کے لیے اپنی اپنی روایات وضع کر رکھی ہیں جو نمایاں طور پر ایک جیسی ہیں۔ کسی مقدس مقام یا کسی مقدس شہر سے عقیدت ایک آفاتی اور عالمگیر جذبہ و کیفیت ہے۔ مذاہب عالم کے مورخین کہتے ہیں کہ تمام تہذیبوں میں سب سے پہلے جنم لینے والی عقیدت یہی ہے۔ ہر مذہب کے پیروکاروں نے اپنا اپنا مقدس جغرافیہ تشكیل دے رکھا ہے۔ اس کا تعلق دنیا کے سائنسی نقشہ سے نہیں، یہ انسانوں کی داخلی زندگی کی حدود متعین کرتا ہے۔ ارضی شہر، درختوں کے جنگل اور پہاڑ ان کی روحانیت کی علمتیں اور نشان بن جاتے ہیں۔ یہ روحانیت ہر جگہ موجود ہوتی ہے اور ایک گہری انسانی ضرورت پوری کرتی ہے چاہے، خدا یا فوق الفطرت قوت کے بارے میں ہمارا عقیدہ کچھ بھی ہو۔ یروشلم مختلف اسباب کی بنابری یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں کے مقدس جغرافیہ کا ایک مرکز ہے۔ اس بات نے ان کے لیے شہر کو معرفتی انداز میں دیکھنا مشکل بنادیا ہے۔ یہ ان کے اپنی ذات اور اس حقیقت کے تصورات سے پوست ہو چکا ہے جو خدا کھلاتی ہے اور ہماری دنیاوی زندگی کو معنی اور قدر و قیمت دیتی ہے۔

اس کتاب میں آپ کو تین تصورات ملیں گے جو آپس میں مربوط ہیں۔ پہلا خدا یا مقدس کا تصور

ہے۔ مغربی دنیا میں ہم خدا کو ایک شبھی اور تجسیمی انداز میں دیکھنے کے عادی ہیں چنانچہ اس کے نتیجے میں الہیت کا تمام تصور بے ربط اور ناقابلِ یقین رہتا ہے۔ چونکہ ”خدا“ کا لفظ بہت سے لوگوں کے لیے غیر معتبر ہو چکا ہے، کیونکہ ناقابلِ قبول اور بہم باقی ”اس کے نام“ پر کی اور تھوپنی جاتی ہیں۔ چنانچہ اس کا متبادل اور آسان طریقہ یہ ہے کہ خدا کی بجائے ”مقدس“ (بروزان۔۔۔ اقدس) کی اصطلاح استعمال کی جائے۔ جب لوگ کائنات پر غور کرتے ہیں تو انہیں اس میں ایک بالاتر اور پراسرار قوت کا فرمان نظر آتی ہے۔ وہ اس کا گہر اعلق اپنی ذات اور دنیا کے ساتھ محسوس کرتے ہیں اور پھر ان کا یہ احساس اس سے بھی آگے چلا جاتا ہے۔ اس کا اظہار مختلف ناموں سے کیا گیا۔ مثلاً خدا، برہما اور نزوان وغیرہ لیکن یہ بالاتر اور مورائے ادراک قوت انسانی زندگی کی ایک بہت بڑی حقیقت رہی ہے۔ ہمارے مذہبی عقائد کچھ بھی ہوں۔ مختلف مواقع پر ہمارا تجربہ ایک جیسا ہوتا ہے۔ جب ہم کوئی مسحور کن موسیقی سنتے ہیں یا خوبصورت نظم پڑھتے ہیں تو ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں اندر سے کسی نے چھولیا ہے اور پھر ہم چند لمحوں کے لیے اپنی ذات سے اوپر اٹھ جاتے ہیں۔ ہم اس کیفیت کو تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ہمیں یہ کسی نشست میں، کسی چرچ یا صومعہ میں نہ ملے تو پھر کہیں اور دھونڈتے ہیں۔ انسانوں نے مقدس کو مختلف انداز میں پایا اور محسوس کیا ہے۔ یہ خوف، دہشت، جلال، استعجاب، افراط، امن، تسلیم اور آسودگی کی کیفیات بھی پیدا کرتا ہے اور اخلاقی سرگرمیوں پر بھی مجبور کرتا ہے۔ یہ ایک بھرپور اور فزوں تر موجودگی پیش کرتا ہے جس سے ہماری تکمیل ہوتی ہے۔ یہ محض خارج میں ہمیں ایک قوت محسوس نہیں ہوتی بلکہ ہماری ذات کی گہرائیوں میں پائی جاتی ہے۔ لیکن کسی بھی جمالیاتی تجربے کی طرح خدا کے احساس کو بھی مرتب کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے جدید سیکولر معاشرے میں اسے کبھی بھی ترجیح نہیں دی گئی چنانچہ یہ غیر مستعمل صلاحیت کی طرح بے کار ہو چکا ہے۔ اس کے برعکس مقدس کو عقل یا حواس سے سمجھنے کی صلاحیت کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ بہر طور حقیقت یہ ہے کہ خدا کے تصور کے بغیر بہت سے لوگ محسوس کرتے ہیں کہ زندگی بے معنی ہے۔

اس کا جزوی سبب یہ ہے کہ انسانوں نے دنیا کو ہمیشہ رنج و محن کا مقام محسوس کیا ہے۔ ہم قدرتی آفات کے شکار رہتے ہیں فنا اور ہلاکت سے دوچار ہو جاتے ہیں اور ظلم اور نا انصافی کمزور انسانوں کو چاٹ جاتی ہے۔ مذہبی جدوجہد عام طور پر اس شعور کے ساتھ شروع ہوتی ہے کہ ”کچھ غلط ہو رہا ہے۔۔۔“ جیسے بدھانے کہا تھا: ”کائنات میں کبھی آگئی ہے۔۔۔“ انسانی جسم پر آنے والے طبعی اور موروثی اخحطاط کے علاوہ ہم ذاتی غم و اندوہ میں بنتا ہوتے ہیں، جو بظاہر غیر اہم رکاوٹ ہوتے ہیں لیکن ہمیں بری طرح منتشر کر دیتے ہیں۔ پھر ہمیں بے چارگی اور کسپری کے احساس سے بھی دوچار ہونا پڑتا ہے۔ اس میں موت کا صدمہ،

طلاق، ترک مراسم اور کسی محبوب ترین چیز کا نقصان وغیرہ شامل ہیں۔ یہ کسپری ہمیں اپنی ذات میں بے وجہ ادا سی اور ملال کے نتیجہ میں بھی محسوس ہوتی ہے۔ بعض اوقات یہ داخلی بیماری احساس جدائی کا شاخانہ ہوتی ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں کسی چیز کی کمی ہے۔ ہمیں اپنا وجود نامکمل اور ادھورا لگتا ہے۔ ادھورے پن کا احساس ہمیں کہتا ہے کہ زندگی اس لینے نہیں بنائی گئی جس طرح گزر رہی ہے۔ ہم کسی ایسی چیز سے محروم ہیں جو ہماری آسودگی کے لیے ضروری ہے لیکن ہم یہ سب کچھ شعوری سطح پر بیان نہیں کر سکتے۔ احساس جدائی کئی طرح سے ابھرتا ہے۔ یہ ذوالنفسی کے فلاطونی تصور میں بھی موجود ہے جس سے ہم پیدائش کے وقت جدا کر لیے گئے۔ یہ گم گشته جنت کے عالمی اسطورہ میں بھی موجود ہے۔ گزشتہ صدیوں میں مرد اور عورتیں اسی دکھ پر غالب آنے کے لیے مذہب کی طرف راغب ہوئے تھے کیونکہ انہیں خدا سے لوگا نے میں تسلیم ملی تھی۔ آج مغرب میں لوگ بعض اوقات تحلیل نفسی کا سہارا لیتے ہیں۔ اس میں ابتدائی جدائی کا یہی احساس انتہائی سائنسی انداز میں کارفرما ہے، جو حرم مادر اور پیدائش کی اذیت سے وابستہ یادوں سے مربوط ہے، ہم اسے دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ جدائی کا تصور اور کسی نہ کسی انداز میں ملاپ کی تمنا کسی مقدس مقام سے عقیدت میں بھی پوشیدہ ہوتی ہے۔

دوسرा تصور جسے ضرور زیر بحث لانا چاہیے وہ دیومالایا اساطیر کا سوال ہے۔ جب لوگوں نے مقدس کے بارے میں بات کرنا چاہی یا انسانی دکھوں کا ذکر کرنا چاہا تو وہ اسے منطقی انداز میں بیان نہ کر سکے۔ چنانچہ انہیں دیومالا کا سہارا لینا پڑا۔ یہاں تک کہ فرائد اور یونگ کو بھی داخلی واقعات بیان کرنے کے لیے قدیم دنیا کی دیومالایا مذہب کی اساطیر کی مدلینا پڑی اور پھر انہوں نے اپنی اساطیر وضع کر لیں۔ آج لفظ متحہ، دیومالایا اسطورہ کو ہمارے کلچر میں بے وقت کر دیا گیا ہے۔ اسے ایسی بات کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو حقیقی نہ ہو۔ واقعات کو اس لیے جھٹلا دیا گیا کہ یہ محض ”اساطیر“ ہیں۔ یروشلم کی بحث میں یہ بات بالکل درست ہے۔ فلسطینی دعویٰ کرتے ہیں کہ آثار قدیمہ نے ایسا کوئی ثبوت مہیا نہیں کیا جو تصدیق کر سکے کہ یہودی ریاست کی بنیاد بادشاہ داؤ دنے کرھی تھی۔ اسی طرح معبد سلیمانی کا بھی کوئی سراغ نہیں ملتا۔ اسرائیل کی سلطنت کا ذکر کسی ہم عصر تحریر میں نہیں۔ اس کا ذکر صرف باہل میں ملتا ہے۔ چنانچہ گمان غالب ہے کہ یہ محض ایک اسطورہ یا فرضی داستان ہے۔ اسی طرح اسرائیل لوگ، پیغمبر حضرت محمد ﷺ کا یروشلم سے آسمانوں کو مراجع مسٹر دکرتے ہیں۔ یہ ایک ایسی اسطورہ ہے جو القدس کے لیے مسلمانوں کی عقیدت کی بنیاد ہے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ یہ بحث ہمیں اپنے موضوع سے بھٹکا دے گی۔ اساطیر کا مقصد کبھی بھی تاریخی طور پر مصدقہ واقعات کو بیان کرنا نہیں تھا۔ یہ تو محض داخلی اہمیت کو بیان کرنے کی ایک کوشش تھی یا پھر ایسے

حقائق کی طرف توجہ دلانا مقصود تھی جو منطقی انداز میں زیر بحث نہ لائے جاسکتے ہوں۔ دیومالا کو آپ نفیات کی قدیم شکل کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ ذات کی داخلی گہرائیوں کو بیان کرتی ہے جو ابھی تک ہمارے لیے پراسرار اور مسحور کن ہیں۔ چنانچہ مقدس جغرافیہ کی اساطیر داخلی زندگی کی سچائیوں کو بیان کرتی ہیں۔ یہ انسانی دکھوں اور خواہشوں کے مخفی ذرائع کو چھوٹی اور انتہائی طاقتور جذبات کو بے لگام کر سکتی ہیں۔ یروشلم کے بارے میں داستانوں کو اس لینہیں چھکلا ناچا ہیے کہ یہ م Hispan اساطیر ہیں۔ یہ اسی لیے اہم ہیں کہ یہ اساطیر ہیں۔

یروشلم کا موضوع دھماکہ خیز ہے کیونکہ یہ شہر اساطیری درجہ حاصل کر چکا ہے۔ موجودہ تنازع کے دونوں فریق اور بین الاقوامی بارادری بار بار کہہ چکے ہیں کہ جذباتی قصوں کو ایک طرف رکھ کر حقوق اور اقتدار اعلیٰ کے بارے میں فہمیدہ بحث ہونی چاہیے۔ اگر ایسا ہو سکے تو اس سے عمدہ کوئی اور بات کیا ہوگی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم اساطیر کی ضرورت سے بے نیاز ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ لوگوں نے ماضی میں بھی کوشش کی ہے کہ اساطیر کو مذہب سے خارج کر دیں۔ مثلاً قدیم اسرائیل کے انبیاء اور مصلحین اپنے مذہب کو مقامی کنعانیوں کی اساطیر سے الگ کرنے پر زور دیتے تھے، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ قدیم داستانیں اور کردار ”قبلاہ“ کے تصوف میں پوری طاقت سے پھر نمودار ہو گئے۔ یہ مذہب کی انتہائی معقول اور معتدل شکلوں پر اساطیر کی فتح تھی۔ یروشلم کی تاریخ میں ہم دیکھیں گے کہ جب بھی لوگوں کی زندگیاں مصائب و آلام سے دوچار ہوتی۔ انہوں نے جبی انداز میں تسکین کے لیے اساطیر سے رجوع کیا۔ بعض اوقات خارجی واقعات کسی قوم کی داخلی حقیقت کے اظہار کے لیے اتنے موزوں تھے کہ انہیں فوراً اساطیری درجہ مل گیا اور پھر انہوں نے زبردست قسم کا اساطیری جوشن و جذبہ پیدا کیا۔ اس طرح کے دو واقعات بالخصوص قابل ذکر ہیں۔ ایک پتوحی صدی عیسوی میں مزار مسیح کی دریافت اور دوسرا 1967ء میں یروشلم پر اسرائیل کا تسلط۔ دونوں واقعات میں متعلقہ قوموں نے سوچا کہ وہ اس طرز فکر کو بہت پیچھے پھوڑ آئے ہیں لیکن واقعات کا رو یہ کچھ زیادہ ہی طاقتور ثابت ہوا۔ جو عذاب یہودیوں اور فلسطینیوں پر خود ہماری صدی کے دوران نازل ہوئے ان کی شدت اس قدر زیادہ تھی کہ اساطیر ایک بار پھر آگئیں۔ چنانچہ غلط یا درست طور پر یروشلم کی اساطیر کو ضروری ترجیح دینا پڑے گی۔ صرف اسی طرح ان لوگوں کی خواہشات اور رو یہ پر روشنی ڈالی جاسکتی ہے جو اس انداز کی روحانیت سے متاثر ہوئے ہیں۔

تیسرا اصطلاح جسے یروشلم کی تاریخ میں جھانکنے سے پہلے زیر بحث لایا جانا ضروری ہے، وہ علامت پسندی ہے۔ سامنے رجحان کے ساتھ ہمارا آج کا معاشرہ نشانات، علامات اور تشبیہات کی اصطلاحوں سے رغبت نہیں رکھتا۔ ہم نے ایک منطقی اور استدلالی انداز فکر کو فروغ دے لیا ہے۔ ٹھوس واقعات

کو تصورات کی آنکھ سے دیکھنے کی بجائے ہم اس کی تمام جذبات و ابتنگیوں کو بے نقاب کر کے واقعات (یا اشیاء) پر براہ راست غور کرتے ہیں۔ اس انداز فکر نے مغرب میں بہت سے لوگوں کے مذہبی تجربے کو تبدیل کر دیا ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ یہ تبدیلی سواہویں صدی عیسوی میں شروع ہوئی۔ اب ہمارا میلان یہ ہے کہ ”۔۔۔ فلاں چیز تو محض ایک علامت ہے اور بنیادی طور پر اس پر اسرار حقیقت سے بہت مختلف ہے جو بظاہر یہ پیش کرتی ہے،“ لیکن قدیم دنیا میں چیزوں کو دیکھنے اور سمجھنے کا انداز بہر حال یہ نہیں تھا۔ ایک علامت یا نشان کو اس حقیقت میں شامل سمجھا جاتا تھا جس کی طرف یہ اشارہ کرتا تھا۔ چنانچہ ایک مذہبی نشان میں عبادت گزاروں کو الہی اقلیم سے مربوط کرنے کی طاقت موجود تھی۔ پوری تاریخ میں خدا یا مقدس سے براہ راست رابطے کا تجربہ شاید چند ایک غیر معمولی انسانوں کے علاوہ کسی کو نہیں ہوا۔ یہ ہمیشہ بالواسطہ انداز میں محسوس کیا گیا۔ چنانچہ الوہیت ان مردوں اور عورتوں میں دیکھنے میں آئی جو خدا کا اوٹار یا جسمانی روپ تھے۔ یہ مقدس صحائف، شریعت یا عقیدے میں بھی پائی گئی۔ الوہیت کے قدیم ترین اور اولین نشانات یا علامات، مقام یا شہر تھے۔ لوگوں نے الوہیت کو پہاڑوں، کنجوں، شہروں اور معبدوں میں محسوس کیا۔ جب وہ ان مقامات پر جاتے تو انہیں محسوس ہوتا کہ وہ ایک مختلف جہت میں داخل ہو گئے ہیں جو ان کی اپنی دنیا سے جدا مگر طمانیت بخش ہے۔ یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں کے لئے یروشلم ایک ایسی ہی جگہ ہے۔

یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اخذ خود رونما ہو جائے۔ جب کوئی جگہ ایک بار کسی بھی طرح مقدس محسوس ہو جائے اور لوگوں کو خدا سے مربوط کرنے کی صلاحیت کا اظہار کر دے تو پھر متعدد لوگ دوسروں کو اس کی رفت کے قائل کرنے میں اپنی پوری تخلیقی تو انایاں صرف کر دیتے ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ معبدوں، گرجوں اور مسجدوں کا طرز تعمیر علامتی انداز کی وجہ سے اہمیت رکھتا ہے۔ ان کا نقشہ اس داخلی سفر کو مرتب کرتا ہے جو ایک زائر کو خدا تک پہنچنے کے لیے اختیار کرنا چاہیے۔ عبادت (کا طریقہ) اور مذہبی رسوم بھی مقدس مقام کے احساس کو شدید کرتی ہیں۔ پرلوٹمنٹ مغرب میں لوگ مذہبی رسومات کے لیے ایک موروثی بدگمانی رکھتے ہیں۔ وہ انہیں ممبو جبوا (افریقہ کی مصنوعی خیز مذہبی رسوم) ہی سمجھتے ہیں لیکن عبادت کے طریقہ کو تھیڑ کی ایک شکل کے طور پر دیکھنا غالباً زیادہ مناسب ہے۔ جو مکمل سیکولر سیاقد و سباق میں ماورائیت کا ایک طاقتور تجربہ مہیا کرتی ہے۔ مغرب میں ڈرامہ مذہب ہی سے پھوٹا۔ قدیم یونان کے مقدس تہوار اور قرون وسطی کے یورپ میں ایسٹر کی تقریبات ڈرامے کی بنیادیں ہیں۔ اساطیر بھی یروشلم اور اس کے متعدد متبرک مقامات کے داخلی معنی بیان کرنے کے لیے وضع کی گئیں۔

ان اساطیر میں سے ایک کو امریکی سکالر مرسیا ایلیڈ یے ”دانی و اپسی کی داستان“ کہتی ہے۔ اس

کا کہنا ہے کہ یہ مفروضہ سمجھی مذاہب اور تہذیبوں میں پایا جاتا ہے۔ اس عقیدے کے مطابق وہ تمام چیزیں جن سے ہمیں اس دنیا میں واسطہ پڑتا ہے۔ ان کا ایک حصہ عالم بالا میں پایا جاتا ہے۔ ان سب کی تکمیل ہماری دائیٰ واپسی پر ہوگی۔ اس اسطورہ میں یہ تصور پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ یہاں زمین پر ہماری زندگی نامکمل ہے اور عالم بالا میں پائی جانے والی ایک بھرپور اور اطمینان بخش زندگی سے جدا کر لی گئی ہے۔ تمام انسانی سرگرمیاں اور مہارتیں بھی الہی نقل ہیں۔ خدا کے افعال کی نقل کر کے لوگ آسمانی زندگی کے حصہ میں شامل ہو سکتے ہیں۔ خدا کی نقل آج بھی کی جا رہی ہے۔ لوگ آج بھی سبتوں کے دن آرام کرتے ہیں۔ چرچ میں بیٹھ کر روٹی کھاتے اور شراب پیتے ہیں۔ یہ کام بظاہر ان کے لیے بے معنی ہیں لیکن وہ اس لیے کئے جا رہے ہیں کہ ان کے عقائد کے مطابق خدا نے ایک بار ایسا کیا تھا۔ کسی مقدس مقام پر مذہبی رسوم سرانجام دینا بھی دیوتاؤں کی نقل کرنے کا ایک عالمی انداز اور ان کی بھرپور اور طاقتور طرز زندگی میں داخل ہونے کا ایک ذریعہ ہے۔ یہی اسطورہ مقدس شہر کے لیے عقیدت میں پائی جاتی ہے۔ مقدس شہر کو جنت میں دیوتاؤں کے گھر کی نقل سمجھا جاتا ہے۔ معبد ایک مخصوص دیوی کے آسمانی محل کی نقل ہے۔ آسمانی طرز تعمیر کی ممکنہ حد تک بھرپور نقل میں بنے ہوئے معبد کو خدا زمین پر اپنا مسکن بنالیتا ہے۔

عقلیت پسند جدیدیت کی روشنی میں اس طرح کی اساطیر مضمحلہ خیز دکھائی دیتی ہیں۔ لیکن قدیم دور میں ان عقائد کو پہلے پرکھ کر پھر مخصوص مقدس مقام سے وابستہ نہیں کیا جاتا تھا۔ یہ تو محض ایک تجربہ اور ایک احساس کو بیان کرنے کی ایک کوشش ہوتے تھے۔ مذہب میں ہمیشہ احساس دینی تو پڑھ سے پہلے وارد ہوتا ہے۔ لوگوں کو پہلے محسوس ہوا کہ وہ کسی کنج یا کسی پہاڑ کی چوٹی پر خدا کے قرب سے ہمکنار ہوئے ہیں۔ پھر انہوں نے اس جگہ کو مقدس قرار دیا۔ بعض اوقات انہیں اس قرب سے سرشار ہونے میں مدد دینے کے لیے فن تعمیر، موسیقی اور عبادت کا خوبصورت امتراجنگ مہیا کیا گیا۔ یہ چیزیں انہیں اپنے وجود سے دور لے جاتیں۔ پھر انہوں نے اس تجربہ کو بیان کرنے کے لیے اساطیر کی شاعرانہ زبان کا سہارا لیا یا مقدس جغرافیہ کے نشانات کی مدد سے یہ کیفیت تلاش کی۔ یو شلم ان مقامات میں سے ایک بن گیا جس نے یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں کے لیے ”مطلوبہ کام“ کیا کیونکہ یہ انہیں خدا سے ملوانے کا ایک ذریعہ محسوس ہوتا ہے۔

ایک اور تبصرہ بھی ضروری ہے۔ مذہب کی رسوم و آداب سے گہری نسبت رکھتی ہیں۔ مذہب اور آرٹ دونوں ہی اس ناقص اور المناک دنیا کا ایک حقیقی شعور پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن مذہب، آرٹ سے اس لیے مختلف ہے کہ اس میں ایک اخلاقی جہت پائی جاتی ہے۔ مذہب کو شائد ایک اخلاقی حسن کہا جا سکتا ہے۔ محض الہیت یا اورائیت کا تجربہ ہی کافی نہیں۔ اس تجربے کو دوسروں کے لیے ہمارے رویہ میں موجود

ہونا چاہیے۔ تمام بڑے مذاہب اصرار کرتے ہیں کہ سچی روحانیت کی آزمائش عملی انسانی ہمدردی ہے۔ مہاتما بدھ نے نروان حاصل ہونے کے بعد کہا تھا۔۔۔ انسان کو پہاڑوں کی چوٹیاں چھوڑ کر واپس بستیوں اور بازاروں میں آنا چاہیے اور وہاں رہ کر تمام مخلوق کے لیے رحم و مروت پر عمل کرنا چاہیے۔ یہی فلسفہ کسی مقدس مقام کے لیے عقیدت میں ہونا چاہیے۔ یروشلم سے عقیدت میں ابتداء ہی سے انسانی ہمدردی اور سماجی انصاف کو لازم قرار دے دیا گیا تھا یہ شہر اس وقت تک مقدس و مبارک نہیں ہو سکتا جب تک یہا پنے کمزور اور غیر محفوظ باشندوں کے لیے انصاف اور رحم و مروت سے متصف نہیں ہو جاتا۔ المیہ یہی ہے کہ اس اخلاقی فریضہ کو اکثر و بیشتر نظر انداز کیا گیا ہے۔ کچھ سنگین بداعمالیاں اس وقت رونما ہوئی ہیں جب لوگوں نے شہر کی تقدیس اور تسلط کی خواہش کو انصاف اور انسانی ہمدردی پر ترجیح دی۔

زیر سطح موجود ان تمام اہروں نے یروشلم کی طویل اور ہنگامہ خیز تاریخ میں اپنا اپنا کردار ادا کیا ہے۔ یہ کتاب یروشلم کے مستقبل کے لیے کوئی ضابطہ متعین کرنے کی غرض سے نہیں لکھی گئی۔ یہ محض قیاس و گمان ہوگا۔ البتہ اس کتاب کے ذریعے یہ دیکھنے کی کوشش کی گئی ہے کہ جب یہودی، عیسائی اور مسلمان کہتے ہیں کہ یہ شہر ان کے مقدس ہے تو اس کا ٹھیک ٹھیک مطلب کیا ہے۔ ان تینوں مذاہب کی روایات میں موجود یروشلم کی تقدیس کی کچھ پیچیدگیوں کی نشاندہی کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ پہلو اسی قدر اہم ہے جس قدر یہ طے کرنا کہ اس شہر میں پہلے کون تھا اور کس کا حق ملکیت ملنا چاہیے۔ لیکن یہ طے کرنا بہت کھن ہے کیونکہ۔۔۔ یروشلم کی ابتداء گہری تاریکیوں میں مخفی ہے۔

کیرن آرم سٹر انگ

MAP (نقشہ)

پہلا باب

صیہون

یروشلم شہر نے جن وادیوں اور پہاڑیوں میں جنم لیا وہاں سب سے پہلے آباد ہونے والے لوگوں

کے بارے میں کسی کو کچھ علم نہیں۔ پرانے شہر کی موجودہ دیواروں کے جنوب میں اوپل کی پہاڑیاں ہیں۔ کہاں قبروں سے برآمد ہونے والے مٹی کے برتاؤں کا تعلق 3200 سال قبل مسح سے ہے۔ تقریباً اسی زمانے میں کنعان کے دوسرے علاقوں میں بستیاں شہروں کی صورت اختیار کر رہی تھیں۔ ان میں مجدو، یریحو، عی، لیکس اور بیت شان اپنے دور کے ممتاز شہر بنے۔ اب یہ تمام علاقے جدید اسرائیل میں شامل ہیں۔ ماہرین آثار قدیمہ نے ان مقامات میں معبد، رہائشی عمارتیں، گلیاں، کارخانے اور پانی کی نالیاں دریافت کی ہیں۔ لیکن ابھی تک اس بات کا کوئی حتمی ثبوت دستیاب نہیں کہ یہ شلم میں شہری زندگی کی ابتداء سی دور میں ہوئی تھی۔ یہودیوں، عیساویوں اور مسلمانوں کے لیے عقیدت کا یہ مرکز قدیم کنunan کی مرکزی شاہراہ سے بہت دور تھا۔ دشوار گزار پہاڑی علاقے اور ملک کے مرکز سے کافی دور ہونے کی وجہ سے یہ ایک عرصہ تک بقیہ کنunan سے الگ تھلگ رہا۔ کانسی کے دور کی ترقی ساحلی علاقوں تک محدود تھی جن میں یزریل کی زرخیز وادی شامل تھی۔ یہاں مصریوں نے اپنے تجارتی مرکز قائم کر رکھے تھے۔ کنunan قدرتی وسائل سے مالا مال ایک متمويل ملک تھا۔ اس کے باشندے شراب، روغن، شہر اور غلہ پڑوئی ممالک کو برآمد کیا کرتے تھے۔ اس کی جغرافیائی اہمیت بھی بہت زیادہ تھی۔ یہ ایشیا اور افریقہ کا مقام اتصال اور مصر، شام، فونقیا اور میسوپوٹیمیا کی تہذیبوں کا سنگم تھا۔ اگرچہ اوپل کے چشمے شکاریوں، کسانوں اور عارضی لکینوں کے لیے یقیناً پرکشش تھے اور وہاں سے ملنے والے چقماق اور ٹھیکریوں کا تعلق جھری دور سے ہے لیکن ابتدائی تہذیب و تمدن کے فروع میں یہ شلم کا کوئی کردار سامنے نہیں آتا۔

قدیم دنیا میں تہذیبوں مٹنے سے پہلے ہمیشہ نمایاں درجے پر پہنچتی رہی ہیں۔ کنunan میں بھی یہی کچھ ہوا اور 2300 ق م تک وہاں کوئی شہر اپنا وجود برقرار رہا۔ معدوم ہونے کے مختلف اسباب تھے۔ کہیں آب و ہوا میں تبدیلی آگئی، کہیں یہ دنی حملہ آوروں نے اینٹ سے اینٹ سے بجادی یا پھر خون ریز خانہ جنگیوں سے تنگ آ کر لوگ شہروں سے کوچ کر گئے۔ یہ زمانہ پورے مشرق قریب میں خلفشار اور عدم استحکام کا دور تھا۔ مصر میں پرانی بادشاہت (2160-2013 ق م) کا خاتمه ہو گیا۔ میسوپوٹیمیا میں اموریوں نے عکادیوں کا تحفہ الٹ دیا۔ اموری مغرب کے سامی انسل تھے۔ انہوں نے بابل کو اپنادار السلطنت بنایا۔ اس دوران ایشیائے کوچ کے شہری علاقوں سے لوگ نقل مکانی کر گئے جبکہ فونقی ساحل پر یوگیرت اور بلوس کے شہرتاہ کر دیئے گئے لیکن کسی بھی وجہ سے شام محفوظ و برقرار رہا۔ اسی طرح کنunan کے قریبی شہر مثلاً مجدو، بیت شان وغیرہ بھی اپنے جنوبی پڑویوں کے بر عکس زیادہ عرصہ تک اپنا وجود قائم رکھنے میں کامیاب رہے لیکن تعمیر و تخریب کے ساتھ ساتھ ان سب علاقوں میں ایک ایسے منظم ماحول کی تخلیق کے لیے جدوجہد جاری

رہی جہاں لوگ محفوظ اور بھر پور زندگی بسر کر سکیں۔ نئے شہر اور نئے حکمران خاندان نمودار ہوئے۔ پرانی بستیاں پھر آباد ہوئیں۔ حضرت عیسیٰ سے دو ہزار سال پہلے کنعان کے پرانے شہر پھر سے تعمیر ہو گئے۔

اس دور میں کنunan میں زندگی کیسی تھی؟ ہم اس کے بارے میں بہت کم جانتے ہیں۔ ملک میں کوئی مرکزی حکومت نہیں تھی۔ ہر شہر ایک خود مختار ریاست تھی۔ اس کا اپنا حکمران ہوتا جو مضافات کو اپنی قلمرو میں شامل کر لیتا۔ ان کے برعکس میسوس پوٹیمیا میں تہذیب نشوونما پار ہی تھی۔ کنunan ایک علاقائی ملک کی طرح پنپتار ہا۔ یہاں نہ تو بڑے پیمانے پر تجارت تھی اور نہ کوئی صنعت۔ آب و ہوا اور جغرافیائی تفریق نے مختلف شہروں کو ایک دوسرے سے منقطع اور اپنی افرادیت برقرار رکھنے میں مدد دی۔ کچھ لوگ بالائی علاقے دشت یہوداہ یا وادی اردن میں آباد تھے۔ یہاں دریا کشی رانی کے قابل نہیں تھا اور کہیں بہہ نکلنے کی بجائے منتشر ہو کر سوکھ جاتا تھا۔ باہمی رابطے بہت مشکل تھے چنانچہ لوگ ملک کے ایک حصہ سے دوسرے حصے میں زیادہ دور تک سفر نہیں کیا کرتے تھے۔ مرکزی شاہراہ جو مصر کو دمشق سے ملاتی تھی ساحل کے ساتھ ساتھ غزہ سے یافہ تک جاتی اور پھر کوہ کرمل کے ارد گرد پائی جانے والی دلدل سے بچنے کے لیے اندر ونی علاقوں کو چھوڑتی ہوئی مجدو، وادی یزر میل اور نئے گلیلی کی طرف نکل جاتی۔ یہ علاقے زرخیز اور گنجان آباد تھے چنانچہ بارہویں خاندان کی فراعنة مصر کو حملہ آور ہونے کی دعوت دیتے رہے۔ انیسویں سے بارہویں صدی قبل مسح کے دوران مصر نے شام تک اپنا تسلط یا پھر اثر و سوچ بڑھا لیا۔ کنوان کو مصری اگرچہ ”غلام“ کہتے تھے لیکن اسے کبھی بھی حقیقی معنوں میں اپنا غلام یا ملکوم نہ بنایا۔ تاہم مصر کا اقتصادی تسلط موجود تھا اور بعض اوقات عسکری مہم جوئی کے نتیجہ میں جزوی طور پر سیاسی تسلط بھی قائم ہو جاتا تھا۔ مثلاً فرعون سیسوستریس سوم نے مقامی حکمرانوں کی طاقت و خود مختاری کو حدود میں رکھنے اور اطاعت گزاری کا پابند بنانے کے لیے ساحلی شاہراہ پر یلغار کرنے میں کبھی ہچکچاہٹ سے کام نہ لیا۔ لیکن اس فرعون اور دیگر فراعنة نے کبھی بھی داخلی کنunan اور دیگر علاقوں میں زیادہ دلچسپی نہ لی چنانچہ مصریوں کی عمومی بالادستی کے باوجود مجدو، حضر اور اکوجیسے شہر قلعہ بند شہری، ریاستوں میں تبدیل ہو گئے۔ انیسویں صدی قبل مسح کے اختتام پر آباد کار کو ہستانی علاقے میں داخل ہو رہے تھے اور پھر وہاں نئے شہر تعمیر ہو گئے۔ انیسویں صدی قبل مسح کے اختتام پر نئے آباد کار کو ہستانی علاقے میں داخل ہو رہے تھے اور پھر وہاں نئے شہر تعمیر ہو گئے۔ سیکم ان قلعہ بند کو ہستانی شہروں میں سب سے زیادہ طاقتور ہو گیا۔ اس کا اپنارقبہ سنتیں ایکٹر سے زیادہ تھا۔ مضافات کا ایک وسیع علاقہ بھی اس کے زیر تسلط رہتا۔ جنوبی پہاڑیوں میں حبرون اور یو شلم بھی ترقی کر گئے۔

یہی وہ وقت ہے جب یو شلم تاریخ میں داخل ہوا۔ 1961ء میں ایک برطانوی ماہر آثار

قدیمہ یتھلین کیون نے اس دور کی ایک دیوار دریافت کی۔ سارٹھے چھٹ مولیٰ دیوار اوپل پہاڑیوں کی مشرقی ڈھلوان کے ساتھ ساتھ چلتی ہوئی کیہوں چشمہ تک موجود تھی۔ (1) یتھلین کا کہنا ہے کہ یہ فصیل پہاڑی کے جنوبی کنارے تک اور مغربی ڈھلوان کے ساتھ ساتھ بھی پائی جاتی تھی۔ یہ شمال کی طرف بعد میں

(نقشہ) MAP

بنے والی ایک فصیل میں غالب ہو جاتی ہے۔ یتھلین کو دیوار کے ساتھ ساتھ کھدائی میں برتنا بھی ملے۔ ان کا تعلق اٹھارویں صدی قبل مسح ہے۔ شمال میں شہر انتہائی غیر محفوظ تھا چنانچہ بعد میں وہاں صیہوں کی شہر پناہ تعمیر کی گئی۔ ممکن ہے اٹھارویں صدی قبل مسح میں شہر کے شمال میں کوئی قلعہ بھی موجود ہو۔ اوپل کی مشرقی ڈھلوان میں دیواریں بہت نیچے جا کر بنائی گئی تھیں۔ غالباً جیہوں چشمہ کے لیے زیرز میں سرگنگ تک رسائی ممکن بنانے کے لیے ایسا کیا گیا تھا۔ برطانوی انجینئر چارلس وارن نے یہ سرگن 1867ء میں دریافت کی۔ یہ شہر کے اندر ایک چٹان سے شروع ہو کر آڑی ترچھی نیچے اترتی اور پھر سیدھے جیہوں کے پانی تک پہنچتی جو وہاں ایک اور افقی سرگن کے ذریعے چشمہ سے آ کر ذخیرہ ہو جاتا تھا۔ حماصرے کے دنوں میں سرگن کے دھانے سے گھڑے اور دیگر برتنا لٹکا کر پانی حاصل کیا جاتا ہوگا۔ اسی طرح کے انتظامات مجدو، جزر اور جہون میں بھی پائے گئے ہیں۔ یتھلین کا خیال ہے کہ پانی کی سرگن کانسی کے دور میں زیر استعمال رہتی تھی۔ لیکن زیادہ تر مہارین اس سے اتفاق نہیں کرتے۔ ان کا خیال ہے کہ اس دور کے لوگ اس طرح کی تکنیکی مہارت سے ابھی آشنا نہیں تھے۔ نئی ارضیاتی تحقیق کے مطابق بھی ”وارن کی سرگن“ (وار بز شافت) انسانی ہاتھوں کا کارنامہ نہیں بلکہ چٹان کے ساتھ پایا جانے والا قدرتی گڑھا تھا جسے یو شلم کے قدیم باسیوں نے رد و بدل کر کے طویل بنالیا ہوگا۔ (2)

آباد کار غالباً جیہوں کی قربت کو مد نظر رکھ کر اوپل کی طرف راغب ہوئے تھے۔ اس مقام کی جغرافیائی اہمیت بھی تھی۔ یہ کوہستانی علاقے کی تراویٰ یعنی دامن کوہ میں واقع اور دشت یہوداہ سے متصل تھا۔ اوپل کسی بڑی آبادی کی گنجائش نہیں رکھتا تھا۔ شہر کا رقبہ تقریباً نواکیٹھا۔ اس میں تین تیز عمودی ڈھلوانیں رکھنے والی وادیاں باشندوں کو بھر پور تحفظ مہیا کرتی تھیں۔ مشرق میں وادی قدرون، جنوب میں وادی ہنوم اور مغرب میں مرکزی وادی تھی جو اب زیادہ تر گار سے اٹی پڑی ہے۔ اسے یہودی مورخ فلیویس جوزیفس ”ٹارو پوئین ولی“، یعنی پیغمبر بنانے والوں کی وادی کہتا ہے (3) اگرچہ یہ شہر کنعان کے اہم شہروں میں شمار

نہیں ہوتا تھا لیکن بہت جلد مصریوں کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ 1925ء میں لکسور سے ”ٹھیکریاں“، خردی گئیں۔ انہیں جب دوبارہ جوڑا گیا تو یہ تقریباً 80 طشترياں اور مرتبان بن گئے جن پر قدیم مصری زبان کے حروف کندہ تھے۔ کندہ شدہ لفظ ان ملکوں، قصبوں اور حکمرانوں کے نام تھے جو مبینہ طور پر مصر کے دشمن تھے۔ ان مرتبانوں کو ایک ساحرانہ رسم میں توڑا گیا ہو گا تاکہ ضدی اور سرکش دشمنوں کو زوال آجائے۔ ٹوٹے ہوئے مرتبانوں کا تعلق سیسوسٹرس سوم نامی فرعون کے زمانے سے ہے۔ یہ لگ بھگ 1842-1878 ق م بتا ہے۔ مذکورہ مرتبانوں پر 19 کنعانی قصبوں کے نام کندہ تھے جن میں سے ایک ”روشیتم“ ہے۔ کسی تاریخی ریکارڈ میں یروشلم شہر کا یہ پہلا ذکر ہمارے سامنے آتا ہے۔ اس شہر کے دشمنوں کے نام بھی ان مرتبانوں پر درج ہیں۔ یہ شہزادے یوقرم اور شاشان تھے۔ لعنت اور بد دعاوں کا ذریعہ بنائے گئے کچھ اور مرتبان بھی کھدائی کے دوران برآمد ہوئے ہیں جن کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ یہ ایک صدی بعد بنائے گئے۔ ان کے ذریعے ایک دفعہ پھر یروشلم کو لعنت کا نشانہ بنایا گیا ہے لیکن اس دفعہ توڑے جانے والے مرتبانوں سے معلوم ہوتا ہے کہ شہر پر صرف ایک حکمران ان دنوں قابض تھا۔ دبلے پتلے مرتبانوں کے ٹکڑوں پر درج عبارتوں سے ماہرین نے اندازہ لگایا ہے کہ اٹھارویں صدی قبل مسیح کے دوران یروشلم، کنعان کے قبائلی معاشرے سے ترقی کر کے ایک ایسی سیاسی وحدت کا حصہ بن چکا تھا جس کی شہری آبادیوں کے حاکم مختلف سردار تھے اور ان پر ایک بادشاہ کی حکومت تھی۔ (4)

لیکن آگے چلنے سے پہلے ہم نام کو زیر غور لاتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ شامی دیوتا، شیلیم، سے نسبت رکھتا ہے۔ یہ دیوتا غروب ہوتے ہوئے سورج یا شام کے ستارے کی علامت تھا۔ کنعان پر سیاسی اثرات تو یقیناً مصر کے تھے لیکن مذہبی اور ثقافتی معاملات میں شام کی تقليید کی جاتی تھی۔ حضر، مجد و اور سیکم میں اس دور کے جو معبد دریافت ہوئے وہ بھی قدیم شان طرز تعمیر کے نمونے ہیں۔ ان کا بنیادی نقشہ شام کے شاہی محل جیسا ہے۔ یہ باور کراتے تھے کہ تمام تر حکمرانی دیوتاؤں کی مر ہوں منت ہے۔ ان معبدوں میں عوام اور بالخصوص بے دین لوگوں کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ ہیکل اور قربان گاہ میں مخصوص لوگ جا سکتے تھے۔ بادشاہ کی موجودگی میں کسی کو معبد میں آنے کی اجازت نہیں تھی۔ انہیں صرف دیوتا کے بت کی ایک جھلک دیکھنے کی اجازت تھی جو احاطے کی طرف بننے ہوئے ایک طاقے میں رکھا ہوتا تھا اور ہیکل کے کھلے دروازے میں سے نظر آتا تھا۔ کانسی کے دور کا کوئی معبد یروشلم میں کھدائی کے دوران برآ نہیں ہوا۔ لیکن شہر کا نام بذات خود اس بات کی شہادت ہے کہ لوگوں میں شامی مذہب مقبول تھا۔ مرتبانوں پر کندہ یروشلم کے شہزادوں (سرداروں) کے نام بھی اس اشارہ کرتے ہیں کہ شام کے لوگوں کی طرح یروشلم کے

باشندے بھی مغرب کے سامنے انسل تھے اور انہی کے عقائد و تصورات پر کاربند تھے۔

”روشیلیم“ کا مطلب غالباً ”شیلیم کا تخلیق کردہ“ ہے۔ (5) بحر روم اور مشرق قریب کے قدیم باشندے بستیوں اور شہروں کی تعمیر کو مقدس اور عظیم مذہبی کام سمجھتے تھے۔ کوہ اوپیل کا انتخاب ابتدائی آباد کاروں نے وہاں پانی کی دستیابی اور جغرافیائی اہمیت کی وجہ سے کیا ہوا لیکن شہر کا نام، اپنی تعمیر کو دیوتاؤں کا حکم قرار دیتا ہے۔ اس زمانے میں تمام شہر مقدس مقامات تھے۔ یہ دراصل دیوتاؤں کے ارضی مسکن ہوتے تھے۔ یہ تصور جدید مغرب میں ہمارے لیے یقیناً انوکھا ہے جہاں شہروں میں خدا کو تیاگ دیا گیا ہے اور مذہب کا عمل دخل روز بروز کم ہوتا جا رہا ہے لیکن صدیوں پہلے خانہ بدوشی سے تمدن کی طرف آنے والے انسانوں میں مقدس سر زمین کا تصور پایا جاتا تھا۔ اسے وہ جذباتی اور روحانی دنیا میں اپنی شاخت قرار دیتے تھے۔ مرسیا ایلیڈ نے مقدس سر زمین کے مطالعہ کی بنیاد رکھی تھی۔ اس کا کہنا ہے کہ مقدس مقام کے احترام نے دنیا بھر میں پائے جانے والے تمام اعتقادات میں سب سے پہلے جنم لیا۔ (6) یہ تمام تہذیبوں میں پایا جاتا ہے اور ابتدائی مذہبی عقیدہ ہے۔ یہ عقیدہ کہ کچھ مقامات بہت مقدس ہیں اور انسانی رہائش کے لیے اس لیے قابل ترجیح ہیں کہ وہاں روحانی تسکین ملتی ہے نہ تو کسی علمی تحقیق کا نتیجہ تھا اور نہ کائنات کی فطرت میں مابعد الطبیعیاتی تحقیق کا شاخصانہ بلکہ اس احساس تحفظ کا نتیجہ تھا جو جنگلوں اور پہاڑوں میں رہنے والے انسانوں کو چار دیواری نے بخشتا تھا۔ جب ابتدائی مردوں اور عورتوں نے اپنی رہائش کے لیے اپنے اردو گرد نظر دوڑائی تو وہ ایسے مقامات کی طرف کھینچے چلے گئے جو بقیہ تمام مقامات سے ہر طرح مختلف تھے۔ یہی تجربہ اپنی دنیا کے بارے میں ان کے تصور کی بنیاد بنا اور پھر انسان کے لاشعور کی گہرائیوں میں اتر گیا۔ اب تک ہماری سائنسی عقلیت پسندی بھی اس قابل نہیں ہو سکی کہ مقدس مقام کے قدیم تصور کو ختم کر سکے۔ جغرافیائی تقدیس کے قدیم نظریات اب بھی یو شلم کی تاریخ کو متاثر کر رہے ہیں اور وہ لوگ بھی انہیں اپنائے ہوئے ہیں جو خود کو مذہبی نہیں سمجھتے۔ انسانوں میں تقدس سر زمین کا تصور وقت کے ساتھ ساتھ ایک مخصوص صورت اختیار کر گیا اور ان کے مباحثوں میں کسی شہر کا خصوصی درجہ جیسا کہ ”یو شلم“ کے بارے میں پایا جاتا ہے کچھ بنیادی انسانی ضرورتوں کی بنیاد پر استوار ہے۔ (7) یہاں تک کہ وہ لوگ جو کسی روایتی مقدس شہر میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے اور کسی مافوق الغطرت عقیدے سے وابستہ نہیں وہ بھی کسی نہ کسی مقام کو پسند کرتے ہیں اور اسے برقرار اور بحال رکھنا چاہتے ہیں۔ ایسے مقامات ہمارے لیے مقدس ہیں کیونکہ ان سے ہماری ذات وابستہ ہے۔ ممکن ہے وہ کسی ایسے گھرے تجربے سے متعلق ہوں جس نے ہماری زندگی بدل کر رکھی دی ہو۔ ہمارے ابتدائی بچپن کی یادوں سے ان کا تعلق ہو یا پھر کسی ایسے فرد سے ہو جو ہمیں بہت محبوب یا بہت اہم ہو۔ جب ہم

ایسے کسی مقام پر جاتے ہیں تو داید اپنے اس دور کو یاد کرتے ہیں جو ہم نے وہاں گزارا ہوتا ہے۔ ایک ایسا تجربہ جو عارضی طور پر ہمیں قائل کر دیتا ہے کہ ظالمانہ اور پریشان کن فطرت کے درمیان ہماری دنیاوی موجودگی کچھ اور معنی اور کچھ اور قدر و قیمت بھی رکھتی ہے۔ لیکن اس بصیرت کا اظہار عقلی اصطلاحوں میں کرنا مشکل ہے۔

قدیم دنیا میں لوگ اپنی مقدس سر زمین کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے تھے کہ دنیا کو دیوتاؤں نے تخلیق کیا ہے چنانچہ یہ غیر جانبدار علاقہ نہیں۔ ارضی منظر بنی نوع انسان کے لیے ایک پیغام تھا۔ جب وہ کائنات پر غور کرتے تو مردوں اور عورتوں کو اپنی موجودگی کی ایک خاص سطح کا ادراک ہوتا جو ان لغزشوں اور مجبوریوں سے بالاتر تھی جو ان کی اپنی زندگیوں میں انہیں گھیر رہتی۔ یہ ادراک ایک بھرپور اور زیادہ طاقتوں جہت کی نمائندگی تھا۔ ایک ایسی حقیقت جس سے وہ پہلے مانوس اور آشنا نہیں ہوتے تھے۔ مقدس سر زمین سے اپنے تعلق کے اظہار کے لیے وہ اس کا تشخص وضع کر لیتے۔ ہر مقدس سر زمین کی نسبت کسی مافوق الفطرت ہستی یا دیوی دیوتا سے ہوتی تھی۔ دیویوں اور دیوتاؤں کی ایسی تجسم کی جاتی جیسے ان کے اپنے جسم تھے۔ چونکہ وہ اس مافوق الفطرت عضر کو فطرت کی دنیا میں محسوس کرتے تھے چنانچہ دیوتا سورج، ہوا، سمندر، بادل، بارش سے وابستہ تھے۔ ان دیوتاؤں کی قوت و جبروت کی کہانیاں بھی وضع کر لی گئی تھیں۔ ان کہانیوں کا مقصد محض واقعات بیان کرنا نہیں بلکہ یہ اس پر اسراریت اور ناقابل فہم صورت حال کو بیان کرنا ہتا تھا جن کا تجربہ انہیں اس دنیا میں ہوتا تھا۔ کائنات میں پائی جانے والی قوتوں کے مالک ان دیوی دیوتاؤں کا قرب اس نا پائیدار اور غیر یقینی دنیا میں تحفظ کراحتا ہے اور اسے اپنے پسندیدہ اور بھی خواہ دیوی یا دیوتا کے سامنے میں رہنا چاہتے تھے۔ یہ سایہ ہر جگہ دستیاب نہیں ہوتا تھا بلکہ ایسے مقامات پر رہنے سے ملتا تھا جس کی نشاندہی خود وہ دیوتا یا ماورائی قوت کیا کرتی تھی۔ یہی مذہبی جتنو تھی جس کا ہدف ہمیشہ سے ایک تجربہ رہا ہے نہ کہ پیغام۔۔۔ ہم چاہتے ہیں کہ خود کو اقتضاً زندہ محسوس کریں۔ اپنے انسان ہونے کی استعداد و صلاحیت کو مکمل کریں۔ اس طرح زندہ رہیں کہ کائنات کے گھرے بھاؤ سے ہم آہنگ ہوں۔ اس آسودہ تر زندگی کی تلاش۔۔۔ طاقتوں اور غیر فانی دیوتاؤں کی اساطیر میں یا پھر جدید مذاہب میں موجود رہی ہے۔ لوگ چاہتے تھے کہ فانی اور بے معنی دنیاوی تجربے کے بعد ایک ایسی حقیقت کو پائیں جو ان کی انسانی فطرت کی تکمیل کرے۔ قدیم دنیا میں یہ سب کچھ مافوق الفطرت عضر یا خدا سے رابطہ اور تعلق کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ لوگ سمجھتے تھے کہ اس رابطہ کے بغیر رہنا، زندگی کو بے یار و مددگار بنا دیتا تھا۔ (8)

ایلیڈ کا کہنا ہے کہ از منہ قدیم کے لوگ صرف ایسی جگہوں پر آباد ہونا چاہتے تھے جہاں ماورائی

قوت نے ایک بار اپنا ظہور کیا ہوا اور اس رکاوٹ کو توڑ دیا ہو جو دیوتاؤں اور انسانوں کے درمیان حائل ہے۔ شاید یہ مسلم دیوتا نے کوہ اوپلیل پر اپنا آپ ظاہر کیا ہوا اور اس سرزی میں کو بالخصوص اپنا قرار دیا ہو۔ چنانچہ لوگ اس مقصد اور یقین کے ساتھ وہاں جاتے ہوں گے کہ دیوتا سے رابطہ اس شہر اور اس مقام پر ممکن ہے۔ لیکن ماورائی قوت اس عالم فانی میں واہموں، خیالی پیکروں اور مافوق الفطرت ہستیوں میں ہی ظاہر نہیں ہوتی تھی۔ جو چیز ماحدول سے مختلف اور فطری ضابطے کے برعکس ہوتی وہ مذہبی اسرار اور خدا کا مظہر ہوتی تھی۔ ایک چٹان یا وادی جو نہایت خوبصورت یا شاندار ہوتی وہ قدیم انسان کے لیے اس بات کا اشارہ ہوتی تھی کہ یہاں خدا موجود ہے کیونکہ یہ بقیہ ماحدول سے مختلف ہے۔ اس کے خدوخال اور ظاہری صورت واضح طور پر کہتے کہ ”یہ کچھ اور چیز ہے۔“ (9) نامعلوم، اجنبی یہاں تک کہ مکمل چیزیں بھی قدیم انسان کو مختلف محسوس ہوتی تھیں۔ مثلاً پہاڑ میدانوں کے برعکس اونچے اور سر بلند تھے۔ قدیم انسان کے لیے یہ ماورائیت کی علامت تھے۔ ان کی چوٹیوں پر پہنچ کر عبادت گزار محسوس کرتے تھے کہ وہ ایک ایسے مقام پر آگئے ہیں جو زمین اور آسمان کے درمیان واقع ہے۔ میسونو ٹیمیا میں معبدوں کے عظیم مینار اس طرح تعمیر کئے جاتے تھے کہ ان میں پہاڑی چوٹیوں کی جھلک دکھائی دے۔ پتھروں کے بنے سات زینے سات آسمانوں کی نمائندگی کرتے تھے۔ ان پر چڑھنے والے زائرین تصور کرتے تھے کہ وہ کائنات میں سے گزر رہے ہیں اور چوٹی پر پہنچ کر وہ اپنے دیوتاؤں سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ (10) شام زیادہ تر پہاڑی علاقہ ہے۔ چنانچہ مصنوعی پہاڑیاں بنانے کی ضرورت نہیں تھی۔ حقیقی پہاڑ بذات خود مقدس مقامات کا احساس پیدا کرنے کے لیے کافی تھے۔ یروشلم کی تاریخ میں سب سے زیادہ اہمیت ”کوہ زیفون“ کو ملی۔ اسے اب جبل الاقرائی کہتے ہیں۔ یہ یوگیرت سے 20 میل دور شمال میں اور وٹس کے دہانے پر واقع ہے۔ (11) کنعان میں کوہ ہھرمون، کوہ کرمل اور کوہ تابور بھی مقدس مقامات تھے۔ عبرانی مذہبی گیتوں کے مطابق کوہ صیہون جو کوہ اوپلیل کے شمال میں (یروشلم میں) واقع ہے، ایک مقدس مقام تھا۔ اس پہاڑ کے اصل خدوخال اب نہیں دیکھے جاسکتے کیونکہ بادشاہ ہیرودیس نے پہلی صدی قبل مسیح میں یہودیوں کا معبد بنانے کے لیے جو وسیع و عریض پلیٹ فارم بنایا تھا۔ اس میں یہ پہاڑ چھپ گیا ہے۔ اپنی قدرتی حالت میں ممکن ہے کہ کوہ صیہون اپنے ارگرد کے پہاڑوں میں اس طرح سر بلند ہو کہ سب میں عظیم و مقدس دکھائی دیتا ہو۔

جب ایک دفعہ کوئی مقام ”مقدس“، ”محسوس“ ہو جاتا تو پھر یہ اپنے غیر مقدس ماحدول سے پوری طرح مختلف نظر آتا تھا۔ چونکہ خدا نے صیہون پر اپنا ظہور کیا تھا چنانچہ یہ جگہ عقیدتوں کا مرکز ہونے کے ساتھ ساتھ زمین کا مرکز بھی قرار دے دی گئی۔ یہ مرکزیت آپ جیو میسٹری کے کسی قاعدے کیلئے سے ثابت نہیں کر

سکتے۔ لیکن بیو شلم کے باشندوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھی۔ قریب ہی حبر و بن بھی مقدس مرکز سمجھا جاتا تھا۔ مقدس کی اپنی منطق ہوتی ہے۔ اسی طرح اس وقت بھی کوئی مسئلہ نہ پیدا ہوا جب ریوں یعنی زیور کے عالموں نے دعویٰ کیا کہ کوہ صیہون دنیا میں بلند ترین مقام ہے حالانکہ ”پیغمبر بنانے والوں کی وادی“ جسے اب وادی ال وعد کہتے ہیں، کے دوسری طرف مغربی پہاڑی واضح طور پر کوہ صیہون سے اوپر تھی۔ دراصل وہ شہر کی طبعی جغرافیائی بلندی کی بات نہیں کر رہے تھے بلکہ روحانی نقشے میں اس کی فرعت اور عظمت و مرتبت کی بات کر رہے تھے۔ کسی بھی اور مقدس پہاڑ کی طرح جہاں ماورائی قوت نے اپنا ظہور کیا ہو، کہو صیہون بھی نہایت متبرک سمجھا جاتا تھا۔ یہاں پہنچ کر لوگ اپنے آپ کو آسمان یا عالم، دہشت کے قریب محسوس کرتے تھے۔ اسی وجہ سے یہاں کی دنیا کا ”مرکز“ تھا۔ یہاں مقامات میں سے ایک تھا جہاں خدا سے رابطہ ممکن تھا۔ اس خدا سے جس نے ان کی زندگیوں کو حقیقی اور با مقصد سمیت دی تھی۔

ابتدائی معاشروں میں لوگ صرف وہاں بستیاں بساتے تھے جہاں اس طرح کا رابطہ ممکن ہوتا تھا۔ لیکن خانہ بدوش چونکہ مسلسل سفر میں رہتے تھے اس لیے وہ ماورائی قوت سے رابطے کا ذریعہ اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ ایلیڈ نے لکھا ہے کہ آسٹریلیا کا آچلپا قبیلہ اس وقت خوف و دہشت کا شکار ہو گیا جب ان کا وہ مقدس لٹھٹوٹ گیا جسے وہ اپنے ساتھ لیے پھرتے تھے۔ آچلپا کے نزدیک یہ لٹھان کے اور مقدس قوت کے درمیان رابطے کا ذریعہ تھا۔ جوہنی وہ لٹھٹوٹا وہ دہشت زده ہو کر لیٹ گئے اور مرنے کا انتظار کرنے لگے۔ (12) ہم دراصل معنی طلب مخلوق ہیں جب ہم اپنی سمت اور جہت گناہیتھے ہیں تو پھر سمجھنہیں پاتے کہ کس طرح زندگی گزاریں یا اپنے آپ کو اس دنیا میں کہاں رکھیں؟ یہی وجہ ہے کہ قدیم دنیا میں شہر معبدوں اور مزاروں کے گرد تعمیر کئے جاتے تھے۔ انہیں خدا کی موجودگی کا مقام اور اس سے رابطہ کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ یہ مقدس مقامات لوگوں کے لیے ہوں حقیقت تھے اور ان کے منتشر و جو دو کو مکمل کرتے تھے۔ خدائی قوت کا تجربہ خوف اور دوسری جبلی کیفیات میں ہوتا تھا۔ جرمن تاریخ دان روڈلف اوٹو اپنی کلاسیک کتاب ”دی آئیڈ یا آف دی ہولی“ میں کہتا ہے کہ ماورائی قوت یا روح القدس کو انسان نے خوف و دہشت کے نتیجہ میں قبول کیا لیکن یہ تصور مسحور کر دینے عالا بھی تھا اور ناقابل مزاجمت کشش رکھتا تھا کیونکہ یہ کچھ ایسی چیز تھی جو بہر حال انسانوں کی ضرورت تھی۔ اپنے آپ کو اس طاقت و رحمت سے وابستہ کر کے ہی انہیں یقین ہوتا تھا کہ ان کے معاشرے زندہ رہ سکیں گے۔ تہذیبیں فانی تھیں۔ شہر کم و بیش راتوں رات صفحہ ہستی سے مت جایا کرتے تھے جیسا کہ کانسی کے دور میں فلسطین میں ہوتا رہا ہے۔ چنانچہ وہ اس وقت تک صبر و استقامت کا مظاہرہ نہیں کر سکتے تھے جب تک دیوتاؤں کی انتہائی طاقت اور موثر پشت پناہی کا یقین نہ ہوتا اور یہ تعلق ان سے کسی نہ

کسی درجہ پر قائم کر کے ہی حاصل ہوتا تھا۔

بعض اوقات بالا ترقوت کی تلاش اور کسی مقدس کا عقیدہ اپنی گم گشته جنت کی یادوں سے وابستہ ہوتا تھا۔ تقریباً ہر قوم اور ثقافت میں ایک ایسے سنہری دور کا مفروضہ پایا جاتا ہے جب دیوتاؤں کے ساتھ رابطہ آسان اور قریبی تھا اور جب بالا ترقوت کہیں اور دراز بھٹ پڑنے والی قوت محسوس نہیں ہوتی تھی بلکہ روز مرہ زندگی کی ایک حقیقت تھی۔ بنی نوع انسان کے بے پناہ قوتیں حاصل تھیں، تب کوئی یماری نہ تھی۔ موت نہ تھی، کوئی خلفشار نہ تھا۔ چنانچہ لوگ اسی جنت میں واپس جانے کی تمنا کرتے تھے جہاں رحمتیں برکتیں اور لطف و انبساط تھا۔ لوگ سمجھتے تھے کہ زندگی اس طرح کی ہونی چاہیے جیسا کہ ان کی گم گشته جنت میں تھی۔

(13) آج ہم کسی ارضی جنت یا باغِ عدن پر یقین نہیں رکھتے لیکن ایسی زندگی کی خواہش ضرور کرتے ہیں جو موجودہ ناقص زندگی سے مختلف اور بہتر ہو، یعنی ارضی جنت میں بسر ہونے والی مثالی زندگی جیسی ہو۔ ایک جملی یقین ہر جگہ موجود ہے کہ زندگی کا مقصد بہر حال یہ نہیں جیسا کہ موجودہ صورت میں پایا جاتا ہے۔ ہم اس بات کے متنہ ہیں جو ہونی چاہیے لیکن موجود نہیں۔ ہم زمینی زندگی کی عبوری نوعیت پر نوحہ کنال ہیں اور موت پر غصب ناک ہو جاتے ہیں۔ ہم ایک ایسی دنیا کے تصور سے مسحور ہیں جس میں مکمل ہم آہنگی ہو، جہاں ہم اپنے ماحول سے پوری طرح مطابقت رکھتے ہوں۔ ہمیں اپنے ماحول سے نبرد آزمائہ ہونا پڑے۔ جہاں ماحول اور فطرت ہمیں زیر نہ کر سکے۔ دراصل ہم مکمل ترین تعقلق کے خواہشمند ہیں۔ ایسی دنیا کی آرزو، ایسی جنت کی تلاش میں ہیں جو ہماری رسائی میں نہیں۔ جو پھر نہ حاصل ہونے کے لیے گم ہو چکی ہے۔ اس کی خواہش آج ہمارے گیتوں میں جھلکتی ہے۔ ہماری کہانیوں میں شامل ہے۔ سیاستدانوں اور فلاسفوں کے یوں پیاری تصورات میں موجود ہے۔

نفسیات دان یادوں کی اس بارات کو علیحدگی کے اس درد سے منسوب کرتے ہیں جو ہم پیدائش کے قوت محسوس کرتے ہیں۔ جب ہم شکم مادر سے ہمیشہ کے لیے نکال دیئے جاتے ہیں۔ مذہبی عناصر سے جنت سے نکالے جانے کے واقعہ سے منسوب کرتے ہیں جو انسانوں کے اجتماعی شعور کے کسی گوشے میں مسلسل موجود ہے۔ آج بہت سے لوگ جنت کے سکون کو آرٹ، فنیات اور جنس میں تلاش کرتے ہیں۔ قدیم معاشروں میں لوگ اسے ایسی جگہ پر رہ کر حاصل کرنا چاہتے تھے جہاں ان کے ایمان و عقیدہ کے مطابق گم گشته تکمیل پھر سے میرا آ سکتی تھی۔

پیشتم میں اٹھارویں صدی قبل مسیح میں جس طرح کی مذہبی زندگی پائی جاتی تھی آج ہمیں اس کا کوئی براہ راست علم نہیں۔ آثار قدیمہ میں ملنے والے مرتباںوں پر پیشتم کے کندہ تذکرہ کے بعد کا کچھ عرصہ

تاریکی میں گم ہے۔ یہ عرصہ کنعان میں خوشحالی کا زمانہ تھا۔ ستر ہویں صدی قبل مسیح میں فراعنة مصر اپنے داخلی مسائل میں اس طرح الجھے ہوئے تھے کہ انہیں غلام (کنعان) کی طرف توجہ دینے کی فرصت ہی نہیں تھی۔ چنانچہ یہ غلام آسودہ ہو گیا۔ مصر کی جانب سے کوئی جارحانہ پیش قدمی نہیں تھی۔ مقامی انتشار موجود نہیں تھا۔ چنانچہ مقامی ثقافت اور سیاست خوب پھلی پھولی۔ کنunan کے کچھ شہر مکمل شہری ریاستوں میں تبدیل ہو گئے۔ کھدائی کے دوران مجدو، حضر اور سیکم کے مقامات سے اس زمانے کی عمارتیں، فرجنجر، برلن اور زیورات برآمد ہوئے ہیں لیکن یو شلم سے پندر ہویں صدی قبل مسیح کے برلن یا کوئی اور آثار نہیں مل سکے۔ ایسا لگتا ہے کہ ان برسوں کے دوران شہر کا وجود ہی نہیں تھا۔

یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ چودھویں صدی قبل مسیح سے پہلے یہ مقام دوبارہ آباد ہوا تھا یا نہیں۔ تاہم اس زمانہ میں مصر نے کنunan میں پھر سے اپنی بالادستی قائم کر لی تھی اب فراعنة مصر انطاولیہ میں نئی طلبی سلطنت اور بالائی میسو پوٹیمیا میں حوریوں کی متانی سلطنت سے نبرد آزماتھے۔ انکے لیے ضروری تھا کہ کنunan کا درمیانی ملک موثر طریقے سے ان کے تسلط میں رہے۔ 1486 قبل مسیح میں فرعون تھت مس سوم نے کنعنیوں اور شامی حمرانوں کی ایک بغاوت مجدو میں کھلی اور غلام کنunan کو پوری طرح اپنی عملداری میں لے لیا۔ ملک کو چار انتظامی صوبوں میں تقسیم کیا گیا۔ شہری ریاستوں کے حکمران فرعون کے منصب دار بن گئے وہ ذاتی حلف کے تحت فرعون کے وفادار اور باج گزار بنے۔ وہ ہر سال ایک خطیر رقم باج گزاری میں دینے پر مجبور ہوئے۔ لیکن اس کے جواب میں انہیں جس قدر مدد اور اعتمت کی ضرورت تھی، فرعون اس کے لیے تیار نہ تھا۔ اس کے باوجود یہ منصب دار اب بھی بھر پورا داخلی خود مختاری رکھتے تھے۔ مصر کے پاس پورے کنunan کو قابو میں رکھنے کا کوئی ذریغہ نہ تھا۔ ادھر مقامی حکمران اپنی فوج بناسکتے تھے۔ ایک دوسرے کے خلاف تصادم میں کوڈ پڑتے تھے۔ دوسری ریاستوں کے علاقے چھین کر اپنی قلمرو کو وسیع کر لیتے تھے۔ چنانچہ دوسری بڑی طاقتیوں نے اب کنunan کی طرف حریصانہ نظریوں سے دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ متانی ریاست کے حوریوں نے پندر ہویں صدی قبل مسیح کے آغاز میں ہی اپنے آپ کو مستحکم کر لیا تھا۔ ان لوگوں کو بائبل میں حوری یا حوی کہا گیا۔ مقامی لوگوں کے برعکس یہ لوگ آریائی نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ اگرچہ یہ لوگ فاتحین کی صورت میں نہیں آئے تھے لیکن انہوں نے اس طرح اپنے گھرے اثرات مرتب کئے کہ مصریوں نے کنunan کو حوریوں کی سر زمین کھانا شروع کر دیا۔ حوریوں نے کنunan کی شہری ریاستوں میں طاقتور مناصب حاصل کر لیے تھے۔ وہ مقامی لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہتے اور انہیں اپنی عکادی زبان سکھا دی۔ چنانچہ یہ زبان سرکار دربار کی زبان بن گئی اور خط منجی میں لکھی جانے لگی۔

حوریوں کا اثر و رسوخ یروشلم میں بھی موجود تھا۔ (14) چودھویں صدی قبل مسیح میں یروشلم کنعان کی ایک طاقتور ریاست بن چکا تھا۔ تاہم یہ ریاست، مجد و اور حضر سے کچھ مکمل اہمیت رکھتی تھی۔ اس کا علاقہ اب سیکم اور جذر تک پھیل چکا تھا۔ اس کا حکمران لبیدی ہپا تھا۔ یہ نام حوریوں میں رائج تھا۔ اس دور کے یروشلم کے بارے میں ہماری معلومات کا ذریعہ و تختیاں ہیں جن پر خط نجی میں عبارتیں کندہ ہیں۔ یہ تختیاں طل امرنا کے مقام سے 1887ء میں برآمد ہوئیں۔ قرین قیاس یہ ہے کہ یہ تختیاں فرعون آمن ہوتپ سوم (1349-1386 قم) اور اس کے بیٹے آخن آتن 1334-1350 قم) کی سرکاری دستاویز تھیں۔ یہ دستاویز کنunan کے مقامی حکمرانوں کے 350 خطوط پر مشتمل ہیں جو انہوں نے اپنے حاکم اعلیٰ، فرعون مصر کو لکھے تھے۔ ان سے پتہ چلتا ہے کہ ان دونوں پورا ملک خلفشار میں مبتلا تھا۔ تمام شہری ریاستیں ایک دوسرے سے برس پیکار تھیں۔ مثلاً سیکم کا حکمران لیب آئیوسفا کی کے ساتھ توسعی پسندی کی پالیسی اپنائے ہوئے تھا۔ اس نے اپنی قلمرو کو شمال میں بحر گلیلی تک اور مغرب میں غزہ تک وسیع کر لیا تھا۔ ان مکتبات میں مقامی حکمرانوں نے داخلی دشمنوں کی شورشوں کی بھی شکایات بھی درج کی تھیں اور فرعون سے مدد کی درخواست کی تھی لیکن فرعون کنunan کے خلفشار سے ناخوش نہیں تھا کیونکہ یہ خلفشار مصری بالادستی کے خلاف کنunanی ریاستوں کے اتحاد میں رکاوٹ بنا ہوا تھا۔

(نقشہ) MAP

طل امرنا سے ملنے والے مکتبات میں سے چھ مکتوب یروشلم کے حکمران ابیدی ہپا کی طرف سے تحریر کردہ ہیں۔ یہ حکمران کنunanی ریاستوں کے زیادہ کامیاب حکمرانوں میں شمار نہیں کیا جاتا تھا۔ وہ فرعون کے ساتھ اپنی وفاداری کا اظہار مبالغہ آرائی کے ساتھ کرتے ہوئے اپنے دشمن کے خلاف مدد کی درخواست کرتا ہے۔ یہ مدد سے کبھی نہ مل سکی۔ چنانچہ سیکم کے خلاف اس کی مزاحمت دم توڑ گئی اور حلیفوں سے محروم ہونے کے بعد وہ سر گلوں ہو گیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یروشلم شہر میں بھی شورشیں پا ہوتی ہیں۔ لیکن ابیدی ہپا نہیں چاہتا کہ مصری سپاہی یروشلم میں براہ راست بھیجے جائیں۔ کیونکہ اس سے پہلے نا تجربہ کا را درکم تعداد مصری سپاہیوں نے اس کے محل میں زبردستی داخل ہو کر اسے قتل کرنے کی کوشش کی تھی چنانچہ وہ فرعون سے درخواست کرتا ہے کہ براہ راست یروشلم میں سپاہی بھیجنے کی بجائے جزر، لیکس اور اسقلون میں مک بھیجی جائے۔۔۔ ”اگر مصر سے مدد نہ آئی تو یروشلم کی سر زمین یقینی طور پر دشمنوں کے قبضہ میں چلی جائے گی۔“

(15)

ایبدی ہپا کے پاس یقینی طور پر کوئی فوج نہیں تھی اور پھر اس دور میں یہ کوہستانی ملک تیزی سے غیر عسکری علاقے بن رہا تھا۔ (16) خانہ جنگی اور شورشوں سے تنگ آ کر لوگ نقل مکانی کر رہے تھے۔ مثلاً قلعہ بند شہر شیلوں بے آباد ہو چکا تھا۔ بالائی مقامات کی 80 فیصد بستیاں تیرھویں صدی قبل مسح کے دوران غائب ہو گئی تھیں۔ کچھ علاما کا خیال ہے کہ خلفشار کے اسی دور میں وہ لوگ یو شلم میں آباد ہو چکے تھے جنہیں باہم بیوی کہتی ہے۔ دوسرے ماہرین کا دعویٰ ہے کہ بیوی جو حیوں کے بہت قریب تھے، حیوں کے زوال تک ملک میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ حیوں کی مملکت 1200 قم میں موجودہ ترکی کے شمالی علاقہ میں پائی جاتی تھی۔ (17) چنانچہ یہ بات قرین قیاس نہیں کہ بیوی حیوں کے زوال کے بعد وہاں آئے۔ آثار قدیمہ کے شواہد ابھی تک اس امر کی نشاندہی نہیں کرتے کہ کافی کے دور (1200-1550 قم) کے اوپر رکھتے تھے اور شہر کے باشندوں میں کوئی تبدیلی آئی تھی۔ عموماً سمجھا جاتا ہے کہ بیوی خاندان، اشرافیہ سے تعلق رکھتے تھے اور شہر کے باسیوں سے الگ تھلگ ایک گڑھی میں رہتے تھے۔ (18) چنانچہ قوی امکان یہی ہے کہ ان بیویوں نے اوپل پر پرانی قلعہ بندیوں کی مرمت کر کے انہیں پھر سے مستحکم کیا ہو۔ انہوں نے ہی پہاڑ کی چوٹی اور دیوار کے درمیان مشرقی ڈھلوان پر ایک نئی بستی آباد کی۔ کیتھلین نے پھر وہی چبوترے بھی دریافت کئے ہیں۔ اس کا کہنا ہے کہ انہی چبوتروں کی بدولت عمودی ڈھلانوں پر مشتمل یہ علاقہ رہائش کے قابل ہوا تھا۔ چنانچہ دم گھونٹنے والے تنگ و تاریک مکانوں اور تیز ڈھلوانی گلیوں کی جگہ بہت تعمیرات وجود میں آئیں۔ کیتھلین کا دعویٰ ہے کہ اس کام میں طویل عرصہ لگا۔ یہ کام چودھویں صدی قم کے وسط میں شروع ہوا لیکن تیرھویں صدی قم کے اوائل تک مکمل نہ ہوا تھا۔ کچھ دیواریں تو 33 فٹ تھیں اور پھر تعمیر کے کام میں قدرتی آفات بھی مزاحم ہوتی رہیں۔ ان میں زلزلے اور زمینی کشاد شامل رہے۔ (19) یعنی تعمیرات رہائش سہولیات کے ساتھ ساتھ شہر کے دفاع کے کام بھی آتی تھیں۔ کیتھلین کا خیال ہے کہ یہ وہی ملو ہے جس کا ذکر باہم میں ہے۔ (20) چونکہ یہوداہ کے کچھ آخری بادشاہوں نے ملوکی مرمت کو ضروری قرار دیا تھا، چنانچہ یہ عسکری نوعیت ہی رکھتے ہوں گے۔ اوپل کی چوٹی پر یہ شہر کے قلعے کا حصہ بھی ہوں گے۔ ماہرین آثار قدیمہ کا خیال ہے کہ ”صیہون“ سے مراد پورا یو شلم شہر نہیں بلکہ یہ نام اس قلعے کا یہ ہے جو شہر کو غیر محفوظ سمت سے تحفظ مہیا کرتا تھا۔

طل امرنا دور میں یو شلم، شیلم یعنی اپنے بانی دیوتا کا وفادار دکھائی دیتا ہے۔ ایبدی ہپا فرعون کے نام اپنے مکنوبات میں یو شلم کی ریاست کے دار الحکومت کا ذکر کرتا ہے جس کا نام بیت شلمانی (شیلم کا گھر) ہے (21) لیکن باہم کے علاما کا کہنا ہے کہ حوری، شہر میں ایک نیا دیوتا لے آئے جو طوفان کا دیوتا۔ بعل

۔۔۔ تھا۔ شام کے ساحل پر واقع یوگیرت (زگرت) کے لوگ اسی دیوتا کی پرسش کرتے تھے۔ (22) ہمیں مذہب بعل کے پجارتیوں اور عقیدت مندوں کے رسوم و رواج کی تفصیلات ان تختیوں سے ملتی ہیں جو 1928ء میں راس شمرہ (قدیم زگورت) سے برآمد ہوئیں۔

بعل کے بارے میں بھی کچھ باتوں کا تذکرہ ہو جائے کیونکہ اس نے یو شلم کی روحانیت پر گہرے اثرات مرتب کئے۔ بعل ایک طاقتوں دیوتا تھا لیکن شام کے دیوی دیوتاؤں کا سردار نہیں تھا۔ اس کا باپ ایل تھا جس کا تذکرہ بابل میں بھی موجود ہے۔ ایل، دنیا کو زرخیزی مہیا کرنے والے وعظیم دریاؤں کے سکنم پر ایک پہاڑ پر خیسے کے معبد میں رہتا تھا۔ تمام دیوتا یہاں ہر سال مجلس شوریٰ میں شرکت کرتے اور کائنات کے قوانین وضع کرتے۔ ایل، قانون، ضابطے اور زرخیزی کا سرچشمہ تھا جس کے بغیر کوئی انسانی تہذیب زندہ نہیں رہ سکتی تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دوسرے بڑے دیوتاؤں کی طرح ایل کو بھی فراموش کر دیا گیا۔ اس کی جگہ لوگوں نے اس کے طاقتوں بیٹھے بعل کی عبادت شروع کر دی۔ بعل بادلوں پر سوار ہو کر آسمان سے بھلی کے کونڈے پھینکتا تاکہ بارش ہو اور جھلسی ہوئی زمین پھر سے سر سبز ہو جائے۔

بعل کو زمین کی زرخیزی اور ثمر باری کے لیے موت سے لڑنا پڑا تھا۔ موت اور فنا کا دیوتا یہم تھا۔ مشرق قریب میں زندگی کو بعض اوقات انتشار، تاریکی اور ہلاکت کی قوتوں کے خلاف مایوس کن جنگ سے واسطہ پڑتا تھا۔ تمن، تہذیب اور تخلیق کا حصول بڑی بڑی رکاوٹوں اور مصالب پر قابو پا کرہی ممکن ہوتا تھا۔ پروہت، لوگوں کو داستانیں سناتے تھے کہ کس طرح تخلیق کائنات کے وقت خیر اور شر کے دیوتاؤں کے درمیان خوفناک تصادم ہوئے جن کے نتیجہ میں تاریکی میں سے روشنی اور انتشار میں سے ترتیب نے جنم لیا۔ عظیم دیوتاؤں نے کس طرح کائنات کے بے ہنگام اور بے لگام عناصر کو منظم اور پابند بنایا۔ بابل میں پجارتی نوجوان جنگجو دیوتا مروک کی اس جنگ کی یادمناتے جس میں اس نے سمندر کے عفریت تیامت کو قتل کیا۔ اس کے جسم کو چیر کر دوڑھے کیا اور دنیا تخلیق کی۔ اسی طرح کی داستانیں بعل سے بھی منسوب تھیں۔ بعل کی دیو مالا کے مطابق اس نے سات سروں والے سمندری عفریت لوتان سے جنگ کی۔ عبرانی میں اسے لیویا تین کہتے ہیں۔ دنیا کی سبھی ثقاںتوں میں ڈریگین، عفریت اور شیطان برائی اور بتاہی کی علامت کے طور پر موجود ہے۔ لوتان کو قتل کر کے بعل نے انتشار و افتراق کو روک دیا اور پھر زندگی۔ انسانوں اور دیوتاؤں کی زندگی نے جنم لیا۔ بعل کی داستان فنا، بتاہی اور ابدی ہلاکت کے خوف کا ذکر کرتی ہے جو ابتدائی تہذیب کے دنوں میں خاص طور پر انسانوں کو اپنی گرفت میں رکھتا تھا۔

اسی طرح کی خوف و دہشت کی فضابعل کی دوسری داستانوں میں بھی محسوس کی جاسکتی ہے۔ ان

میں بھی سمندر اور صحرائے عفریت پائے جاتے ہیں۔ شکست دریخت کی یہ دونوں فطری قوتیں مشرق قریب کے قدیم شہروں کی بقا کے لیے ہمیشہ خطرہ بنی رہتی تھیں۔ سمندر ہر اس چیز کی نمائندگی کرتا تھا جو متمدن دنیا میں نہیں تھی اور وہ اس سے خوفزدہ رہتی تھی۔ سمندر بیکر اس تھا۔ اس کی کوئی شکل نہیں تھی یہ کھلا، وسیع، ہولناک اور غرق کر دینے والا تھا۔ اسی طرح بخرا دربے آب و گیاہ صحرائے پھیل کر زرخیز زمینوں کو ہڑپ کر لیا کرتا تھا۔ انسان اس سے بھی خوف زدہ رہتا تھا۔ صرف سرسبز اور زرخیز میں ہی انسانی رہائش کے قابل تھی چنانچہ صحراموت اور ہلاکت کی نمائندگی کرتا تھا۔ زگورت میں بیان کی جانے والی داستانوں میں سے ایک اس خوفناک جنگ پر منی ہے جو بعل نے یہم اور مات عفریت تھا۔ مات موت و ہلاکت کی علامت تھا۔ یہ پیغمبر کا عفریت ہر چیز ہڑپ کر جاتا تھا لیکن بھوکا رہتا۔ اسے انسانی گوشت اور خون بہت مرغوب تھا۔ بعل ان دونوں دشمنوں پر طویل جدو جہد کے بعد غالب آیا۔ مات کے ساتھ جنگ بالخصوص بہت خوفناک تھی۔ اس میں بعل، مات کی پر اسرار دنیا ”پاتال“ کا قیدی ہو جاتا ہے۔ بعل کی اسیری کے دوران ز میں خشک سالی کی شکار ہو کر ریگستان میں تبدیل ہو جاتی ہے اور زندگی ناپید ہو جاتی ہے۔ انجام کا بعل کامیاب ہو جاتا ہے لیکن اس کی کامیابی نا مکمل رہتی ہے۔ یہم اور مات دونوں زندہ رہتے ہیں۔۔۔ ان کی موجودگی دنیا میں ابتری و انتشار اور ہلاکت و فلاکت کا دائیٰ خطرہ ہے۔ اس خطرے کو ٹالنے کے لیے دیوتاؤں کے ساتھ انسانوں کو بھی ایک ناختم ہونے والی جنگ میں حصہ لینا پڑا اور پھر بالآخر بعل کو تھی کامیابی مل گئی۔

اپنی فتح کی یادگار ایک عالی شان محل تعمیر کرنے کے لیے بعل نے اپنے باپ ایل سے اجازت طلب کی۔ اس طرح کی باتیں قدیم دیومالا میں کثرت سے ملتی ہیں۔ مثلاً جب مرود کے دنیا تحلیق کی تو دیوتاؤں اور انسانوں نے مل کر زمین کے مرکز پر بابل شہر تعمیر کیا۔ باب عیلانی (دیوتاؤں کا دروازہ) دیوتاؤں کی مجلس شوریٰ کا مقام تھا۔ یہاں ہر سال دیوی دیوتا اکٹھے ہوتے کیونکہ یہ انسانوں کی دنیا میں ان کا ارضی مسکن تھا۔ انسانوں کو بھی یقین تھا کہ ان کے دیوتا یہاں آتے ہیں اور یہاں ان سے رابطہ ہو سکتا ہے۔ شہر کے وست میں مرود کا عظیم معبد ایسا غایل تعمیر کیا گیا تھا۔ یہ شہر میں اس کا گھر تھا۔ وہ یہاں رہتا اور خداویں احکامات نافذ کرتا لیکن یہ احکامات اس کے نائب یعنی بادشاہ کے ذریعے نافذ کئے جاتے تھے۔ مرود کا معبد اور شہر دیوتاؤں کے آسمانی نقشے کے مطابق تعمیر کیا گیا تھا۔ یہ انتشار اور افتراق کے خلاف انسانوں اور دیوتاؤں کی عظیم فتح کی یاد دلاتا تھا۔

(نقشہ) MAP

مشرق قریب میں زرخیزی اور شرب باری کو ہمیشہ ہی صحراءوں کی دست برو سے
خطره رہا ہے چنانچہ مسلسل جدوجہد اس خطے کی ثقافت کا ناگزیر جزو ہے۔

اسی طرح بعل بھی کسی محل کے بغیر دیوتاؤں پر حکومت نہیں کر سکتا تھا۔ جب وہ کوہ زیفون پر
سوئے اور سنگ جورد سے بنے محل میں مقیم ہو گیا تو ”سب سے بڑا دیوتا“ بن گیا۔ اب وہ دیوتاؤں اور
انسانوں کا اکلوتا حاکم تھا۔ اس کا دعویٰ تھا:

میں وہ ہوں جو دیوتاؤں پر حکومت کرتا ہے
اور دیوتا اور انسان سب میرے تابع ہیں
میں زمین کی سب چیزوں پر حاوی ہوں۔ (23)

اپنے معبد میں بعل اور اس کی بیوی اناٹ اپنی عظیم فتوحات کا جشن مناتے جنہوں نے دنیا کو تباہی سے بچا
لیا۔۔۔ بعل کے کارنا مے مذہبی گیتوں کا حصہ تھے۔

کیا میں نے یہ کو فنا نہیں کیا جو ایں کو بہت پیارا تھا؟
کیا میں نے ڈریگن کو گرفتار کر کے مغلوب نہیں کیا؟
میں نے اڑتے ہوئے اثر درکوتباہ کیا

جو اپنے ساتھ ہیبت پھیلا رہا تھا (24)

زگورت کے لوگ جوزیفون پر بعل کی رہائش گاہ سے محض میل میل دور رہتے تھے، وہ سمجھتے تھے
کہ چونکہ وہ بعل کے علاقے میں رہتے ہیں چنانچہ اس کی جدوجہد میں شریک اور فتوحات میں حصہ دار ہیں۔
زگورت کے مذہبی گیتوں میں بعل، زیفون کو مقدس مقام، میری میراث کا پہاڑ، چنیدہ مقام اور کوہ سار فتح،
جیسے نام دیتا ہے وہ اسے ”حسین بلندی“ اور ”پوری دنیا کی مسرت“ کہتا ہے۔ (25) چونکہ بعل وہاں رہتا
تھا چنانچہ اس نے زیفون کو امن، زرخیزی اور ہم آہنگی کی جنت ارضی بنادیا۔ ایسا عظیم مقام جہاں سے اس نے

جنگ کو ختم کر دینا تھا۔ وہ زمین کی گہرائیوں سے امن کو روئے زمین پر لاتا تھا۔ امن کو کھیتوں اور کھلیانوں میں فروغ دے کر زرخیزی اور شرباری کا ذریعہ بناتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ یو شلم کو شہر امن کہا جاتا ہے۔ اپنے علاقے میں امن اور زرخیزی کو قیمتی بنانے کے لئے لوگوں نے زیفون میں بعل کے محل جیسا ایک محل زگورت میں تعمیر کر لیا۔ (26) یہ محل زیفون کی مکمل ترین نقل تھا۔ ایک ایک اینٹ اور پتھر اسی ترتیب سے رکھا گیا۔ جیسا زیفون کے محل کا نقشہ تقاضہ کرتا تھا اس طرح بعل کو اپنے پسندیدہ مسکن میں مستقل طور پر رہنے اور زگورت کے لوگوں پر برکتیں نازل کرنے کے لئے آمادہ کیا گیا۔ بعل کی موجودگی کا مطلب تھا کہ اب زگورت جنت بن جائے گا اور ایک ایسی زندگی کا ظہور ہو گا جو خطروں کے درمیان محفوظ و مامون رہے گی۔ زگورت کے معبد میں بعل کی موجودگی نے وہاں انسانی زندگی ممکن اور آسان بنادی۔ جب لوگ معبد میں داخل ہوتے تو وہ محسوس کرتے کہ زندگی کی ایک نئی جہت میں داخل ہو گئے ہیں۔ اب وہ زندگی کے فطری اور الہی آہنگ کا حصہ بن گئے ہیں جو عام حالات میں ان سے دور رہتا ہے۔ معبد میں ان کی سماعت ایک نئے تجربے میں داخل ہو جاتی۔

پتھروں کی سرگوشیاں اور دیودار کی آوازیں
آسمان کی زمین کے ساتھ گفتگو
پاتال کا ستاروں سے کلام۔
۔۔۔۔۔ بجلی کے کوندے جو آسمان میں موجود نہیں
لفظ جو انسان نہیں سمجھتے
ان کی سماعت سے ٹکراتے (27)

قدیم دنیا میں معبد ایسی جگہ تھے جہاں سماعت ہی نہیں بصارت بھی حیرت انگیز تجربے سے گزرتی۔ لوگوں کو مختلف انداز میں اپنا مستقبل نظر آتا۔ وہ مستقبل میں جھانکنا سیکھ لیتے۔ وہ تصوراتی طور پر وہاں پہنچ جاتے جہاں زندگی کی نادیدہ چیزیں ان پر عیاں ہو جاتیں۔ معبد کی پراسرار عمارت اور عبادت کا طریقہ ان تخلیقی کوششوں کا حصہ تھا جو ہستی کا تصویر زیادہ بھر پورا اور گہرے انداز میں مہیا کرتی تھیں۔ اور یہ سب کچھ انہیں عمل انگیز بناتا۔ انہیں اعتماد، عزم اور قوت عمل عطا کرتا تھا۔ اساطیری داستانوں میں کوئی چیز ناممکن نہیں ہوتی تھی۔ چنانچہ غیبی طاقتیں ہر مشکل وقت میں ان کا ساتھ دیتیں۔ کنعانی عقیدے اور معاشرے میں

بعل کو وہی حیثیت حاصل تھی جو میسو پوٹیمیا میں مردک کو حاصل تھی۔ اپنی مذہبی رسم کی تقریبات میں کو زیفون پر بعل کی تخت نشینی اور اس کی جنگوں کی تمثیل مقدس ڈراموں کی صورت میں پیش کی جاتی۔ بعل کا سالانہ تہوار موسم بہار کی آمد پر منایا جاتا تھا۔ اس کے ساتھ نیا سال شروع ہو جاتا۔ تخت نشینی کی سالانہ تقریب نے زگورت کو بعل کی دائمی میراث کا حصہ بنادیا تھا۔ ایک ایسی میراث جو امن اور فروانی کی جنت تھی۔ (28)

سالانہ تہوار کے مقدس ڈرامے کا مرکزی کردار بادشاہ ہوتا تھا۔ اسے تخت نشین کیا جاتا۔ اس کا سر فتح کے تیل سے چپڑا ہوا، مشعلوں کی روشنی میں جگمگا تا۔ مشرق قریب کے دیگر بادشاہوں کی طرح زگورت کے بادشاہ کو بھی خدا کا نائب سمجھا جاتا تھا اور اس کے فرائض بہت واضح اور متعین ہوتے۔ ان دنوں ابھی مشرق قریب کے لوگوں میں مذہب کے حوالے سے بڑی بڑی توقعات اور امیدیں نہیں پائی جاتی تھیں۔

نجات سے مراد غیر فانی ہونا نہیں تھا۔ یہ خدائی صفت تھی اور صرف دیوتاؤں میں پائی جاتی تھی۔ مذہب کے حوالے سے لوگوں کا کام محض یہ تھا کہ زمین پر ایک نفیس اور منظم زندگی برقرار رکھنے اور دشمن قوتوں کو دور رکھنے کے لئے دیوتاؤں کی مدد کریں۔ بادشاہ کے ضروری فرائض کا ایک حصہ جنگ کرنا تھا۔ شہر کے دشمنوں میں انتشار اور انتراق کی قوتوں کو بھی شامل سمجھا جاتا تھا کیونکہ ارضی و سماوی آفات کی طرح یہ بھی بتاہ کن عوامل تھیں لیکن جنگ بہر حال لوگوں کے تحفظ کے لئے شروع کی جاتی تھی۔ اپنی تخت نشینی کے وقت مشرق قریب کے بادشاہوں کو حلف اٹھانا ہوتا تھا کہ وہ اپنے شہر کے دیوتا کا معبد تعمیر کریں گے اور اسے درست حالت میں رکھنے کے لئے ہمہ وقت توجہ دیں گے۔ اس طرح شہر کی زندگی کا رابطہ آسمانی دنیا سے برقرار رہتا تھا۔ بادشاہ کے دیگر فرائض میں شہر میں آب رسانی کے لئے نہریں تعمیر کرنا اور شہر کو محفوظ بنانے کے لئے قلعہ بندی کرنا شامل تھا۔ کوئی بستی اس وقت تک شہر کھلانے کی مستحق نہیں ہوتی تھی جب تک دشمنوں سے تحفظ کے لئے اس کے گرد فصیلیں نہ ہوں۔ بابل کے گل گامش کی رزمیہ داستان میں اروک کے لوگوں کو نصیحت کی جاتی تھی کہ وہ شہر کی فصیلوں کی مضبوطی اور ہنرمندی کی تعریف کریں۔

شہر پناہ کی دیوار پر نظر ڈالو
اس کی گگرتا بنے کی طرح جھلکتی ہے
اروک کی دیوار پر چڑھا اور چنانی کو جانچو
کیا یہ چنانی کی اینٹوں سے نہیں ہوئی
کیا سات عارفوں نے اس کی بنیاد نہیں رکھی؟ (29)

بادشاہ گل گامش نے انسانی زندگی کو اعلیٰ تر بنانے کی کوشش کی۔ اس نے شہر کو جھوڑ دیا اور دامنی زندگی کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ وہ اپنی جستجو میں ناکام رہا لیکن شاعر ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ شہر کو دشمنوں سے محفوظ رکھنے میں کامیاب رہا۔ اس نے اروک میں مستقل رہائش رکھ لی۔ یہی ایک ایسا مقام تھا جو اس کے لئے موزوں تھا۔

لیکن مشرق قریب کے کسی بادشاہ کو ایک اور فریضہ بھی ادا کرنا ہوتا تھا۔ یہ فریضہ قوانین کا نفاذ تھا۔ ان قوانین کے بارے میں سمجھا جاتا تھا کہ یہ آسمانی ہدایات ہیں جو خدا نے براہ راست بادشاہ پر وحی کی صورت میں نازل کی ہیں۔ ایک مشہور منقش پتھر پر بابل کے بادشاہ حمورابی کو دکھایا گیا ہے کہ وہ دیوتا شامیش کے سامنے کھڑا اس سے قوانین کی لوح وصول کر رہا ہے۔ اپنے قوانین میں حمورابی نے دعویٰ کیا تھا کہ دیوتاؤں نے اس کا تقریر خاص مقصد کے لیے کیا ہے۔

ز میں پر انصاف کا بول بالا کرنے کے لئے
شیطان اور برائی کو تباہ کرنے کے لئے
اور اس لئے کہ طاق تو رکمزور کونہ دبا سکے (30)

شہر کو محفوظ و مامون رکھنے کے لئے بادشاہ کا فرض تھا کہ اسے نہ صرف طبعی شکست و ریخت سے بچائے بلکہ اس میں سماجی امن بھی برقرار رکھے۔ دشمنوں سے تحفظ کے لئے قلعہ بندیوں کی کوئی اہمیت نہیں تھی جب تک شہریوں کو استھصال، غربت اور عدم اطمینان سے نہ بچایا جائے۔ چنانچہ بادشاہ اپنے عوام کا گذریا تھا۔ حمورابی اپنے ضابطہ قوانین کے دیباچہ میں کہتا ہے:

میں نے اپنے لوگوں کو سازگار ماحول مہیا کیا۔
میں نے انہیں کسی کی دہشت و بربرتی کے حوالے نہیں کیا۔
چنانچہ میں ان کا مہربان گذریا بن گیا
جس کا عصائے شاہی راست بازی ہے
میرا شفیق سایہ سارے شہر پر پھیلا ہوا ہے
میں نے اپنی آغوش میں عکادا اور سو میر کے لوگوں کو لے لیا

وہ میری حفاظت میں خوب پھلے پھولے
میں نے امن کے ساتھ ان پر حکومت کی
میں نے اپنی طاقت سے انہیں تحفظ دیا۔ (31)

زگورت میں بھی بادشاہ کی ذمہ داری تھی کہ وہ بیواوں اور تیمبوں پر توجہ دے۔ (32)
شہر میں عدل و انصاف پیشی بنانے کے ساتھ ساتھ اسے اس بات کو بھی پیشی بنانا ہوتا تھا کہ قحط اور خشک سالی نہ آئے اور زمین زرخیز و شاداب رہے۔ دونوں باتیں آسمانی بادشاہت کے لئے ضروری تھیں۔ ایک شہر اس وقت تک پر امن اور محفوظ نہیں ہو سکتا جب تک شہریوں کی فلاح و بہبود کو اولین ترجیح نہ دی جائے۔ (32)
پورے مشرق قریب میں سماجی انصاف کا یہ نصب العین آسمانی بادشاہت اور مقدس شہر کا بنیادی تصور تھا۔ لوگ اس بات سے اچھی طرح آگاہ تھے کہ تہذیب کے ثمرات سے مراعات یافتہ اشرافیہ تو آسمانی سے فیض یا ب ہو سکتی ہے۔ چنانچہ اس کی اجارہ داری قائم نہیں ہونی چاہیے۔ عدم اطمینان کے شکار کسان کسی بھی وقت نظام تلپٹ کر سکتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ شہر کے امن و مان کو پیشی بنانے کے لئے سماجی انصاف کی جدوجہد کو سر فہرست رکھا جاتا تھا۔

زگورت کی تاریخ میں انصاف کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ شہر کے ساٹھ ہزار باشندے جن میں سے زیادہ تر محل کے دست نگر تھے۔ مضافات کے محض 25 ہزار کسانوں کی اعانت کے محتاج تھے۔ یہ شہر غریبوں کی محنت اور خون پسینے سے تعمیر ہوا تھا۔ اس کا شعور بعل کی جنگوں کی داستانوں میں منعکس ہوتا ہے۔ تخلیق اور ترتیب دوسروں کی مکومی پر مخصوص ہوتی تھی۔ چنانچہ بلا خر نظام ناکام ہو گیا۔ تیرھوں صدی قبل مسیح میں معیشت منہدم ہو گئی۔ گاؤں خالی ہو گئے اور شہری ریاستیں انا طولیہ اور جزاں سے آنے والے ”سمندری لوگوں“ کے حملوں کی تاب نہ لاسکیں۔ چنانچہ سماجی مساوات کی جدوجہد محض مذہبی فریضہ نہیں معاشری و معاشرتی ضرورت بھی تھی۔ مقدس شہر کی صحت مند زندگی کے لئے اس کی موجودگی ناگزیر تھی۔ ہم آگے چل کر دیکھیں گے کہ یروشلم کی تاریخ میں استبدادی حکومتوں نے بعض اوقات اپنے زوال کے نج خود بولے تھے۔

کانسی کے دور میں یروشلم کی مذہبی زندگی کے بارے میں ہم براہ راست کوئی علم نہیں رکھتے۔ ماہرین آثار قدیمہ کو نہ تو یوسی معبدوں کا کوئی سراغ ملا ہے اور نہ ہی ایسی تختیاں ملی ہیں جو کوہ صیہون سے تعلق رکھنے والے مذہب کے بارے میں کسی تحریر یا تذکرے سے تعلق رکھتی ہوں۔ البتہ زگورت سے ملنے والے

کتبوں کے مندرجات اور ان عبرانی بھجنوں میں مماثلت پائی جاتی ہے جو بنی اسرائیل کوہ صیہون پر عبادت کے دوران گاتے تھے۔ زگورت کی مناجاتوں میں شامل بہت سے جملے ان عبرانی بھجنوں میں بھی نظر آتے ہیں جو کوہ صیہون پر خدا کی تخت نشینی کے سالانہ تہوار کے موقع پر اسرائیلی عبادت گزار گایا کرتے تھے۔ وہ تخلیق کے وقت یویا تان اور ڈریگن سے جنگ میں اپنے خدا کی کامیابی کے گیت گاتے تھے۔ کوہ صیہون بھی شہر امن کھلاتا تھا۔ اسے مقدس پہاڑ اور خدا کی دائیگی میراث بھی کھا جاتا تھا۔ بعض اوقات صیہون کو زیفون بھی کہا جاتا تھا۔ عبرانی بابل میں کچھ مقامات پر اسے زیفون، ہی کہا گیا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ حوری بھی بعل اور اس کے معبد کی داستانیں زیفون پر سنایا کرتے تھے۔ چنانچہ علمانے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ یو شلم میں بعل کا مذہب وہی لائے تھے اور اسی مذہب نے بعد میں مقدس شہر کا زگورتی تصور پیش کیا جو کوہ صیہون پر اسرائیلی عقائد میں شامل ہو گیا۔ (34)

MAP (نقشہ)

شہری تہذیب چونکہ دیہی زندگی مرہون منت رہی ہے چنانچہ قدیم
مشرق قریب میں مقدس شہر کا نصب اعین سماجی انصاف ہوتا تھا۔

مشرق قریب کے قدیم باشندے تحفظ کے متلاشی رہتے تھے اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ یو شلم اپنی جغرافیائی حیثیت میں اس قابل تھا کہ لوگوں کو وہ تحفظ مہیا کر سکے جس کی انہیں تمnarہتی تھی۔ یو شلم تیرھویں صدی قبل مسیح کا خلفشار جھیل گیا جب کہ کنعان کے بہت سے کوہستانی شہرویران ہو گئے۔ بابل بتاتی ہے کہ صیہون پر یوسپیوں کی شہر پناہ نا قابل تحریر سمجھی جاتی تھی۔ لیکن بارھویں صدی قبل مسیح میں نئے خطرے اور نئے دشمن ابھر آئے۔ کنعان پر مصر کی گرفت ایک بار پھر کمزور ہو گئی۔ حطی سلطنت تباہ ہو گئی جب کہ میسوب پٹیمیا کو طاعون اور قحط نے بر باد کر دیا۔ تہذیبوں کی کامیابیاں ایک بار پھر ناقص اور کمزور ثابت ہوئیں۔ کسی نئی جنت کی تلاش میں وسیع پیمانے پر ہجرتیں ہوئیں جب عظیم قوتیں منشر ہوئیں تو ان کی جگہ لینے کے لئے نئی ریاستیں وجود میں آئیں۔ ان میں سے ایک فلستی ریاست تھی جو کنunan کے جنوبی ساحل پر ابھری۔ ممکن ہے فلستی ان ”سمندری لوگوں“ میں سے ہوں جنہوں نے مصر پر حملہ کیا لیکن ہزیمت اٹھانے کے بعد فرعون کے غلام بننے پر مجبور ہوئے۔ ممکن ہے عمسیس سوم نے اپنی جگہ فلستیوں کو کنunan پر حکمرانی کرنے کے لئے وہاں

آباد کیا ہو۔ نئے علاقے میں انہوں نے مقامی مذہب اپنالیا اور پانچ شہروں میں خود کو منظم کر لیا۔ یہ شہری ریاستیں اسقلون، اشدود، عقران، جات اور غزہ تھے۔ جب مصر زیادہ کمزور ہو گیا تو فلسطینیوں نے خود مختاری حاصل کر لی اور پھر بذریعہ کنعان کے غیر رسمی حکمران بن گئے۔ گیارہویں صدی قبل مسح میں کنعنائیوں کو ایک نئے مقامی قوت کا سامنا کرنا پڑا۔ کوہستانی علاقے میں ایک نئے ریاست وجود میں آ رہی تھی جو کنعان کی سابقہ ریاستوں میں بڑی اور ان سے مختلف تھی۔ اور پھر یوسی صیہون ایک جارح طاقت کے نرغے میں آگیا۔ یہ نئے طاقت اسرائیل کی بادشاہت تھی جس نے صیہون کی قسمت کو ہمیشہ کے لئے بدل دیا۔



حوالہ جات



1. Kathleen Kenyon, digging Up Jerusalem (London, 1974),
P. 78.
- 2 - نیویارک ٹائمز۔ 8 ستمبر 1994ء۔
- 3 - انگریزی میں ٹراؤپ میں کا ترجمہ ”پیر بنے والے“ کیا گیا ہے۔ جوزیفس کے دور میں وادی کا نام غالباً بگڑ چکا تھا۔
4. Benjamin Mazar, The Mountain of the Lord (New Yourk,

- 1975), pp. 45-46, Gosta W. Ahstrom, *The History of Ancient Palestine* (Minneapolis, 1993), pp.
5. Mazar, *Mountain of the Lord*, p. 11.
 6. Mircea Eliade, *The Sacred and the Profane*, trans.
 7. Ibid., *passim*. Also Mircea Eliade, *Patterns in Comparative Religion*, trans. Rosemary Sheed (London, 1959), pp. 1-37, 367-88; Mircea Eliade, *Images and Symbols: Studies in Religious Symbolism*, trans. Philip Mairet (Princeton, 1991), pp. 37-56.
 8. Eliade, *Sacred and the Profane*, pp. 50-54, 64.
 9. Eliade, *Patterns in Comparative Religion*, p. 19.
 10. Ibid., pp. 99-101; R E Clements, *God and Temple* (Oxford, 1965), pp. 2-6; Richard J. Clifford, *The Cosmic Mountain in Canaan and the Old Testament* (Cambridge, Mass., 1972), pp. 4-10.
 11. Clifford, *Cosmic Mountain*, p. 4.
 12. Eliade, *Scred and the Profane*, p. 33.
 13. Eliade, *Patterns in comparative Religion*, pp. 382-85.
 14. Ahstrom, *History of Ancient Palestine*, pp. 248-50.
 15. J. B. Ritchard, ed., *Ancient Near Eastern Texts Relating to the Old Testament* (Princeton, 1959), pp. 483-90.
 16. Ahstrom, *History of Ancient Palestine*, pp. 279-81.
 17. Ronald de Vaux, *The Early History of Palestine*, 2 vols., trans. David Smith (London, 1979), 1:6-7.
 18. H. J. Franken, "Jerusalem in the Bronze Age:

- 3000-1000 BC." In K. J. Asali, ed., *Jerusalem in History* (New York 1990), p. 39.
19. Kenyon, *Digging Up Jerusalem*, P. 95.
 20. Ibid., p. 100.
 21. Pritchard, *Ancient Near Eastern Texts*, p. 483.
 22. Clifford, *Cosmic Mountain*, pp. 57-59.
 23. John C. L. Gibson, *Canaanite Myths and Legends* (Edinburgh, 1978), p. 66.
 24. Ibid., p. 50.
 25. Clifford, *cosmic Mountain*, pp. 57-68; cf. Psalm 47.
 26. Ibid., p. 68.
 27. Ibid., p. 77.
 28. Ibid., p. 72.
 29. Epic of Gilgamesh 1: 15-18. See also Jonathan Z. Smith, "Wisdom's Place," in John J. Collins and Michael Fishbane, eds., *Death, Ecstasy and Other Worldly Journeys* (Albany, 1995), pp. 3-13.
 30. Pritchard, *Ancient Near Eastern Texts*, p. 164.
 31. Ibid., p. 178.
 32. Gibson, *Canaanite Myths*, pp. 102-7.
 33. John Gray, "Sacral kingship in Ugarit," *Ugaritica* 6 (19969), pp. 295-98.
 34. Clifford, *Cosmic Mountain*, *passim.*; Clements, *God and Temple*, p. 47; Ben C. Ollenburger, *Zion, the city of the Great king: A Theological Symbol of the Jerusalem Cult*

(Sheffield, 1987), pp. 14-16; Margaret Barker, *The Gate of Heaven: The History and Symbolism of the Temple in Jerusalem* (London, 1991), p. 64; Hans-Joachim Kraus, *Worship in Israel: A Cultic History of the Old Testament* (Oxford, 1966), pp. 201-4.



بنی اسرائیل



اسرائیل کون تھے؟ بابل کا کہنا ہے کہ یہ لوگ میسوس پوٹیمیا سے آئے۔ کچھ عرصہ کے لئے کنعان میں آباد ہوئے لیکن 1750 قبل مسیح کے قریب قحط سے پریشان ہو کر ان کے بارہ قبیلے مصر کو ہجرت کر گئے۔ مصر میں آ کر وہ خوب پھلے پھولے اور خوشحال ہو گئے لیکن پھر ان پر زوال آ گیا۔ یہاں تک کہ وہ مصریوں کے غلام بن گئے۔ 1250 قبل مسیح میں (حضرت) موسیٰ انہیں مصر سے نکال لائے۔ لیکن اب ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ چنانچہ صحرائے سینا میں خانہ بدوثی اور بیابان نور دی پر مجبور ہو گئے۔ انہیں اپنے خدا، یہوا کی طرف کنعان کی سر سبز و شاداب ارض موعودہ کو جانا تھا لیکن (حضرت) موسیٰ کی زندگی میں وہ

ارض موعودہ میں داخل ہونے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ (حضرت) موسیٰ کی وفات کے بعد ان کے جانشین، جوشوا (یشوع) کی قیادت میں اسرائیلیوں نے پورش کی اور خداوند کے نام اور تلوار کے زور پر کنعان کو تسخیر کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ واقعہ 1200 قبل مسیح کے ارد گرد ظہور پذیر ہوا۔ بابل کا کہنا ہے کہ اس موقع پر زبردست کشت و خون ہوا۔ یشوع نے پہاڑوں، وادیوں، چشموں اور چراگا ہوں پر قبضہ کر لیا۔ سب بادشاہوں کو مطیع کیا اور مزاجمت کرنے والے کسی آدمی کو زندہ نہ چھوڑا۔ (1) کنعان کے تمام علاقے بنی اسرائیل کے بارہ قبیلوں میں تقسیم کر دیئے گئے۔ لیکن یہوداہ اور بنیامیں کو ملنے والے علاقوں کے درمیان ایک شہر اسرائیلیوں کے قبضہ میں نہ آ سکا۔ یہ شہر یروشلم تھا اور وہاں یوسیلوں کی حکومت تھی۔ یہوداہ کے بیٹھے ان یوسیلوں کو زیر نہ کر سکے اور پھر ان کے ساتھ مل جل کر رہے گے۔ (2) کچھ عرصہ بعد یروشلم اسرائیلیوں کا نہ ہبی مقام بن گیا لیکن ابتداء میں یہ دشمن علاقہ تھا اور بابل میں پہلی بار اس کا ذکر غیر مہم انداز میں دشمن شہر کے طور پر ہوتا ہے۔

جدید تحقیق نے ماہرین کو بابل کے اس تذکرے پر تشكیک میں مبتلا کر دیا ہے کہ اسرائیلیوں نے یشوع کی قیادت میں کنعان کو تاراج کر کے رکھ دیا اور کسی کو زندہ نہ چھوڑا۔ ماہرین آثار قدیمہ کو کنعان کے قدیم مقامات سے تباہی کے کچھ شواہد ملے ہیں لیکن ان کا تعلق وثوق کے ساتھ اسرائیل کے حملے سے ثابت نہیں ہوتا۔ اس کو ہستانی علاقے میں کسی بیرونی حملے کے آثار نہیں ملتے جو اسرائیلیوں کا محبوب وطن قرار پایا۔ (3) بابل کے علماء بھی تسلیم کرتے ہیں کہ یشوع کی تسخیر مکمل نہیں تھی۔ بتایا جاتا ہے کہ وہ نہ تو کنunan کی شہری ریاستوں کو مغلوب کر سکا اور نہ فلسطینیوں پر کوئی کاری ضرب لگا سکا۔ (4) کتاب یشوع کے ابتدائی بارہ ابواب کا بغور مطالعہ بتاتا ہے کہ زیادہ تر کارروائی اس چھوٹے سے علاقے میں ہوئی جو بعد میں بنیامیں قبیلے کو ملا۔ (5) بابل سے بھی ہمیں یہی تاثر ملتا ہے کہ یشوع کی تسخیر کوئی بہت بڑا واقعہ نہیں تھا جس نے پورے علاقے کو متاثر کیا۔ لیکن آج بھی ایسے محققین موجود ہیں، خصوصاً امریکہ اور اسرائیل میں جو اس بات کے قائل ہیں کہ بنی اسرائیل نے یلغار کر کے پورے کنعان پر قبضہ کر لیا۔ لیکن جدید تحقیق ثابت کرتی ہے کہ کنunan پر باہر سے آ کر اچانک ٹوٹ پڑنے کی بات درست نہیں بلکہ بنی اسرائیل پر امن طریقے سے اور بذریع کنعنی معاشرے میں نمودار ہوئے۔

یہ حقیقت مسلم ہے کہ تیرھویں صدی قبل مسیح کے اوآخر میں اسرائیلی، کنunan میں موجود تھے۔ فرعون مر نے پتاح کی کامیاب مہم (1207 قم) کے یادگاری تصویری اور تحریری تختوں میں فتوحات کے تذکرہ کے ساتھ اسرائیل کا ذکر بھی پہلی مرتبہ تاریخ میں سامنے آتا ہے۔

”اسرائیل بانجھ ہے۔ اس کا ختم موجود نہیں“

لیکن یہ اس دور کا اکلوتا تذکرہ ہے جو بابل سے باہر کھیں ہمیں ملتا ہے۔ البتہ ماہرین کا خیال ہے کہ چودھویں صدی قبل مسیح کی مختلف لوحوں اور کندہ عبارتوں میں جن ”ھایرو“ یا ”آپیرو“ کا تذکرہ ملتا ہے وہ یشوع کے ہبریو (عبرانی) قبائل کے باپ دادا تھے۔ لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ھایرو۔۔۔ کوئی نسلی گروہ نہیں بلکہ کنعانی معاشرے کا ایک ایسا طبقہ تھے جنہیں اچھوت قرار دے دیا گیا تھا۔ شہری ریاستوں سے خارج کردیئے جانے کے بعد وہ کرانے کے سپاہی بن گئے۔ بعض اوقات وہ قزاقی اور رہنما پر اتر آتے۔ (6) یقیناً نہیں کنعان میں شرپسند قوت سمجھا جاتا تھا۔ ای بدی ہپا خود بھی ھایرو لوگوں کی وجہ سے پریشانی میں بنتا تھا۔ اسرائیلیوں کو سب سے پہلے بیر و یا ہبریو اس وقت کہا گیا جب وہ مصر میں ایک غیر مقامی گروہ تھے۔ لیکن پورے علاقے میں صرف وہی ”ھایرو“ نہیں تھے۔

آج مہرین اسرائیل، کی پیدائش کو کنعان کے بالائی خطے میں آباد کاروں کی ایک نئی لہر کا نتیجہ قرار دیتے ہیں۔ ماہرین آثار قدیمہ نے یو شلم کے شمالی کوہستانی علاقے میں ایک سو کے قریب ایسے دیہات کے ہنڈر دریافت کئے ہیں جن کا زمانہ 1200 قبل مسیح ہے۔ تیرھویں صدی قبل مسیح تک اس بھر علاقے میں انسانی رہائش ممکن نہیں تھی لیکن بارھویں صدی قبل مسیح میں تکنیکی ترقی نے ایسا ممکن کر دکھایا۔ یہاں آباد ہونے والوں نے بھیڑ بکریاں اور بیل پال کر اپنی بقا کو ممکن بنالیا۔ ہنڈرات سے ایسا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ آباد کار کھیں باہر سے آئے تھے۔ ان دیہات کا ثقافتی انداز، تعمیراتی سامان اور تکنیک وہی ہے جو ساحلی میدانی علاقوں کے ہنڈرات میں ملتا ہے۔ چنانچہ ماہرین آثار قدیمہ نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ یہ آباد کار یقیناً مقامی کنunanی ہی تھے۔ (7) چونکہ یہ دور خلفشار اور شہری ریاستوں کے درمیان تصادم کا تھا چنانچہ کچھ لوگوں نے بہتر سمجھا ہوگا کہ پہاڑوں پہ جا کر رہنا شروع کر دیں۔ اگرچہ وہاں زندگی بہت مشکل تھی لیکن جنگ و جدل سے محفوظ اور انحطاط زدہ شہروں کی خصوصیت بن چکا تھا۔ پہاڑوں پہ آباد ہونے والے کچھ لوگ ”ھایرو“ اور بقیہ خانہ بدوش ہوں گے۔ جو بد امنی کے دور میں اپنا طرز حیات تبدیل کرنے پر مجبور ہو گئے ہوں گے۔ اجڑنے والے کنunanی شہروں سے ہونے والی یہ بھرت اسرائیل کا نقطہ آغاز بن گئی ہوگی۔ یقیناً یہی بات ہوگی کیونکہ گیارھویں صدی قبل مسیح میں اسرائیل کی سلطنت اسی علاقے میں نمودار ہوئی تھی۔ اور اگر یہ مفروضہ واقعی درست ہے تو پھر اسرائیلی، مقامی کنunanی ہی تھے جو پہاڑوں پر جا آباد ہوئے اور پھر اپنی الگ شناخت بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ ایک اور بات بھی ناگزیر محسوس ہوتی ہے کہ ان کا ٹکراؤ دوسرے شہروں سے رہا ہوگا۔ انہی جھڑپوں کی کہانیوں نے یشوع اور قضاۃ (بابل) کی داستانوں کی بنیاد رکھی ہوگی۔

اگر یہ اسرائیلی واقعی کنعانی تھے تو پھر باابل اس قدر اصرار کے ساتھ کیوں کہتی ہے کہ یہ باہر سے آئے تھے اور آخر کیوں اسرائیلیوں کی "غیر مقامی" شناخت ان کے مذہبی عقائد کا حصہ ہے۔ باابل کی ابتدائی پانچ کتابوں میں اسرائیلیوں کی طرف سے مادر وطن کی تلاش یا ارض موعودہ کی جستجو کا قصہ غالب حقیقت رکھتا ہے یہ تصور بھی غلط ہے کہ خروج کی تمام تر داستان من گھڑت ہے۔ کچھ ہایر و مقیناً فرعون کی بیگار سے بھاگ نکلے اور بعد میں پہاڑی علاقوں میں آباد ہونے والے کنغانیوں میں شامل ہو گئے ہوں گے۔ خود باابل بھی اشارہ کرتی ہے کہ اسرائیل کے تمام لوگوں نے خروج میں حصہ نہیں لیا تھا(8) لیکن بعد میں مصر سے آنے والوں کا مذہب اور ان کی اساطیر اسرائیل کے نظریہ پر غالب آگئے۔ مصر کی غلامی سے نجات اور خدا نے یہواہ کے خصوصی تحفظ کے تصور نے کنغانیوں کو متاثر کیا ہوگا کیونکہ وہ خود بھی ظالم حکمرانوں کے جبر و استبداد سے جان بچا کر پہاڑوں پر آئے تھے۔ اب وہ جوش و خروش کے ساتھ نئے نظام (کے تجربے) کا حصہ بن رہے تھے۔

کنعان میں ایک بڑی طاقت بننے تک اسرائیلیوں نے اپنی تاریخ لکھنا شروع نہیں کی تھی۔ علامہ روایتی طور پر خمسہ موسیٰ (عہد نامہ عتیق کی ابتدائی پانچ کتابوں) کے چار مأخذ تسلیم کرتے ہیں۔ اولین دو موفین کول اور E کے نام دیئے جاتے ہیں۔ L سے مراد وہ مولف ہے جس نے خدا کا نام یہواہ (Jehovah) لکھا جب کہ E نے ایلوہیم (Elohim) لکھا۔ ممکن ہے یہ کتابیں دسویں صدی قبل مسیح میں لکھی گئی ہوں تاہم یہ بعد میں یعنی آٹھویں صدی قبل مسیح میں سامنے آئیں۔ عہد نامہ عتیق کی بقیہ کتابیں کتب مشکوک یا اسفار محرفة اور پادریانہ دستور کہلاتی ہیں۔ ان کتابوں میں تواریخ، یثویں، قضاء، سمومیل اور سلاطین شامل ہیں۔ ان کے موفین کو "D" یعنی The Deuteronomist اور "P" یعنی Priestly Writer کہا جاتا ہے۔ P اور D دونوں ہی چھٹی صدی قبل مسیح میں اسرائیلیوں کی بابل کو جلاوطنی کے دوران اور بعد میں فعال رہے۔ جدید تحقیق نے کچھ علاماً کوشنیک میں بتا کر دیا ہے اور اب سمجھا جا رہا ہے کہ (حضرت) موسیٰ کی پانچوں کتابوں کا مصنف ایک ہی ہے اور یہ چھٹی صدی قبل مسیح میں تحریر کی گئیں۔ N P اور D کے نکتہ نظر پر ہم چوتھے باب میں بحث کریں گے۔ انہوں نے زیادہ تر سابقہ مأخذوں سے کام لیا لیکن اپنے مذہبی نکتہ نظر کو آگے بڑھایا۔ غالباً چھٹی صدی قبل مسیح کے دوران کرانیکلز (عہد نامہ قدیم کے دو باب) لکھے گئے۔ لیکن مصنف نے اپنے ذرائع کو بھر پورا نہیں کیا ہے۔ یوں کوئی بھی مصنف ہمارے آج کے معیار کے مطابق تاریخ کو معرفتی انداز میں مرتب نہیں کر رہا تھا۔ انہوں نے صرف یہ دکھانے پر اکتفا کیا کہ ان کے اپنے دور کے لوگ ماضی کو کس نظر سے دیکھ

رہے تھے۔

بزرگان اسرائیل، (حضرت) اسحاق اور (حضرت) یعقوب کی کہانیوں کے حوالے سے تو یہ بات بالکل درست ہے کہ یہ بیان کئے جانے کے وقت (اور مقصد) کے ایک ہزار سال بعد لکھی گئیں۔ ہمارے خیال میں یہ تاریخی کہانیاں نہیں بلکہ سوانح اور فرض و روایات ہیں۔ بابل کے مصنفین کنعان میں انیسویں اور اٹھارویں صدی قبل مسیح کی زندگی کے بارے میں کچھ نہیں جانتے مثلاً وہ ملک میں مصر کے زبردست اثرات کا کوئی ذکر نہیں کرتے۔ بہر طور بزرگان اسرائیل کی کہانیاں اس لئے اہم ہیں کہ ان کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسرائیلی کس طرح اپنے الگ وجود اور شناخت کو واضح شکل دینے کی ابتدا کر رہے تھے۔ یہ سب کچھ اس دور میں ہو رہا تھا۔ جب L اور E مصروف تحریر تھے۔ اس وقت اسرائیلیوں کا ایمان تھا کہ وہ سب ایک مشترک باب حضرت یعقوب کی اولاد ہیں۔ (حضرت) یعقوب کو نیانام ”اسرائیل“ دیا گیا۔ جس کے معنی ہیں ”--- وہ جو خدا کے لئے جدوجہد کرتا ہے۔“ یہ نام خدا کے ساتھ اس کے خصوصی تعلق کی علامت تھا۔ اسرائیل (حضرت یعقوب) کے بارہ بیٹے تھے۔ ان میں سے ہر ایک، ایک قبیلے کا جد امجد بنا۔ یوں اسرائیل کے بارہ قبیلے سامنے آئے۔ پھر اسرائیلی (حضرت) یعقوب کے جد امجد (حضرت) ابراہیم کی طرف دیکھتے ہیں۔ انہیں خدا نے ایک نئی قوم کی تشکیل کے لئے منتخب کیا۔ اسرائیلیوں کا پختہ عقیدہ تھا کہ (حضرت) ابراہیم کنعانی نہیں تھے۔ چنانچہ وہ ان کا نسلی تعلق میں پوٹیمیا میں تلاش کرتے تھے۔ ان کا ایمان تھا کہ 1850 قبل مسیح کے قریب فاران میں خدا (حضرت) ابراہیم پر ظاہر ہوا اور ان سے کہا کہ ”--- اپنا ملک، اپنا خاندان اور اپنے باپ کا گھر چھوڑ کر اس سر زمین کی طرف چلو جو میں تمہیں دکھاؤں گا۔“ اور یہ سر زمین کنunan تھی۔۔۔⁽⁹⁾ لیکن کنunan میں وہ مہاجر کی حیثیت سے ہی رہے۔ انہوں نے وہاں اس وقت تک کوئی زمین نہ خریدی جب تک ان کو بیوی کی تدبیف کا مرحلہ درپیش نہ آیا۔ تب انہوں نے حبرون میں میکفیلا کے غار میں زمین کا ایک ٹکڑا خریدا۔

بزرگان اسرائیل کی داستانوں میں سب سے اہم بات مادر وطن کی تلاش ہے۔ (حضرت) ابراہیم علیہ السلام، (حضرت) اسحاق علیہ السلام اور (حضرت) یعقوب علیہ السلام کنunan میں اپنی اجنبی حیثیت پر خاصے حساس پائے جاتے ہیں۔ (10) جب (حضرت) ابراہیم کی آمد کا ذکر ہوتا ہے تو L پڑھنے والوں کو یاد دلاتا ہے کہ ”اس وقت کنunan اپنی سر زمین پر تھے“ (11) یہ ایک انتہائی اہم نکتہ ہے۔ یرو شلم اور ارض مقدس کی تاریخ میں یہودی عیسائی اور مسلمان سمجھی اس سر زمین پر اپنی آمد کے وقت دوسروں کو قابض دیکھتے ہیں۔ ان سب کو اس حقیقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ شہر اور سر زمین ان سے پہلے دوسروں کے

لئے مقدس تھی۔ اب ان کے عہد کا استحکام اس طرز عمل پر مختصر ہو گا جو وہ اپنے پیش روں کے ساتھ روا رکھیں گے۔

کنعان میں دوسرے لوگوں کے غلبہ کے بعد منتخب قوم کا تسلط کچھ اسی طرح کی بات ہے کہ خدا پہلے بیٹی کی بجائے دوسرے بیٹی کا انتخاب کرتا ہے۔ (حضرت) ابراہیم کے دو بیٹیے تھے ایک (حضرت) اسماعیل جوان کی لونڈی حاجرہ کےطن سے پیدا ہوئے۔ دوسرے اور چھوٹے بیٹے کا نام (حضرت) اسحاق تھا جوان کی معمر اور بانجھ بیوی سارہ سے تولد ہوئے۔ خدا نے کہا کہ (حضرت) اسماعیل بھی ایک عظیم قوم کا باپ ہو گا لیکن (حضرت) ابراہیم کا نام (حضرت) اسحاق کی اولاد کے ذریعے ہی آگے چلے گا۔

خدا کے حکم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ کو کنunan کے مشرق میں ایک صحرائیں چھوڑ آتے ہیں۔ یہاں انکی حفاظت خدا نہ کرتا تو وہ یقیناً ہلاک ہو جاتے۔ لیکن اس مرحلہ پر بابل کے مصنفین نے ان میں مزید دلچسپی نہیں لی۔ ہم اس کتاب کے گیارہویں باب میں دیکھیں گے کہ صد یوں بعد ایک قوم یروشنم میں داخل ہوتی ہے جو اپنے آپ کو (حضرت) اسماعیل کی اولاد کہتی ہے۔ لیکن ابھی ہم حضرت اسحاق کا ذکر کر رہے ہیں۔ خدا نے پہلے بیٹی کے ہوتے ہوئے دوسرے بیٹی کا انتخاب کیا۔ یہ سلسلہ آگے چلتا ہے اور دوسری نسل میں بھی خدا نے دوسرے بیٹے کو ترجیح دی۔ (حضرت) اسحاق کی بیوی ربیکا نے محسوس کیا کہ اس کے رحم میں جڑواں بچے آپس میں لڑ رہے ہیں۔ خدا نے اسے بتایا کہ اس کے پیٹ میں دوقوں میں آپس میں لڑ رہیں ہیں۔ جب جڑواں بچے پیدا ہوئے تو دوسرے آپ کے بھائی کی ایڑی پکڑے ہوئے دنیا میں آیا۔ چنانچہ اسے یعقوب یعنی ایڑی پکڑنے والا یا دوسرے کی جگہ لینے والا کہا گیا۔ (12) جب یہ جڑواں بچے بالغ ہوئے تو بابل کے مطابق (حضرت) یعقوب اپنے بوڑھے باپ (حضرت) اسحاق سے چالا کی کے ساتھ برکت لینے میں کامیاب ہو گئے۔ اس پر اصولاً بڑے بھائی یسیعاہ کا حق تھا۔ اور پھر یسیعاہ کو مشرقی میدانوں کی طرف رخصت کر دیا گیا۔ اس مرحلہ پر بھی L اور E مسترد شدہ پرانی رشتہ داری کا دوبارہ کوئی ذکر نہیں کرتے۔ (حضرت) اسماعیل اور (حضرت) حاجرہ کی داستان میں ایک حقیقی درد و گداز اور قت انگیزی پائی جاتی ہے۔ اسی طرح پڑھنے والا یسیعاہ کی ابتری پر بھی اس کے لئے ایک ہمدردی محسوس کرتا ہے۔ چنانچہ جب L اور E عہد نامہ مقتضی مرتب کر رہے تھے تو اسرا یلیوں کے سامنے ارض موعودہ پر قبضے کے لئے جنگ جو یانہ وطن پرستی تصور تھا۔ حالانکہ اپنی سر زمین پر ایک قوم کی حیثیت سے ان کا استحکام دوسرے لوگوں کے لئے تکلیف دہ اور اخلاقی اعتبار سے پریشان کن تھا۔

یشوع کے علاوہ کسی میں جنگ وجدل کا جذبہ نظر نہیں آتا۔ یشوع نے خدا کے حکم پر کنunan کے

مقامی لوگوں کی تمام قربان گاہیں اور مذہبی نشانات مٹا دیئے۔ بعد میں عشواع، اسرائیلیوں کا ہیر و بن گیا۔ ل اور ۱۷ دونوں ہی دکھاتے ہیں کہ اسرائیل کے بزرگ کنغانیوں کے لئے رواداری کا رو یہ رکھتے ہیں اور انکی مذہبی رسومات کا احترام کرتے ہیں۔ ان کے مطابق اسرائیلی بزرگوں نے کنعان میں نہ تو اپنے خدا کے احکامات نافض کرنے کی کوشش کی اور نہ ہی انہوں نے مقامی لوگوں کی قربان گاہوں کو پامال کیا۔ خود (حضرت) ابراہیم، ایل کی عبادت کرتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں جو مقامی لوگوں کے عقیدے کے مطابق سب سے برادر یوتا تھا۔ بعد میں (حضرت) موسیٰ کے خدا یہواہ میں ایل کو مدغم کر دیا۔ خدا جلتی ہوئی جھاڑی میں سے (حضرت) موسیٰ کو خود بتاتا ہے کہ ”۔۔۔ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب پر میں ایل شدی (خدائے قادر مطلق) کے طور پر ظاہر ہوا لیکن اپنے یہواہ نام کے ان پر ظاہر نہ ہو۔“ (خروج۔6:13)-(13) اس دوران کنunan کی سرزی میں کو اپنا تقدس بزرگان بنی اسرائیل پر منکشف کرنا پڑا جو پرانے مقامات پر اس بات کے انتظار میں تھے کہ ایل ان پر ظاہر ہو۔

چنانچہ (حضرت) یعقوب بیت ایل کے قدس سے بے خبر دکھائی دیتے ہیں۔ وہ ایک ایسی جگہ پر پھر کا تکمیلہ بنائے کر لیتے جاتے ہیں جو باظاہر عام تھی۔ لیکن یہ جگہ ایک ما قوم (قدس مقام) تھی۔ اس رات (حضرت) یعقوب نے خواب میں دیکھا کہ ان کے پہلو میں زمین پر ایک سیڑھی ایستادہ ہے جو آسمان کو چھو رہی ہے۔ یہ ایک کلاسیک روایتی جو ہمیں میسوس پوٹیمیا کے زگرتوں کی یاد دلاتی ہے۔ سیڑھی کی چوٹی پر (حضرت) ابراہیم کا خدا تھا جس نے (حضرت) یعقوب کو اپنے تحفظ اور مدد کا یقین دلایا۔ بیدار ہونے پر (حضرت) یعقوب خوف سے لرز گئے۔ انہوں نے حیرت اور تعجب سے سوچا۔۔۔ خدا جس پنج اس مقام پر موجود ہے اور مجھے خبر ہی نہ ہوئی۔۔۔ اس وقت ان کی کیا کیفیت ہوئی ہوگی جب ایک عام سا قطعہ اراضی ایک ایسا روحانی مقام ثابت ہوا جس نے انسانوں کو الہی دنیا سے رابطہ مہیا کر دیا۔ ”لتنی پر جلال ہے یہ جگہ۔۔۔ یہ خدا کے گھر (بیت ایل) سے کم درجہ کا مقام نہیں ہو سکتا۔ یہ جنت کا دروازہ ہے۔“ (14) یہ جگہ چھوڑنے سے پہلے (حضرت) یعقوب نے اس پھر کو سیدھا کھڑا کر کے نصب کر دیا جس پر وہ لیٹے ہوئے تھے اور پھر اس پر تیل کا ایک جرمہ انڈیل دیا تا کہ یہ اردو گرد کے پھرول سے الگ اور ممتاز پہچانا جائے۔

اسرائیلیوں کی بعد کی نسلوں نے کنunan کے ان ایستادہ پھرول کی شدید مذمت کی جو الہیت یا قدس کی علامت سمجھے جاتے تھے۔ ل اور ۱۷ کو (حضرت) یعقوب کے اس متبرک کام میں کوئی برائی یا ناپسندیدہ بات نظر نہیں آتی۔ جب یہ دونوں مصنفین لکھ رہے تھے تو ان دونوں غالباً اسرائیلی تو حید پرست نہیں تھے۔ اگرچہ یہواہ، حضرت موسیٰ کا خدا، ان کا خدا تھا اور بنی اسرائیل کے داشمنوں کا خیال تھا کہ صرف

اسی کی عبادت کرنا چاہئے لیکن انہیاء اور موخیں کی تحریر یہ بتاتی ہیں کہ اسرائیلی دوسرے خداوں کی بھی عبادت کرتے تھے۔ وہ خدا یاد یوتا جو کنغانیوں کے عقائد کے مطابق ایک عرصہ سے ملک کی زرخیزی کو یقینی بنائے ہوئے تھے اور اس کے مقدس مقامات (باموتو) پر مل بھی سکتے تھے، انہیں بہت سے اسرائیلیوں کے لئے نظر انداز کرنا یقیناً مشکل سی بات تھی۔ تاریخ گواہ ہے کہ 588 قبل مسیح میں بنو کلدنفر کے ہاتھوں تباہی تک یو شلم میں دوسرے خداوں کی بھی عبادت ہوئی تھی اور اسرائیلی بھی اس عبادت میں شریک ہوتے تھے۔ وہ ایل کی بیوی اور زرخیزی کی دیوی عشیرہ کی پرستش ایل کے معبد میں جا کر کرتے تھے اور بعل دیوتا کی زرخیزی کی رسومات میں بھی حصہ لیتے تھے۔ 539 ق م تک بابل میں جلاوطنی کے بعد اسرائیلیوں نے بالآخر فیصلہ کیا کہ یہواہ کو اکلوتا قرار دیا جائے اور کسی دوسرے خدا کی عبادت نہ کی جائے۔ اس کے بعد وہ واقعی ہر قسم کی پاگان (بہت) پرستی کے سخت دشمن بن گئے۔ لیکن اولین بائبل نگاروں یعنی ل اور E نے اپنے آبا و اجداد کے مذہب کو سامنے رکھتے ہوئے (حضرت) یعقوب کے اس اقدام میں کوئی بری بات محسوس نہ کی کہ انہوں نے بت پرستوں کے ایک مقام پر خدا کو دیکھا اور رویت کے مقام کو نشان زد کر دیا۔

اسرائیلی بزرگان دین کے متعدد مذہبی اقدامات جن کا تذکرہ خاص طور پر L نے کیا ہے وہ بعد کی اسرائیلی نسلوں کے لئے مشکوک و مشتبہ ہو کر رہ گئے ہیں۔ مثلاً خدا کو انسانی روپ میں پیش کرنا یہودیوں کے ایمان و ایقان کے منافی ہے۔ یہ خدا کی شان میں گستاخی و کفر اور توہینِ ربوبیت ہے۔ لیکن L اسے (حضرت) ابراہیم کے رو بروایک انسان ہی کے روپ میں لاتا ہے یہ واقعہ یوں ہے۔

” (حضرت) ابراہیم حبرون کے قریب مرے میں اپنے خیمه کے باہر بیٹھے ہیں۔ ان کے پاس تین اجنبی آتے ہیں۔ مخصوص مشرقی انداز میں (حضرت) ابراہیم انہیں بیٹھنے کو کہتے ہیں اور خود ان کے لئے کھانا تیار کرتے ہیں۔ پھر یہ چاروں آدمی مل کر کھانا کھاتے ہیں۔ گفتگو کے دوران انکشاف ہوتا ہے۔ کہ تین اجنبیوں میں سے ایک خدا اور دوسرے دونوں اس کے فرشتے ہیں۔“ (15)

یہودیوں کو یہ قصہ بہت پسند ہے۔ عیسائیوں کے لئے بھی بہت اہم ہے کہ وہ اسے خدا کی طرف سے تثییث کا اظہار سمجھتے ہیں۔ مرے کے قصہ کی اہمیت کا ایک پہلو یہ ہے کہ یہ واحد نیت۔۔۔۔۔ ایک خدا کے تصور کی تائید کرتا ہے۔ لیکن اس میں سے ایک اہم نکتہ یہ سامنے آیا کہ خدا صرف مقدس مقامات پر ہی ظہور

نہیں کرتا بلکہ انسانی روپ میں اور کہیں بھی ظاہر ہو سکتا ہے۔ دراصل یہ واقعہ انسان دوستی کی تلقین کرتا تھا۔ لوگوں کو بتایا گیا کہ انسان کی عزت و توقیر کی جائے۔ ہم سے جو بھی مرد اور عورت ملے چاہے وہ اجنبی ہو، اس کو احترام دیا جائے کیونکہ انسان خدائی اسرار کے مجسم ہو سکتے ہیں۔ اسی بات کے پیش نظر (حضرت) ابراہیم تینوں اجنیوں کی پذیرائی کے لئے بے تاب ہو کر اٹھے اور ان کے آرام و آسائش اور خوردنوش کا اہتمام کیا۔ یہ مہربانی خدائی ملاقات کا ذریعہ بن گئی۔

سماجی انصاف اور غریبوں اور کمزوروں پر توجہ دینا مشرق قریب کے نظر یہ تقدیس کا ناگزیر حصہ رہا ہے۔ امن کے مقدس شہر میں سماجی انصاف ایک لازمہ تھا۔ اسرائیلی روایات میں انسانیت کے لئے ابتداء ہی سے ایک گہری تفہیم ملتی ہے۔ ہم اسے (حضرت) ابراہیم اور خدا کے درمیان تعلق، خدا کے حضور خود سپردگی اور نشانے ایزدی کی اس خوفناک داستان میں دیکھ سکتے ہیں جس میں خدا نے (حضرت) ابراہیم کو حکم دیا کہ ”... اپنے بیٹے، اپنے اکلوتے بیٹے، جسے تم بہت پیار کرتے ہو، اسے لواور موریاہ کی سر زمین میں اس کی قربانی دو۔۔۔“ (16) (پیدائش 2:22) چونکہ (حضرت) ابراہیم اپنا بڑا بیٹا اسماعیل کھوچکے تھے چنانچہ اب اس حکم کا مطلب یہ تھا کہ ابراہیم کو ایک عظیم قوم کا باپ بنانے کا خدا کا وعدہ ختم ہو رہا ہے۔ اس صورت حال میں ایمان اور ایفائے عہد اجھن میں پڑ سکتے تھے لیکن (حضرت) ابراہیم خدا کے حکم کی تعیل پر تیار ہو گئے اور (حضرت) اسحاق کو اس پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے جس کے بارے میں خدا نے حکم دیا تھا۔ لیکن جب (حضرت) ابراہیم حضرت اسحاق کے سینے میں چھری اتارنے کے قریب تھے کہ ایک فرشتہ نمودار ہوا۔ اس نے (حضرت) ابراہیم کو بیٹا قربان کرنے سے روک دیا اور کہا کہ آپ اپنے بیٹے کے بد لے ایک مینڈھے کو قربان کر دیں جو قریب ہی جھاڑیوں میں سینگ پھنسائے کھڑا ہے۔ اس قصہ میں یروشلم کا کوئی ذکر نہیں۔ لیکن چوتھی صدی قبل مسیح میں ”موریاہ کی سر زمین“ کوہ صیہون سے متصل بتائی جاتی ہے۔ (17) کہا جاتا ہے کہ یہودیوں کا معبد اسی جگہ پر تعمیر ہوا جہاں (حضرت) ابراہیم کو (حضرت) اسحاق کی قربانی کا پابند بنایا گیا تھا۔ مسلمانوں کا گنبد صخرہ بھی (حضرت) ابراہیم کی اپنے بیٹے کی قربانی کی یاد دلاتا تھا۔ اس قصہ میں ایک اور پیغام بھی تھا۔ یہوا نے یہ بات سمجھا دی کہ اس کو پیش کی جانے والی قربانیوں میں اب انسانی قربانی نہ شامل کی جائے بلکہ اس کے بد لے کسی جانور کو قربان کر دیا جائے۔ لیکن یہ ممانعت قدیم دنیا میں ہمہ گیر نہیں تھی۔ جانوروں کی قربانی قدیم مذاہب میں مرکزی حیثیت رکھتی تھی۔ آج ہم اسے بھی مکروہ سمجھتے ہیں لیکن یہ کسی طور بھی جانوروں کے لئے کسی تصرف کا اظہار نہیں تھی۔ مویشی تقدیم انسانوں کا اٹا شہ ہوتے تھے۔ اپنا اٹا شہ قربان کرنا خدا کی خوشنودی اور قرب کے حصول کا ذریعہ تھا۔ آج قربانی کو اس تکلیف دہ

مفروضے سے وابستہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ انسانی زندگی کا انحصار دوسری مخلوق کو ہلاک کرنے پر رہا ہے۔ اس کا ایک لاشعوری تعلق مردک اور بعل کی اڑائیوں پر مشتمل دیومالا سے بھی ہے۔ ابتدائی انسانی زندگی کی بقا جانوروں کے شکار اور پودوں سے وابستہ تھی۔ چنانچہ بعد میں ایک پیچیدہ نفسیاتی طرز عمل مرتب ہوا جس میں احساس جرم، احساس تشكیر اور ایک احترام کے ملے جلے جذبات ان جانوروں کے لئے شامل تھے جو خود قربان ہو کر انسانی زندگی کو بقا مہیا کرتے تھے۔ یہی ملے جلے جذبات ماقبل تاریخ غاروں میں مصوری کے محرك بنے ہوں گے، لیکن آج ہم نے خود کو اس احساس سے دور کر لیا ہے کہ ہم قصاص کی دکان سے جو صاف ستر گوشت خریدتے ہیں وہ ان انواع کا ہے جنہوں نے ہماری خاطر اپنی جانیں قربان کی ہیں۔ یروشلم میں جانوروں کی قربانی کی رسم اس وقت جاری ہوئی جب انسانوں کو بتایا گیا کہ انسانیت کی تقدیمیں تقاضا کرتی ہے کہ ایک انسان کو کسی دوسرے کے لئے کسی بھی قیمت پر قربان نہیں کیا جاسکتا چاہے مقصد و منشا انتہائی اعلیٰ وارفع ہو۔

اپنی کڑی آزمائش کے بعد (حضرت) ابراہیم نے اس مقام کو جہاں (حضرت) اسحاق[ؑ] کی قربانی دی جانی تھی، جو نام دیا، اس کے معنی ہیں ”یہواہ دیکھتا ہے“، لیکن E نے بابل میں اسے مقامی مقولے کے حوالے سے ”یہواہ بیری“، لکھا چنانچہ آج تک یہ کہاوت ہے کہ خداوند کے پہاڑ پر مہیا کیا جائے گا۔ (پیدائش 18:22) (14) مقدس پہاڑ پر، زمین اور آسمان کے درمیان لوگ محسوس کرتے تھے کہ دیوتا انہیں دیکھ سکتے ہیں اور وہ دیوتاؤں کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس طرح کے مقام دراصل بصارت اور بصیرت کا امتناع ہوتے تھے۔ یہاں لوگ ایک مختلف انداز میں دیکھنا سیکھتے تھے۔ وہ اپنے تصور کی آنکھ کھول کر دنیاوی ماحول سے دور اس ابدی اسرار کو دیکھ سکتے تھے جو کائنات کے قلب میں پایا جاتا تھا۔ یروشلم میں کوہ صیہون بنی اسرائیل کے لئے بصارت و بصیرت کا ایک ایسا ہی مقام تھا۔ لیکن ان کی ابتدائی تاریخ میں یہ اکلوتا مقدس مقام نہیں تھا۔

جن حالات و واقعات میں بنی اسرائیل نے ایک قوم کی حیثیت سے اپنی روح کو دیکھا، ان میں یروشلم کا کوئی کردار نہیں۔ جب یشور اور قضاۃ کی کتابیں لکھی گئیں تو اسرائیلوں کے نزدیک یہ شہر بنیادی طور پر ایک اجنبی مقام تھا، ایک ایسا شہر جہاں یوسیوں کا غالبہ تھا۔ بزرگان بنی اسرائیل اور دگرد کے شہروں مثلاً بیت ایل، حبرون، سیکم اور بیرسبع سے وابستہ تھے لیکن اپنے سفروں کے دوران یروشلم کو کوئی اہمیت دیتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ البتہ ایک موقع پر (حضرت) ابراہیم[ؑ] شیلیم کے باڈشاہ اور پروھت ملک صدق سے ملاقات کرتے ہیں۔ یہ ملاقات (حضرت) ابراہیم کی ایک عسکری مہم سے واپسی پر ہوتی ہے۔ ملک صدق انہیں

روٹی اور شراب پیش کرتا ہے اور یروشلم کے دیوتا ایل علیون کے نام پر برکت دیتا ہے (19) یہودی روایات سالم یا شیلیم کو یروشلم کے طور پر شناخت کرتی ہیں۔ لیکن یہ بات وثوق سے نہیں کہی جاسکتی کیونکہ مذکورہ ملاقات کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ یہ عین راجل (موجودہ بیسرایوب) کے مقام پر ہوئی۔ (20) یہ دادی حنوم اور درون کا سُگم ہے۔ عین راجل بلاشبہ قدیم یروشلم میں ایک مذہبی مقام تھا اور اسے بادشاہوں کی رسم تاچپوشی کے لئے استعمال کیا جاتا تھا۔ (21) مقامی روایات کے مطابق ملک صدق یروشلم کا بانی تھا اور اس شہر کے بادشاہوں کو ملک صدق کی اولاد سمجھا جاتا تھا۔ (22) عبرانی مناجاتوں میں یہوداہ کے داؤدی بادشاہوں کو تاج پوشی کے وقت بتایا جاتا تھا کہ۔۔۔ ”تم ملک صدق کے قبلے کے کا ہن ہوا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ہو۔“ چنانچہ انہیں وراشت میں یہ قدیم خطاب اور اس کے علاوہ کوہ صیہوں پر یہوی رسومات سرانجام دینے کا اختیار ملتا۔ (23) ملک صدق سے (حضرت) ابراہیم کی ملاقات کا قصہ ممکن ہے شہر کو (حضرت) داؤد کی طرف سے فتح کرنے کے موقع پر بیان کیا گیا ہو، تاکہ اس کے خطاب کا جواز مہیا کیا جاسکے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ (حضرت) داؤد کے اجداد یروشلم کے بانی کی عزت کرتے تھے اور اس سے عزت کرواتے تھے۔ (24) لیکن اس قصہ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ (حضرت) ابراہیم شہر کے باشندوں کی میزبانی کا جواب دیتے ہیں اور ملک صدق کو اپنے مال غنیمت کا عشر باج گزاری کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ لیکن اسی موقع پر ایک اجنبی دیوتا کی برکت قبول کرتے ہیں۔ اس طرح یہ واقعہ بزرگان بنی اسرائیل کی طرف سے پرانے باشندوں کے لئے احترام اور ان کے رسول کے لئے احترام کی عکاسی کرتا ہے۔

ملک صدق کا دیوتا ایل علیون۔۔۔ سب سے بڑا خدا کہلاتا تھا۔ یہ خطاب بعد میں یہواہ کو دیا گیا جب وہ یروشلم کا سب سے بڑا خدا بن گیا۔ ایل علیون، کوہ زیفون کے بعل دیوتا کے خطابات میں سے بھی ایک تھا۔ (25) قدیم دنیا کے دیوتا اکثر اوقات ایک دوسرے میں مدغم ہو جایا کرتے تھے۔ اسے دھوکہ دہی یا مصلحت کو شی نہیں سمجھا جاتا تھا۔ ویسے بھی دیوتا اس طرح کی الگ الگ اور ٹھوس ہستیاں نہیں تھے جن کی شخصیات ایک دوسرے کے لئے ناقابل قبول رہتی ہوں۔ دراصل وہ سب ماورائی حقیقت اور تقدیس کی علامتیں تھے۔ چنانچہ جب لوگ کسی نئی جگہ پر آتے تو وہ اپنے دیوتاؤں کو مقامی دیوتاؤں میں مدغم کر دیتے۔ نئے دیوتا اپنے پیشوؤں کی کچھ خوبیوں اور فرائض کے مالک بن جاتے۔ مثلاً اسرائیلیوں کے عقائد کے مطابق (حضرت) موسیٰ کا خدا، یہواہ اور حضرت ابراہیم کا خدا، ایل شریٰ ایک ہو گئے تھے۔ اسی طرح جب اسرائیلی یروشلم میں داخل ہوئے تو یہواہ کو بعل ایل علیون میں مدغم کر دیا گیا جس کی عبادت یقینی طور پر کوہ صیہوں پر ہوتی تھی۔

یروشلم کا ذکر مصر سے اسرائیلیوں کے خروج کی داستانوں میں کہیں نہیں ملتا۔ حالانکہ خروج اسرائیلیوں کی ارض موعودہ کی طرف پیش رفت کا پہلا مرحلہ ہے۔ لیکن خروج کے واقعات کا ذکر جس انداز میں درج ہے اس نے انہیں دیومالائی بنادیا ہے۔ یہ جدید مورخ کو کسی طرح مطمئن نہیں کرتا، بنیادی طور پر یہ نجات اور مراجعت وطن کی کہانی ہے جس نے یہودیوں کو ان کی طویل اور المنک تاریخ کے تاریک ترین لمحوں میں زندہ رکھا۔ خروج کا قصہ ان عیسائیوں کو بھی حوصلہ دیتا ہے جو جبرا استبداد اور نا انصافی کے خلاف جدوجہد میں مصروف ہیں، لیکن یروشلم اس کہانی میں کہیں سنائی نہیں دیتا۔ کوہ صیہون پر آ کر خروج کی روایات اسرائیلیوں کی روحانیت میں زیادہ اہمیت اختیار کر گئیں۔ اس سے ملتے جلتے واقعات مشرق قریب کی تخلیق و تصادم کی دیومالائی پائے جاتے ہیں۔ لیکن صرف اتنے فرق کے ساتھ یہ تخلیق کائنات کے وقت جنم لیتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے بلکہ انسانوں کی دنیا میں نظر آتے ہیں اور پھر جو کچھ وجود میں آتا ہے وہ کائنات نہیں بلکہ ایک قوم ہوتی ہے۔ (26) بعل اور مردک کی داستانیں ایک شہر اور ایک معبد کی تعمیر کے ساتھ ختم ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح خروج کی داستان بھی مادر وطن کی تسخیر کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے۔ اس عرصہ میں بنی اسرائیل انتشار و افتراق کی حالت سے نکل کر خدا کی قسم کردہ حقیقت میں داخل ہو جاتے ہیں۔ مردک نے سمندری عفریت کی نعش کو پھاڑ کر دنیا تخلیق کی تھی، خروج میں یہواہ بحر قلزم کو پھاڑ کر اپنے لوگوں کو فرار کا راستہ مہیا کرتا ہے تا کہ تعاقب میں آنے والی فرعون کی فوج سے نجٹلیں۔ مردک نے عفریتوں کو فنا کیا تھا، یہواہ نے مصریوں کو غرق کر دیا، جس طرح نئی مخلوق ہمیشہ دوسروں کی تباہی کے نتیجہ میں اپنی بقا حاصل کرتی ہے اسی طرح یروشلم کی تاریخ میں بھی بعد میں یہی کچھ دیکھنے میں آتا ہے۔۔۔ انجام کا رب بنی اسرائیل سمندر کے منقسم پانی میں سے گزر کر آزادی اور سلامتی میں پہنچ گئے۔ مصری غرقاب ہو گئے۔ غرقابی ہمیشہ ابتدائی پانیوں کی طرف واپسی کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے۔ ابتدائی پانی۔۔۔ بنیادی عصر۔۔۔ ماضی کا خاتمه۔۔۔ اور ایک نئی پیدائش۔۔۔ (27) یوں پانی غرق کرنے کے علاوہ بحال کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہے۔ بحر قلزم سے گزر کر اسرائیلی اپنے خدا، یہواہ کی ایک نئی تخلیق بن گئے۔

اگلے مرحلے میں بنی اسرائیل، مقدس کوہ سینا کی طرف سفر کرتے ہیں۔ (حضرت) موسیٰ علیہ السلام اپنے خدا سے ملنے کے لئے چوٹی پر چڑھتے ہیں اور یہواہ بھرے ہوئے طوفان کی چنگھاڑوں اور آتش فشاں کی گھن گرج میں وہاں اترتا ہے۔ بقیہ لوگ فالصے پر رہتے ہیں کیونکہ ناشناس لوگوں کے لئے خدا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ کم از کم یہودی روایات میں تو یہی ہے کہ خدا سے رابطہ صرف اور صرف یہاں یافتہ اشرافیہ ہی کر سکتی ہے۔ کوہ سینا پر یہواہ بنی اسرائیل کو ایک معاہدہ کے تحت باقاعدہ اپنی قوم بنالیتا ہے۔ اس

معاہدہ کی مہر کے طور پر (حضرت) موسیٰ کوتوریت عطا کی جاتی ہے جس میں دس فرائیں درج تھے۔ لیکن یروشلم سے بابل کو جلاوطنی تک توریت اسرائیلیوں کی مذہبی زندگی کی اساس نہ بن سکی۔

ارض موعودہ میں داخل ہونے کی اجازت ملنے سے پہلے بنی اسرائیل کو صحراء میں چالیس سال کی ایک آزمائش سے گزرنا پڑا۔ لیکن یہ کسی بھی طرح روحانی تربیت کا ذریعہ نہ بنی اور بنی اسرائیل نے اس دوران کسی صبر و استقلال اور استقامت کا مظاہرہ نہ کیا۔ باہل صاف طور پر بتاتی ہے کہ ان برسوں میں لوگ مسلسل یہواہ کے خلاف شکوہ کنان رہے۔ یہاں تک کہ بغاوت پر اتر آئے۔ انہیں اس آسان زندگی کی خواہش تھی جو وہ مصر میں گزار چکے تھے۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ صحراء کا شامی دیوتا مات بلا کا بھوکا تھا۔ وہ پاتال، موت اور تیرگی کا بھی دیوتا تھا۔ چنانچہ صحراء ایک مہیب علاقہ تھا کیونکہ یہ بھٹکا دیتا تھا اور عفریت بن جاتا تھا۔ (28) عفریت سب کچھ ہڑپ کر جاتا ہے۔ اسرائیلی تصورات میں یہ کامل ویرانی کا مقام رہا۔ چنانچہ خروج کے دوران پیش آنے والی بیابان نور دی اسرائیلیوں کی یادوں کا مقدس حصہ نہ بن سکی جیسا کہ کچھ علمائے باہل سمجھتے ہیں۔ انبیاء اور باہل کے مصنفین اس کا ذکر کر کے کہتے تھے: ”خدا نے ہولناک بیابان میں اسرائیل کو اپنی قوم بنایا۔“ (29) یہ صحراء جس سے بنی اسرائیل کا واسطہ پڑا یقیناً بے آب و گیاہ تھا۔ انسانی رہائش سے بالکل خالی اور کسی ذی روح سے نا آشنا۔ یہ مسلسل پھیلتا ہوا مضائقات کی بستیوں اور آبادیوں کو چاٹ جاتا تھا۔ اسرائیلیوں نے اپنی بیابان نور دی کے دوران ایک شہر کی تباہی دیکھی جو صحراء کی دست برو سے وجود سے عدم میں چلا گیا۔ (30) وہاں ایک بار پھر سب کچھ خالی تھا۔ اب وہ اساطیری جانوروں کا مسکن تھا۔ بنی اسرائیل چالیس سال تک ویرانیوں میں بھکننے رہے۔ چالیس سال تک۔۔۔ ایک ایسا جملہ تھا جو کسی طویل ترین اور تکلیف دہ عرصہ کے معنوں میں استعمال ہونے لگا۔ چنانچہ چالیس سال تک اسرائیلیوں کو اس عفریتی سلطنت میں مشکلات سے دوچار ہونا پڑا۔ (31) اور یوں اس سے پہلے کہ ان کا خدا انہیں اپنے گھر واپس لاتا۔۔۔ وہ علامتی انداز میں فنا کی وادی میں اتر گئے۔

خدا نے اس بیابان میں اپنی قوم کو بالکل ہی نہیں چھوڑ دیا تھا۔ دوسری خانہ بدوش قوموں کی طرح بنی اسرائیل کے پاس بھی خدا سے رابطہ کا ایک ذریعہ اور خدا کی موجودگی کی ایک علامت موجود تھی، اس نے انہیں زندہ رکھا۔ جس طرح قدیم آسٹریلوی لوگ ایک مقدس لٹھا اپنے ساتھ اٹھائے پھرتے تھے، اسی طرح اسرائیلی بھی اپنے ساتھ ”تابوت یہواہ“ اٹھائے پھرتے تھے۔ تابوت یہواہ ایک صندوق تھا جس میں خدا کے ساتھ معاہدے کی الواح یعنی فرائیں عشرہ تھے یہ خزینہ تبرکات یروشلم میں آنے کے بعد اسرائیلیوں کے لئے زبردست اہمیت اختیار کر گیا ہے۔

(نقشہ) MAP

بنی اسرائیل کے خروج کی یاد میں آج بھی یہودی مغربی کنارے کے بیابان میں توریت کی تلاوت کرتے ہیں۔ ان کا ایمان ہے کہ اس طرح وہ خدا سے ایک پسندیدہ قوم کی حیثیت سے رابطہ بحال کر لیں گے۔

بابل میں ”تابوت یہواہ“ کا زیادہ تر تذکرہ بعد کے ذرائع سے شامل ہوا ہے چنانچہ یہ اندازہ لگانا مشکل ہے کہ اس کی اصل شکل و صورت کیا تھی۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک نقیص قسم کا صندوق تھا اس کے پہلوؤں پر فرشتوں کی دو طلائی مورتیاں تھیں۔ باہر کی طرف پھیلے ہوئے ان کے پر یہواہ کے تخت کی پشت بناتے تھے۔ (32) ہم جانتے ہیں کہ خالی تخت خدا کی مندی کی علامت کے طور پر مختلف اقوام میں استعمال ہوتا رہا ہے۔ یہ خدا کو اس کے عبادت گزاروں کی طرف سے ایک دعوت ہوتی تھی کہ وہ آئے اور اپنے عبادت گزاروں کے درمیان بیٹھے۔ یہودیوں میں خالی تخت خدا کی مندی کے طور پر ہمیشہ کے لئے ایک ٹھوس علامت بن چکا تھا۔ چنانچہ صحرانور دی کے دوران یہ تخت یہواہ کی موجودگی کی ایک بدیہی علامت تھا جسے ایک گشتنی معبد یعنی شامیانے کے معبد میں رکھا جاتا تھا۔ عہد نامے کے اس صندوق کو جو یہواہ کا تخت بھی تھا، لاوی قبیلہ کے ارکان اٹھائے رکھتے تھے۔ انہیں (حضرت) موسیٰ کے بھائی (حضرت) ہارونؑ نے کہا ہے مقرر کیا تھا۔ خود ہارون کا ہن اعلیٰ تھے۔ بنی اسرائیل کے لئے یہ صندوق ایک عسکری پالادیم (محافظ) تھا۔ کیونکہ اس کی خدائی قوت، جوانہتائی مہلک ہو سکتی تھی، اسرائیلیوں کو ان کے دشمنوں سے محفوظ رکھتی تھی۔ لہمیں بتاتا ہے کہ دن چڑھنے پر اسرائیلی جب اپنا سفر شروع کرتے تو یہواہ کی موجودگی کا مظہر ایک بادل تابوت پر چھا جاتا اور (حضرت) موسیٰ کہتے۔ ”اٹھائے خداوند تیرے دشمن پر اگنڈہ ہو جائیں اور جو تجھ سے کینہ رکھتے ہیں وہ تیرے آگے سے بھاگ جائیں۔“ جب شام ہوتی اور اسرائیلی اپنے خیے گاڑ دیتے تو حضرت موسیٰ کی آواز بلند ہوتی۔ ”اے خداوند۔ ہزاروں ہزار اسرائیلیوں میں لوٹ کر آ جا۔“ (33) (گنتی 10:35-36)۔ تابوت یہواہ، اسرائیلیوں کو تحفظ کے ایک غلاف میں محفوظ رکھنا اور صحراء کی تاریکی اور بیابانی کو ان کے لئے سکونت کے قابل بنائے رکھنا۔ کیونکہ اس کی موجودگی اسرائیلیوں کو خدا سے مربوط ہونے کا احساس بخشنی رہتی تھی۔

کنعان میں اسرائیلیوں کی ابتدائی زندگی کے بارے میں ہم بہت کم معلومات رکھتے ہیں۔ P کا کہنا ہے کہ جب وہ ایک دفعہ کوہ سنتانی علاقے میں آباد ہو گئے تو انہوں نے سیلا میں تابوت یہواہ کے لئے ایک مظله تیار کیا۔ P کا خیال ہے کہ یہواہ نے کوہ سینا پر (حضرت) موسیٰ کو اس مظله (شامیانہ) کی تعمیر کے لئے نہایت واضح قسم کی یادیات دی تھیں۔ اگر یہ تابوت واقعی ابتداء میں ایک خیمہ میں رکھا گیا تھا جیسا کہ خروج کی داستان میں بتایا گیا ہے تو پھر یہ ایل دیوتا ہی کی تقلید تھی جو خیمہ کے معبد میں رہتا تھا اور قوانین کا مा�خذ و بنیع تھا۔ وہ جب ایل سباؤت (رب الافواج) کی حیثیت سے نمودار ہوا تو طلائی فرشتوں والے تحنت پر ہی بیٹھا تھا۔ سمونیل کی کتاب میں لکھا ہے کہ تابوت یہواہ کی سیلا کے ایک روائتی معبد میں رکھا گیا (34) لیکن قرآن بتاتے ہیں کہ اسرائیلی متعدد دوسرے معبدوں میں بھی عبادت کے لئے جاتے تھے۔ یہ معبد دان، بیت ایل، مصفاہ، عفار، اور جبعون میں تھے۔ علاوہ ازیں معبدوں سے باہر ہونے والی عبادتوں میں بھی شریک ہوتے تھے۔ متعدد اسرائیلی یہواہ کے ساتھ ساتھ دوسرے خداوں کی عبادت اس لئے کرتے تھے کہ یہواہ ابھی تک نوادرد یوتا تھا اور کنعان میں اچھی طرح مقبول نہیں ہوا تھا۔ اسے ابھی تک سنائی، فاران اور شعیر کے جنوبی علاقوں کا خدا سمجھا جاتا تھا۔ جہاں لوگ سمجھتے تھے کہ جب ان کی قوم مشکل میں بیتلہ ہوئی تو وہ اپنا علاقہ چھوڑ کر بادلوں پر سوار ہوا اور اپنی قوم کی مدد کے لئے پہنچ گیا۔ (35)

اسرائیلیوں نے اپنا طریقہ عبادت بھی کچھ ایسا وضع کر لیا تھا جس میں کوہ سینا پر (حضرت) موسیٰ سے خدا کی ملاقات کے وقت کا ماحول اور کیفیت پیدا کی جاتی تھی مثلاً نر سنگھے بجا کر گرج اور کڑک پیدا کرنا۔ لوبان سلگا کر اس کے دھوئیں کے بادل بنانا جو پہاڑ کی چوٹی پر چھا گئے تھے۔ یہی عناصر بعد میں یو شلم کی مذہبی رسم میں داخل ہو گئے۔ مذہبی تقریب کا یہ ماحول کوہ سینا پر یہواہ کے ظہور کے وقت بننے والے ماحول کی پوری پوری نقلی تھا۔ اس طرح عبادت گزاروں میں خدا کی موجودگی کا احساس پیدا کیا جاتا تھا (36) یہ سلسہ آج بھی جاری ہے۔ مشرق قریب کے دیگر دیوتاؤں کے برعکس یہواہ پہلا دیوتا تھا جسے متحرک دیوتا سمجھا جاتا تھا۔ وہ کسی ایک معبد یا مقام سے وابستہ اور صرف اسی تک محدود نہیں تھا۔ اسرائیلی ابھی تک مصریوں سے اپنی نجات کی یادمناتے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ موسم بہار کا جشن اس آخری ضیافت کی یاد میں تبدل ہو گیا جو مصر میں اسرائیلیوں کو نصیب ہوئی تھی۔ تب موت کا فرشتہ انہیں تو نظر انداز کر گیا لیکن جاتے ہوئے مصریوں کے پہلوٹھی کے بیٹوں کی روئیں قبض کرتا چلا گیا۔ چنانچہ خاندانی ضیافت کی اس تقریب کو عیند گزرال کہتے ہیں۔

1030 قبل مسیح کے قریب شمالی کوہستانی ملک کے لوگوں میں اخوت اور یک جہتی کی ایک لہر اٹھی۔ وہ اپنے آپ کو مشترکہ اجداد کی اولاد اور ممتاز قوم سمجھتے تھے۔ تب تک ان پر ”منصافین“ (قاضیوں) یا سرداروں کی حکومت رہی تھی۔ لیکن پھر ان میں دوسری قوموں کی طرح مرکزی بادشاہت قائم کرنے کی خواہش بیدار ہوئی۔ بابل کے آخری منصف ”سموئیل“، اس خیال کا مخالف تھا۔ اس نے اپنی قوم کو بادشاہت میں پائی جانے والی سفرا کی اور جبراً استبداد کے بارے میں متنبہ کیا۔ (37) لوگوں کو بتایا کہ ایک بادشاہ کے ہاتھوں رعایا کو کیا کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اسرائیل کی بادشاہت کا تصور ان کے لئے انتہائی سحرانگیز تھا۔ ویسے بھی وقت کے ساتھ ساتھ اب یہ فطری اور ناگزیر ہو چکا تھا۔ (38) اشور، میسوبوئیمیا اور مصر کی عظیم طاقتیں گھنارہ تھیں۔ ان کا خلاپورا کرنے کے لئے چھوٹی ریاستیں مستحکم ہو رہی تھیں۔ ان میں عمون، ادوم اور مواب سرہست تھیں۔ اسرائیلیوں نے خود کو جارح مریضوں میں گھرا ہوا پایا۔ یہ جارح قوتیں کنعان کے

(نقشہ) MAP

کوہستانی علاقوں پر جھپٹنے کو تیار رہتی تھیں۔ عمونی اور موابی تو ان کے مشرقی علاقوں میں گھس آئے تھے۔ فلسطینیوں نے مغرب سے یورش کر دی تھی۔ ایک موقع پر تو فلسطینیوں نے سیلا شہر پر قبضہ کر کے اسے زمین بوس کر دیا تھا۔ وہ ”تابوت یہوا“، کو جنگی ٹرافی کے طور پر اٹھا لے گئے۔ لیکن اس پالادیم کی ہلاکت آفرینی سے خوف زده ہو کر وہ اسے واپس رکھ گئے۔ اب یہ بات صاف ہو گئی تھی کہ تابوت یہوا کو کسی عام معبد یا مندر میں مزید تحفظ میسر نہیں چنانچہ اسرائیلیوں نے اس بیت ناک قدس کو اپنی سر زمین کے سرحدی علاقے قیرط جیرم کے ایک رہائشی مکان میں رکھ دیا۔ (39) علاقے میں موجود سیاسی افراحتی نے اسرائیلیوں کو بالآخر قائل کر دیا کہ انہیں کسی طاقتو رہا بادشاہ کی قیادت کی ضرورت ہے۔ چنانچہ سموئیل نے طویل تذبذب کے بعد فیصلہ کیا کہ قبیلہ بنی امین کے ساؤل کو اسرائیل کا پلا بادشاہ بنادیا جائے۔ سموئیل نے اسے پتختی دے دیا۔

ساؤل نے کنunan کے کسی بھی سابق بادشاہ کے بر عکس بہت بڑے علاقے پر حکمرانی کی۔ اس نے تمام تر مرکزی کوہستانی علاقے، اردن کے دونوں طرف کے علاقے اور یو شلم کی شہری ریاست کے شمالی علاقے اپنی قلمرو میں شامل کر لئے۔ یو شلم پر ابھی تک یوسیوں کی حکمرانی تھی۔ بابل میں ساؤل ایک المناک کردار ہے جسے اس کے خدا نے چھوڑ دیا۔ اس نے مذہبی معاملات میں اپنی طرف سے نئی باتیں شامل

کرنے کی گستاخی کی تھی۔ وہ معذور کر دینے والے مایوسی کے دوروں کا شکار ہو گیا اور بے بسی کے ساتھ اپنی طاقت زائل ہونے کا تماشہ دیکھتا رہا۔ لیکن اس کے انعام سے قطع نظر ہم دیکھتے ہیں کہ ساؤل نے اسی شہر کو اپنا دارالحکومت بنانا کر بذریعہ اپنے مفتوحہ علاقوں کو وسعت دی۔ کوہستانی علاقوں کے لوگ رضا کارانہ طور پر اس کی صفوں میں شامل ہو گئے۔ بیس سال تک وہ اپنی بادشاہت کو دشمنوں سے بچائے رکھنے میں کامیاب رہا۔ لیکن پھر ساؤل اور اس کے بیٹے جونا تھن کو فلسطین نے کوہ جلبوعہ کی لڑائی میں 1010 قم میں قتل کر دیا۔ ساؤل کی موت کے بعد بابل کے کئی گیتوں میں اس کی مدح سرائی کی گئی۔

ساؤل اور جونا تھن ہر دل عزیز اور خوبصورت تھے

زندگی اور موت دونوں میں کوئی انہیں الگ نہ کر سکا

وہ عقاب سے زیادہ تیز

اور شیروں سے زیادہ طاقتور تھے (40)

یہ مرثیہ اس کے کسی وفادار پیروکار نے نہیں بلکہ ایک باغی نے کہا تھا۔ جو اس کے دربار سے فرار ہو گیا تھا۔ ساؤل کی سلطنت میں داؤ دا ایک مراعات یافتہ جنگجو تھا۔ وہ جونا تھن کا گہرا دوست بن گیا تھا۔ ساؤل نے اپنی بیٹی میکل کی شادی اس سے کر دی تھی۔ صرف وہی ایک شخص تھا جو ساؤل کی پریشانیوں میں اس کے لئے راحت و اطمینان کا ذریعہ بتاتا تھا۔ داؤ د کے گیت ساؤل کو تسلیم دیتے۔ لیکن بابل کے مورخین کا کہنا ہے کہ ساؤل، داؤ د کی مقبولیت اور وقار کو برداشت نہ کر سکا اور اس سے حسد کرنے لگا۔ چنانچہ داؤ د کو اپنی جان بچانے کے لئے فرار ہونا پڑا اپہلے تو وہ بیو شلم کی ویران جنوبی پہاڑیوں میں ”ھابیرہ“ کی حیثیت سے جنگجوؤں کے ایک گروہ کے ساتھ رہا پھر وہ فلسطینیوں سے مل گیا جو اسرائیلیوں کے جانی دشمن تھے۔ جب داؤ د نے ساؤل کی موت کی خبر سنی تو وہ صقلانج میں اپنے قبیلے یہوداہ کے ساتھ مقیم تھا۔ (41) یہ قصہ اسے اس کے نئے آقا گاتھ کے بادشاہ آکیش نے جا گیر کے طور پر دے دیا تھا۔ اس کا آقا گاتھ کا بادشاہ آکیش تھا۔ بابل میں داؤ د کا کردار متصاد قتم کی صفات کا حامل ہے۔ وہ شاعر، موسیقار، جنگجو، باغی، سازشی، زانی اور دہشت گرد دکھایا گیا ہے۔ ابتداء میں وہ بابل میں مجسم خیر نظر نہیں آتا، لیکن بعد میں اسے اسرائیل کے مثالی بادشاہ کی حیثیت سے قابل احترام قرار دیا جاتا ہے۔ ساؤل کی موت کے بعد اس کا بیٹا اشبال (بابل میں اس کا نام اشبوست لکھا ہے) اسرائیل کی شمالی ریاست کا حکمران بنًا۔ اس دوران داؤ د نے جنوبی ریاست

(یہوداہ) کے غیر گنجان آباد علاقے میں اپنی حکومت قائم کر لی اور حبرون کو اپنادرال حکومت بنالیا۔ فلسطینیوں نے داؤد کی اس مہم جوئی کو یقیناً پسند کیا ہوگا کیوں کہ وہ اپنے اس ”ما تحت“ کے ذریعے کوہستانی علاقے میں اثر و رسوخ حاصل کر سکتے تھے۔ لیکن داؤد دراصل اپنا کھیل، کھیل رہا تھا۔ وہ اپنے عزم و ارادے کے ساتھ آگے بڑھتا گیا۔

یروشلم میں یہودی اپنے ارد گرد و حریم بادشاہوں کی موجودگی پر مضطرب ہو رہے تھے۔ ان کے شمال میں اسرائیل کی ریاست تھی جس کا حکمران ساؤل کا بیٹا اشبوست اور جنوب میں یہوداہ کی ریاست تھی جس کا بادشاہ داؤد تھا۔ لیکن اشبوست ایک کمزور حکمران تھا۔ اس کی ریاست اپنے باپ کے مقابلے میں چھوٹی تھی۔ پھر اسے اپنے ایک اہم ترین کمانڈر کی بے وفائی کا دھپکا پہنچا جو اسے چھوڑ کر داؤد سے جاملا تھا۔ پھر کچھ عرصہ بعد اشبوست کو قتل کر دیا گیا۔ اس کے قاتل فرار ہو کر داؤد کے دربار میں پہنچ گئے۔ اب داؤد کا عروج شروع ہو گیا۔ اس نے اشبوست کے قاتلوں کو پھانسی دے کر بڑی ذہانت سے خود کو اس کے قتل سے بری الذمہ قرار دلوالیا۔ ساؤل کی بیٹی میکل کے خاوند کی حیثیت سے داؤد اب اسرائیل کے تخت کا بھی جائز وارث تھا۔ شمالی ریاست کے قبائلی عمائدین جلد ہی داؤد کے دربار میں پہنچ گئے۔ حبرون میں یہوداہ کے معبد میں داؤد کے ساتھ معاهدہ کے کے اسے اسرائیل کے بادشاہ کی حیثیت سے پتسمہ دے دیا۔ داؤد اب اسرائیل اور یہوداہ کی متحدہ ریاستوں کا حکمران تھا۔ لیکن ان ریاستوں کے عین وسط میں یوسیوں کا شہر یروشلم تھا جسے داؤد اپنادرال حکومت بنانا چاہتا تھا۔

=====

Virtual Home for Real People

حوالہ جات

- 1 یشویع 10:40 (یروشلم بابل (لندن) 1966ء۔

- 2 یشویع 15:63 قضاۃ 1:21

3. Robin Lane fox, The Unauthorized Version: Truth and

Fiction in the Bible (London, 1991), pp. 225-33.

یشوع 1:27-36 قضاۃ 17:11-18 -4

5. J. Alberto Soggin, A History of Israel from the John Bowden (London 1984), pp. 141-43. Gosta W. Ahstrom, The History of Ancient Palestine (Minneapolis 1993), pp. 34-48.
 6. AHLSTROM, Histroy of Ancient Palestine, pp. 234-35, 247-48---Amnon Ben Tor ed; The Archeology of Ancie Israel, Trans. R. Greenberg (New Haven and London, 1992), p. 213
 7. G. E. Mendenhall, The Tenth Generation (Baltimore), 1973. N.P. Lemche, Early Israel: Anthropological and Historical Studies of the Israelite Society before the Monarchy (Leiden, 1985). D. C. Hopkins, the High Lands of Canaan (Sheffield, 1985). R. B. Coote and K. W. Whitelam, The Emergence of Early Israel in Jostproca; {ers[ectove (Sjeffoe;d. 1987).
- James D. Mazrtin, Israel as a Tribal Society. R. E. Clements. The World of Ancient Israel: Sociological, Anthropological and Political H. G. M. Williazm son in Clements, World of Ancient Israel pp. 141-42.

کنعانی قبائل را کیل اور لیہ کی شناخت ہی تھی۔ -8

کتاب پیدائش 12:1 -9

کتاب پیدائش 23:5 -10

کتاب پیدائش 12:7 -11

ماہر لسانیات حضرت یعقوبؑ کا نام لفظ عقب (ایڑھی) کے مادے سے مانوذد کیجھتے ہیں۔ - 12

کتاب پیدائش 27:36 میں اس نام کا مطلب ”کسی کو ہٹا کر جگہ لینے والا ہے---“
”یاقوب“ کے معنی ”خدا حفاظت کرنے“ ہیں۔

کتاب خروج 6:3 - 13

کتاب پیدائش 28:11-1 - 14

ایضاً 18:1-1 - 15

ایضاً 22:2 - 16

تواریخ 3:1 - 17

پیدائش 22:14 - 18

ایضاً 17:20 - 19

20. Harold H. Rowley, Worship in Ancient Israwel: Its forms & Meaning (London 1967), pp. 17-19.

21. Benjamin Mazar, The Mountain of the Lord (New York. 1075), p. 157

22. Flavius Josephus, The antiquites of the Jes--- 1:40.

کتاب زبور 110:4 - 23

24. R. E. Clements, God & Temple (Oxford 1965), p. 43

25. Ibid pp. 44-4,

26. Jonathan Z. Smith, Earth & Gods in "Map is not Territory: Studies in The History or Religions (Leidon, 1973), p. 110.

27. Mircea Eliade, Patterns in Comparative Religion (London-1958), pp. 118-226.

28. Smith, Earth & Gods, p. 109.

	كتاب استثنا۔	32:10	-29	
34:12	كتاب يسعاہ	38:26	كتاب ایوب 2:2	-30
4:25	كتاب یرمیاہ	34:11	كتاب یرمیاہ 4:25	-31
10:1-8	استثنا	10:22	خروج 25: 10-22	-32
10:35-36	كتاب گنتی۔			-33
3:3	سيموئيل 1			-34
5:4-5	تضاهہ	2:33	زبور 68:8	-35
RICHAR J. CLIFORD, The Cosmic Mountain in Canaan & the Old Testament (Cambridge, Mass, 1972) PP-114-23.				
36.	Clements, God & Temples, pp. 25-28.			
	سيموئيل 1	27:12, 10:11, 8:22, 7:2	-37	
38.	Keith W. Whitelem, Israelite Kingship: The Royal Ideology and its Opponents. Clements, World of Ancient Israel, pp. 119-26.			
	سيموئيل 1	7:1, 6:1, 11:5, 4:1	-39	
	سيموئيل 2	1:23	-40	
	صیقلاج کا اصل مقام تاریکی میں ہے۔ کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ یہ سبع سے اڑتا لیں کلو میٹر دور موجودہ تل الصخارہ کا قدیم نام ہے۔		-41	

تیسرا باب

شہرِ داؤد

یوسیوں کو یقین تھا کہ (حضرت) داؤد علیہ السلام بھی بھی ان کے شہر کو فتح نہیں کر سکیں گے۔

یروشلم ان دنوں کنعان کی شہری ریاستوں میں اگرچہ زیادہ مقدس یا طاقتوں تو نہیں تھا لیکن (حضرت) داؤد کی نو خیز بادشاہت کے مقابلے میں بہت پرانا اور اچھی طرح قلعہ بند تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کے بارے میں مشہور ہو چکا تھا کہ یہ ناقابل تفسیر ہے۔ جب (حضرت) داؤد کے سپاہی اوپل کے نیچے پہنچے تو یوسیوں نے تفحیک آمیز انداز میں کہا۔۔۔ ”تم بھی بھی شہر میں داخل نہیں ہو سکتے۔ ہمارے اندر ہے اور لگڑرے بھی تمہیں روکے رکھیں گے“۔۔۔ (1) غالباً انہوں نے شہر کی دیواروں پر اپنے انہوں اور لنگڑوں کا گشت بھی کرایا تھا کیونکہ طی فوج کی روایت تھی کہ وہ دشمنوں کو دراندازی سے روکنے کے لئے ایک انتباہی اور تفحیک آمیز مظاہرہ کیا کرتے تھے۔ (2) لیکن (حضرت) داؤد نے مرعوب ہونے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے اپنی فوج میں اعلان کر دیا کہ جو شخص سب سے پہلے کسی یوسی کو مار گرائے گا اسے فوج کا سپہ سالار مقرر کر دیا جائے گا۔ (حضرت) داؤد کے پرانے ساتھی اور زریاہ کے بیٹے یواب نے یہ چیز قبول کر لیا۔ وہ جیہوں چشمہ سے شہر میں پانی لانے والی نالی ”وارنز شافت“ کے ذریعے شہر میں داخل ہو گیا۔ (3) تاریخ ٹھیک طرح سے نہیں بتاتی کہ (حضرت) داؤد نے یروشلم کو کس طرح فتح کیا۔ باطل کا متن بھی نامکمل اور دھنڈلا ہے۔ لیکن یہ تفسیر تاریخ ساز تھی اور اس کے اثرات آج بھی ارتعاش پیدا کر رہے ہیں۔ ایک شہر جو قب تک کنعان میں ایک ثانوی حیثیت کا مالک تھا، روایت کے اس دائرے میں پہنچا دیا گیا جو انجام کا رتاریجی توحید پرستی ثابت ہوئی۔ اسی تفسیر نے بعد ازاں اسے دنیا کا ایک محترم مقدس اور اسی وجہ سے سب سے زیادہ مقنائزہ شہر بنادیا۔

(حضرت) داؤد نے 1000 قم میں جب یروشلم کو فتح کیا تو شخص اس بات پر اطمینان کا اظہار کیا ہو گا کہ ان کی متحدہ ریاستوں پر مشتمل سلطنت کے وسط میں موجود دشمن یوسی شہر ان کے زریگیں آگیا ہے جو ان کے پایہ تخت کے لئے انتہائی موزوں ہے۔ اسرائیل اور یہوداہ کا اتحاد بہت کمزور ساتھا۔ شمالی ریاست ابھی تک خود کو الگ وجود سمجھتی تھی۔ اس کے لوگ (حضرت) داؤد کی اطاعت کے بارے میں ملے جلے جذبات رکھتے تھے۔ کچھ لوگ انہیں سازشی سمجھتے تھے اور اطاعت پر تیار نہیں تھے۔ ان حالات میں حبرون

میں بیٹھ کر حکمرانی کرنا، دلنشمندی نہیں تھی۔ یروشلم ایک پرانی شہری ریاست ہونے کے ساتھ ساتھ غیر جانبدار علاقہ تھا۔ اس کا تعلق نہ تو (حضرت) داؤد کی اپنی ریاست یہودا سے تھا اور نہ الحاقی ریاست اسرائیل سے۔ چنانچہ قدیم قبائلی روایات سے آزاد تھا۔ چونکہ (حضرت) داؤد نے اس شہر کو اپنے سپاہیوں کی مدد سے فتح کیا تھا چنانچہ یہ علاقے کی رسم کے مطابق فاتح کی ذاتی جائیداد تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اسے نیانام ”ار۔ داؤد“ دیا گیا جس کے معنی ہیں شہر داؤد (4)۔ اب یہ باقاعدہ ایک غیر جانبدار شہربن گیا جس کا الحاق نہ اسرائیل سے تھا اور نہ یہودا سے۔ داؤد اسے اور اس کے مضافات کو اپنی ذاتی شاہی اقلیم کے طور پر استعمال کر سکتے تھے۔ اسے جغرافیائی فوقيت بھی حاصل تھی۔ مستحکم قلعہ بند ہونے کے علاوہ حبرون کے برعکس مرکزی مقام پر واقع تھا۔ بلند و بالا کو ہستانی علاقے میں ہونے کی وجہ سے سنائی اور نیجیوں کے فلسطینی قبائلیوں اور دریائے اردن کے مشرقی کنارے پر تشکیل پانے والی نئی بادشاہتوں آموں اور مواب کے ناگہانی حملوں سے بھی محفوظ تھا۔ داؤد نے اسے اپنا دارالحکومت بنالیا۔ اپنے نئے دارالحکومت میں (حضرت) داؤد اب مسلسل پھیلتی ہوئی سلطنت کے غیر متنازعہ بادشاہ تھے جو کنغان کے کوہستانی ملک کی سب سے بڑی ریاست بننے والی تھی۔

(حضرت) داؤد کا دارالحکومت کیسا تھا؟ آج کے معیار کے مطابق یہ ایک چھوٹا سا شہر تھا۔ تقریباً پندرہ ایکٹر پر محیط، علاقے کے دوسرے قصبوں کی طرح ایک قلعہ، ایک محل اور سپاہیوں اور شہریوں کے مکانات پر مشتمل چھوٹا سا شہر۔۔۔ اس میں دو ہزار سے زیادہ افراد نہیں رہ سکتے تھے۔ بائبل وضاحت سے نہیں بتاتی کہ داؤد نے شہر کو تسخیر کر لیا لیکن مورخین کا اصرار ہے کہ ”اس نے صیہون کے قلعہ پر قبضہ کر لیا اور پھر وہ شہر پناہ میں رہنے کے لئے چلا گیا۔۔۔“ (5) یشور کی کتاب میں یروشلم کو بیسیوں کی ایسی بستی کہا گیا ہے جو صیہون کے قلعہ کے پہلو میں واقع تھی۔ چنانچہ یشور کی کتاب کے مطابق یہ صیہون سے الگ بستی اور آبادی سمجھی جانی چاہیے۔ (6) اس کا مطلب ہے کہ (حضرت) داؤد نے یہوی قلعے (یا گڑھی) پر قبضہ کیا تھا جو محض ایک ”ملیٹری کوڈیتا“ تھا۔ بائبل یروشلم کے باشندوں کے قتل عام کو کوئی ذکر نہیں کرتی جب کہ یشور کی کتاب میں بھی ایسا ہی درج ہے، نہ ہی کوئی اس طرح کا اشارہ ملتا ہے کہ یروشلم کے یہوی باشندوں کو شہر بدر کر کے وہاں یہواہ کے ماننے والوں کو آباد کر دیا گیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ (حضرت) داؤد کی تسخیر محض ایک ”محلاٰتی سازش“ تھی جس میں انہوں نے اپنے چند قربی ساتھیوں کی مدد سے یہوی بادشاہ کو معزول کر دیا اور شہر اور اس کی آبادی کو محفوظ و مامون رکھا۔ آج ہم ان تمام امکانات کے بارے میں قیاس آرائی ہی کر سکتے ہیں لیکن جیسا کہ ہمارے سامنے آتا ہے۔۔۔ بائبل میں پہلی دفعہ یروشلم کا ذکر پڑھنے کو ملتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ شہر میں یہوی اور یوداہ قبیلہ کے لوگ شانہ بشانہ رہتے تھے۔

اس طرح (حضرت) داؤد جو فلسطیوں اور ایادیوں کے قتل عام کے لئے مشہور تھے یو شلم کے عادل اور حمدل فاتح بن کر سامنے آتے ہیں۔ انہوں نے نہ صرف شہر کے پرانے باشندوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا بلکہ ان کے ساتھ مل کر کام کیا اور انہیں اپنی انتظامیہ میں شامل کیا۔ یشواع نے اگر یو شلم فتح کیا ہوتا تو وہ یوسیوں کی قربان گاہوں کو مسما رکر دیتا اور ان کے مقدس مقامات کو رومند دیتا لیکن تاریخی شواہد بتاتے ہیں کہ (حضرت) داؤد نے مقامی لوگوں کے مذہب میں کوئی مداخلت نہ کی۔ اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ یوسیوں کے مذہبی نظریات اور عقائد کو یو شلم میں یہواہ کی عبادت میں داخل کر دیا گیا۔ ل (حضرت) داؤد^۲ کو دوسرا (حضرت) ابراہیم^۳ قرار دیتا ہے کیونکہ (حضرت) ابراہیم کی اولاد ایک طاقتور قوم بن گئی تھی اور کنعان کی سر زمین اسے وراثت میں مل گئی تھی۔ (۷) لیکن (حضرت) داؤد ایک اور وجہ سے بھی (حضرت) ابراہیم کے مشاہد تھے کہ انہوں نے ملک کے پرانے باشندوں کے مذہب کا احترام کیا۔ شہر داؤد میں یوسیوں اور اسرائیلیوں کے رسم و رواج کے درمیان ایک مشابی تال میل پیدا ہوا۔

اروناہ جو یوسیوں کا آخری بادشاہ تھا اسے شہر کی دیواروں کے باہر اور کوہ صیہون کے کناروں پر اپنی مملکت برقرار رکھنے کی اجازت دے دی گئی۔ (حضرت) داؤد نے پرانی یوسی انتظامیہ خود سنبحال لی۔ کنعان کی شہری ریاستیں وقت کے ساتھ ساتھ سیاسی اور اقتصادی امور کی ماہر ہو چکی تھیں لیکن یہوداہ اور اسرائیل کے کوہستانی قبائلیوں کو شہری ریاست چلانے کا نہ تو کوئی تجربہ تھا اور نہ مہارت۔ ان میں سے زیادہ تر غالباً ان پڑھ تھے۔ چنانچہ داشمندی اسی بات میں محسوس کی گئی کہ پرانا انتظام بحال رکھا جائے اور اس کے لئے یوسی حکام کو استعمال کیا جائے۔ صرف اسی طرح ممکن تھا کہ شہر کا انتظام با قاعدگی سے چلتا رہے اور (حضرت) داؤد کو اپنی یوسی رعایا کا اعتماد حاصل رہے۔ (حضرت) داؤد کا یو شلم میں طرزِ عمل نشاندہی کرتا ہے کہ اسرائیلی بھی ایسے اقدام کو مذہبی فریضہ نہیں سمجھتے تھے کہ ملک کے پرانے باشندوں سے خود کو الگ تحملگ رکھا جائے۔ بابل کو جلاوطنی کے بعد ایسا کرنا ضروری سمجھا گیا اور اسے اسرائیلیوں کا اصول بنادیا گیا۔ جب مصریوں نے کنunan پر قبضہ کیا تھا تو شاہزاد انہوں نے یہاں کے لوگوں کو اپنے انتظامی طریقے سکھا دیئے تھے۔ بابل میں ہم دیکھتے ہیں کہ (حضرت) داؤد اور (حضرت) سلیمان کے دربار بالکل مصریوں جیسے تھے۔ اس میں ایک وزیر عظم، خارجہ امور کا ایک سکرٹری، داخلی امور کا ایک مسل نویں اور ”بادشاہ کا ایک مصاحب“ ہوتا تھا۔ یو امر نادور کا نظام (حضرت) داؤد کے بیٹے (حضرت) سلیمان کے دور تک زیر عمل رہا۔ (حضرت) سلیمان کے کچھ حکام کے نام غیر سماںی تھے۔ (۸) حضرت داؤد نے تو تقریباً تمام تر یوسی فوج کو برقرار رکھ کر اپنے ماتحت کر لیا تھا۔ یہ سپاہی بابل کے مطابق فلیستی اور قریطی تھے۔ (حضرت) داؤد کے

ذاتی محافظ بھی یہی تھے۔ چنانچہ (حضرت) داؤد کے ہاتھوں شہر کی تسبیح کے بعد وہاں بہت معمولی انتشار پیدا ہوا اور اس کا یہوی شخص برقرار رہا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا نیا نام شہر داؤد زیادہ مقبول نہ ہوا۔ زیادہ تر لوگ اس کے پرانے نام یروشلم اور صیہون کا ہی استعمال کرتے رہے۔

یقیناً شاہی خاندان میں یہوی خون ہی دوڑ رہا ہوگا کیونکہ (حضرت) داؤد نے ایک یہوی عورت سے بھی شادی کی تھی۔ بعد میں یہ قانون سختی سے نافذ ہوا کہ اسرائیلی کسی غیر عورت سے شادی نہیں کر سکتا لیکن (حضرت) داؤد اور (حضرت) سلیمان کے ہاں ایسی اختیاط نظر نہیں آتی۔ (حضرت) داؤد نے بنت سبع (اریاہ طی کی یہوی) کو اپنے حرم میں داخل کر لیا تھا۔ اریاہ یہوی فوج کا ایک اعلیٰ افسر تھا۔ یاد رہے کہ یہوی طبیوں کے رشتہ دار تھے۔ کہا جاتا ہے کہ (حضرت) داؤد نے اریاہ کو مروانے کے لئے اسے عمونیوں کے خلاف لڑائی میں ایک خطرناک صورت حال سے دوچار کر دیا۔ بنت سبع کے لفظی معنی ہیں سات دیوتاؤں کی بیٹی۔ منجی رسم الحظ میں اسے ”سیبتی“، لکھا گیا لیکن عبرانی میں یہ شیوا یعنی ”سات“ بن گیا۔ (9) یوں (حضرت) داؤد اور بنت سبع کے ہاں پیدا ہونے والا بیٹا نیم یہوی اور نیم اسرائیلی تھا۔ ناتن نبی نے اسے خالص اسرائیلی نام دیدیا (یہواہ کا پیارا) دیا۔ یہ اس بات کی نشاندہی تھی کہ وہ (حضرت) داؤد کا وارث منتخب کر لیا گیا ہے۔ لیکن پھر اس کے والدین نے اس کا نام ”سلیمان“ رکھا۔ سلیمان کی نسبت سلیم یا شلیم سے تھی جو یروشلم کا پرانا دیوتا تھا۔ لیکن مورخ اس کا تعلق عبرانی شیلوم سے جوڑتے ہیں۔ بہر حال سلیمان کا مطلب ہے ”امن و سلامتی کا مرد“۔ (10)

یہودی روایات میں اہمیت رکھنے والے دیگر مشہور یروشلمی بھی یہوی تھے۔ ان میں سے ہی ایک نتن یا ناتن نبی تھے۔ (11) باABEL میں تقریباً سبھی انبیاء کے نسلی تعلق کا ذکر موجود ہے لیکن ناتن کا ذکر کسی کہیت یا جدی نام کے بغیر کیا گیا ہے۔ غالباً وہ یہوی بادشاہ کے مشیر تھے۔ اگر ایسا ہی تھا تو وہ (حضرت) داؤد اور ان کی نئی یہوی رعایا کے درمیان ایک مفید رابطہ تھے۔ اریاہ کی موت کے بعد ناتن نے (حضرت) داؤد کو بہت سرزنش کی۔ صرف اس لئے نہیں کہ انہوں نے (حضرت) موسیٰ کی شریعت کی خلاف ورزی کی تھی بلکہ اس لئے کہ انہوں نے اپنے اختیار کا غیر موزوں استعمال کیا تھا۔ مشرق قریب کی کسی بھی بادشاہت میں اختیارات کے ناموزوں استعمال پر بادشاہ کو قابل گرفت سمجھا جاتا تھا کیونکہ بادشاہ نے عدل و انصاف قائم کرنے کا عہد کر رکھا ہتا تھا۔ اریاہ کی موت پر (حضرت) داؤد کے یوسیوں کے ساتھ تعلقات پر بھی برا اثر پڑا ہوگا۔ یروشلم کا کاہن عظم ”صدق“ بھی یہوی ہی ہوگا۔ تا ہم یہ بات ماضی میں بہت متنازع عذر ہی ہے۔ (12) بعد میں اسرائیل کے تمام کاہنوں کو ثابت کرنا پڑتا تھا کہ وہ صدق کی اولاد ہیں کیونکہ صدق یہودی

صداقت کی علامت بن گیا تھا۔ لیکن صدقہ بہر حال ایک یبوسی نام ہے۔ بعد میں ”مورخ“ اسے ایک مکمل شجرہ دیتا ہے اور اس کا تعلق (حضرت) ہارون سے قائم کرتا ہے، لیکن یہ شجرہ (حضرت) داؤ داور (حضرت) ہارون کے درمیان موجود جدی واسطوں یا کڑیوں سے پانچ کڑیاں لمبا ہے۔ (حضرت) داؤ داور (حضرت) ہارون کے درمیانی نسبی تعلق میں پانچ کڑیاں غائب ہیں۔ (13) شائد مورخ (بائل کے توارثی نگار) نے صدقہ کے یبوسی اجداد کو بھی اس شجرہ میں شامل کر دیا تھا۔ ایل علیون کے کامن اعظم کو بر طرف کرنے کے لئے مقامی لوگوں کو جنپی قرار دے دیا گیا۔ اور پھر اسرائیلوں کو مطمئن کرنے کے لئے قدیم کا ہن شیلیوں کی اولاد میں سے ابیاتر کو صدقہ کے ساتھ خدمات سرانجام دینے پر مقرر کیا گیا۔ لیکن ابیاتر (حضرت) داؤ دکی وفات کے بعد زیادہ عرصہ زندہ نہ رہا۔ چنانچہ صدقہ ایک بار پھر یرو شلم کا اکلوتا کا ہن اعظم بن گیا۔ لیکن ایک یبوسی کا ہن کے ساتھ ایک اسرائیلی کا ہن کو بیک وقت مذہبی رسوم ادا کرنے کا موقعہ دینا یقیناً (حضرت) داؤ دکی طرف سے یرو شلم میں بقاء بآہمی کے تصور کو فروغ دینے کا اقدام تھا۔ وہ ایسی روایات قائم کرنا چاہتے تھے جن کے نتیجہ میں ان کی مملکت میں اتحاد پیدا ہو اور مختلف عناصر میں وحدت آجائے۔ (حضرت) داؤ دا نے بیٹوں میں سے ایک کو بعلیہ کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ مقامی صیہونی روایات کے لئے تنگ نظر نہ تھے۔ یہی وجہ ہے کہ کوہ صیہون پر سرانجام دی جانے والی پرانی یبوسی مذہبی رسوم کو یرو شلم میں یہواہ کی رسوم میں مدغم کر دیا گیا تھا۔

حضرت داؤ د کے سامنے سب سے پہلا کام عہد نامے کے صندوق (تابوت یہواہ) کو یرو شلم منتقل کرنا تھا جو بھی تک ان کی سلطنت کی مغربی سرحد کی ایک مقام قریت جرم میں رکھا ہوا تھا۔ یہ اقدام اگرچہ نہایت خطرناک تھا لیکن پوری قوم میں روح پھونکنے والا تھا۔ شمالی ریاست کے لوگ جو بھی تک (حضرت) داؤ د سے مطمئن نہ تھے وہ صندوق کی موجودگی سے مطمئن ہو سکتے تھے۔ صندوق سے وابستہ مقدس رسوم شہر کوئی حیثیت دے سکتی تھیں۔ اس طرح حکمرانی کو قانونی حیثیت مل جاتی اور شہر کو مذہبی تقدیم۔ ورنہ یہواہ کی عبادت کرنے والے اسرائیلوں کے لئے یرو شلم کوئی مذہبی اہمیت نہیں رکھتا تھا۔ صندوق کو منتقل کرنے کی (حضرت) داؤ د کی پہلی کوشش المناک انجام سے دوچار ہو گئی۔ کسی مقدس مقام کا قیام انسانوں کی اپنی مرضی پر محصر نہیں ہوتا۔ مقام کا قدس ہمیشہ منتشف ہوتا ہے۔ ماضی میں یہواہ ایک حرکت پذیر یوتا یا خدا کی حیثیت سے سامنے آچکا تھا لیکن اسے کسی بادشاہ کی مرضی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں لے جایا جا سکتا تھا۔ کوئی بھی مقدس چیز جو ہری طور پر بہت خطرناک ہوتی ہے اور صرف ان لوگوں کو اس کے پاس جانا چاہیے جو ضروری احتیاط سے آگاہ ہوتے ہیں۔ چنانچہ یہی ہوا کہ جب صندوق کو پہلی مرتبہ لے جایا جا رہا تھا تو

دوران سفر ایک خادم عزہ نے اسے رتح سے گرنے سے بچانے کے لئے اپنا ہاتھ لگا دیا۔ یہ عمل نہایت مہلک ثابت ہوا۔ عزہ وہیں گر کر ہلاک ہو گیا۔ صندوق یہواہ کی موجودگی کی علامت تھا اور اس حادثے سے ظاہر ہو گیا کہ (حضرت) داؤد محض ایک مقدس یادگار کو اپنے شہر میں لے جانے کی کوشش نہیں کر رہے بلکہ ایک طاق تو را اور ناقابل تصور قوت کو دوسرا جگہ منتقل کرنا چاہتے ہیں۔ اس کا ایک ہی مطلب تھا کہ اگر یہواہ صیہون میں آ کر رہے گا تو صرف اور صرف اپنی مرضی سے اور صرف اس وقت جب وہ صیہون کو اس کام کے لئے منتخب کر لے گا۔

تین ماہ بعد (حضرت) داؤد نے ایک اور کوشش کی۔ اس دفعہ یہواہ نے صندوق کو یو شلم کے علاقہ میں داخل ہونے کی اجازت دے دی اور کوئی ناخوشنگوار واقعہ رونما نہ ہوا۔ (حضرت) داؤد علیہ السلام صندوق کے آگے ایک کاہن کی طرح مختصر سوتی لباس میں ناچتے اور جھو مت ہوئے چلتے رہے۔ راستے میں وہ وقٹے و قٹے سے صندوق کے ملبوس کو روک دیتے اور ایک بھیڑ اور ایک بکری کی قربانی دیتے۔ بلا آخر صندوق اس شامیانے کے معبد میں پہنچا دیا گیا جو جیہوں چشمے کے پاس بنایا گیا تھا۔ ایک عظیم الشان تقریب منعقد ہوئی اور خوشی منانی گئی۔ (14) شہر داؤد کو رائش کے قابل سمجھنے کا شکون یہواہ نے عافیت کے ساتھ صندوق کی منتقلی کی صورت میں دے دیا تھا۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی تھا کہ یہواہ نے (حضرت) داؤد کو اسرائیل کے بادشاہ کی حیثیت سے منتخب کر لیا ہے۔ اسرائیلوں کو یقین ہو گیا کہ یہواہ نے (حضرت) داؤد کو اسرائیل کے بادشاہ کی حیثیت سے منتخب کر لیا ہے۔ (حضرت) داؤد نے فیصلہ کیا کہ یہواہ کے لئے یو شلم میں ایک معبد تعمیر کیا جائے گا۔ جب انہوں نے اپنے ارادے کا اظہار ناتن نبی سے کیا تو وہ بہت خوش ہوئے۔

(نقشہ) MAP

مشرق قریب میں ہر بادشاہ کے لئے یہ بات ہمیشہ ضروری رہی ہے کہ وہ اس خدا کا ایک گھر تعمیر کرے جس پر ان کی اقتدار کا انحصار ہوتا ہے۔ لیکن یہواہ کے ارادے کچھ اور تھے۔ اس نے ناتن نبی کو بتایا کہ۔ ”اس نے ہمیشہ ایک خانہ بدوش کی طرح شامیانے میں زندگی گزاری ہے۔ وہ اپنے لئے کوئی گھر نہیں چاہتا۔ اس کے برعکس وہ (حضرت) داؤد کے لئے اور اس کی نسل کے بادشاہوں کے لئے ایک گھر بنائے گا جو ہمیشہ ہمیشہ قائم رہے گا۔“ (15)

ناتن نبی کو خوف لاحق ہوا کہ یروشلم میں ایل علیون دیوتا کو ہٹا کر وہاں ایک غیر مقامی دیوتا کا معبد تعمیر کرنا (حضرت) داؤد کی طرف سے جلد بازی کا اقدام ہوگا کیونکہ یروشلم ابھی تک ایک یہودی شہر تھا۔ ممکن ہے (حضرت) داؤد نے شہر کی دیواروں کے باہر جیہوں چشمہ کے پاس جو جگہ معبد کے لئے منتخب کی تھی وہ یہودیوں کے نکتہ نظر سے مناسب نہ تھی یا پھر اسرائیل اور یہودا کے قبائل ہی اس بات کے خلاف تھے کیونکہ وہ یہودا کی خانہ بدوثی کے عادی ہو چکے تھے اور کنغان کے دوسرا دیوتاؤں کی طرح یہودا کو کسی ایک مقام پر مستقل طور پر رکھنے سے ہچکچا رہے تھے۔ ہو سکتا ہے لوگ اس ممکنہ طاقت سے خوف زدہ ہو گئے ہوں جو معبد کی تعمیر سے (حضرت) داؤد کو حاصل ہو جاتی۔ لیکن جو بھی سبب تھا نتیجہ یہ نکلا کہ (حضرت) داؤد اپنے خدا کا گھر تعمیر کرنے میں ناکام رہے۔ بابل کے مصنفین نے شاید اسی لئے یہودا کی طرف سے معبد کی تعمیر کے خیال کو مسترد کرنے کی داستان شامل کر دی کیونکہ وہ اپنے مثالی بادشاہ کی اس ناکامی سے پریشان تھے۔ مورخ (بابل کی کتاب تواریخ) کا خیال ہے کہ (حضرت) داؤد کو اس اعلیٰ تر اعزاز سے اس لئے محروم رکھا گیا کیونکہ اس نے بہت زیادہ قتل عام کیا تھا اور اس کی بجائے (حضرت) سلیمان کو اس لئے یہ سعادت نصیب ہوئی کیونکہ وہ ”ایک مرد امن“ تھا۔ (16) ہم دیکھ چکے ہیں کہ قدیم دنیا میں عمارت کو ایک مذہبی اہمیت حاصل ہوتی تھی۔ چنانچہ (حضرت) داؤد نے یروشلم میں متعدد تعمیراتی کام کئے جو ایک بادشاہ کی حیثیت سے ان کے شایان شان تھے۔ انہوں نے بذات خود دیوار کی لکڑی سے ایک محل تعمیر کیا جو لبنان سے لائی گئی تھی۔ انہوں نے ”ملو“ کی مرمت کی جو بابل کے مصنفین کے لئے ایک معتمد ہے لیکن اس سے مراد غالباً اوپل کی قدیم مہتابی یا چبوترہ تھا۔ انہوں نے ”داؤد کا مینار“ بھی تعمیر کیا۔ یہ دراصل ایک گڑھی یا چھوٹا قلعہ تھا۔ ملاز میں، ہنرمندوں اور سپاہیوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر انہوں نے شہر کو وسعت دی اور ایسا کرنے کے لئے ایک سمت کی دیوار بھی توڑ دی گئی۔ لیکن جس طرح (حضرت) موسیٰ نے اپنی قوم کو مصر سے نکالنے کے لئے رہنمائی اور ارض موعودہ کا سفر اختیار لیکن ارض موعودہ کی دلیل پر انتقال کر گئے اسی طرح (حضرت) داؤد نے یہودا کی قوم کو یروشلم میں داخل ہونے کے لئے قیادت فراہم کی لیکن انہیں معبد تعمیر کرنے کا موقع نہ مل سکا جو یہودیوں کے اس شہر کو یہودی دنیا کا مقدس ترین مقام بنانے کا سبب بنا۔

(نقشہ) MAP

عیدُجح (عیدِ گزرائی) کے موقع پر یہودی خاندان مقبوضہ عرب علاقے میں جانا سعادت سمجھتے ہیں۔

اس حوالے سے (حضرت) داؤد کم از کم یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے اروناہ سے زمین خرید لی۔ وہ غالباً یوسیوں کا آخری بادشاہ تھا۔ یہ میں اگرچہ قربان گاہ کے لئے خرید لی گئی لیکن بعد میں اسی پر معبد سلیمانی تعمیر ہوا۔ مصنفین ہمیں بتاتے ہیں کہ (حضرت) داؤد سے ایک غلطی ہوئی۔ انہوں نے مردم شماری کا حکم دے دیا۔ الگ ہمیشہ ہی اسے ناپسندیدہ اقدام قرار دیا کرتے تھے۔ کیونکہ اس کا مطلب ہوتا تھا کہ اب بادشاہ نئے ٹیکسوس اور جری مشقت کا بھی حکم دے گا۔ خدا کو بھی یہ بات پسند نہ آئی اور اس نے سزا کے طور پر ملک پر طاعون کی وبا نازل کر دی جس نے صرف تین دنوں میں ستر ہزار آدمی ہلاک کر دیئے۔ (حضرت) داؤد نے دیکھا کہ یہواہ کا فرشتہ اروناہ کے کھلیان میں کوہ صیہون پر کھڑا ہے اور اس نے نیچے شہر کی طرف اپنا بازو پھیلا رکھا ہے۔ (حضرت) داؤد طاعون کی وبا کو روکنے میں اس طرح کامیاب ہوئے کہ انہوں نے قربان گاہ بنانے کا اعلان کیا۔ (حضرت) داؤد کے دربار میں موجود ایک برگزیدہ شخص نے کہا کہ جس جگہ فرشتہ دکھائی دیا ہے وہاں یہواہ کے لیے قربان گاہ بنائی جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور پھر وبا رخصت ہو گئی۔ بابل کے مصنفین بتاتے ہیں کہ اس بحران کے دوران اروناہ بادشاہ نے (حضرت) داؤد کے ساتھ مل کر بہت کام کیا۔ (حضرت) داؤد کا اروناہ سے زمین خریدنا اس واقعہ سے مشاہدہ ہے جس میں (حضرت) ابراہیم نے عفرون حلی سے میکفیلہ کا غار خریدا تھا۔ عفرون کی طرح اروناہ بھی اپنی زمین بلا قیمت دینا چاہتا تھا لیکن (حضرت) داؤد جو بڑی آسانی سے اس جگہ پر قبضہ کر سکتے تھے انہوں نے قابل تعریف طرز عمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے زمین کے سابقہ مالک کو پوری قیمت ادا کی۔ (17) تاریخ دانوں کا خیال ہے کہ مذکورہ جگہ پہلے سے یو شلم کے یوسیوں کا کوئی مقدس مقام ہو گی کیونکہ کنعان میں کھلیانوں کو عام طور پر عوامی اجتماعات کے لئے استعمال کیا جاتا تھا یا پھر ان میں بعل دیوتا سے منسوب زرخیزی کی مذہبی رسومات سرانجام دی جاتی تھیں۔ اروناہ کا کھلیان چونکہ یو شلم شہر کے دروازے کے پاس اوپھی جگہ پر تھا اس لئے یقیناً یہ بھی مذہبی رسومات کے لئے وقف رہا ہوگا۔ (18) لیکن بابل کے مصنفین اس بات کا ذکر نہیں کرتے۔ شاید اس لئے کہ ان کی نظر میں ایسی زمین مقدس معبد کے لئے موزوں نہیں ہو سکتی جو کافرانہ رسومات کے لئے اعتمال ہوتی رہی تھی۔ اروناہ نے کھلیان کی خریداری کی بات پر کسی بہمی کا اظہار کرنے کی بجائے یہاں مقدس مقام بنانے کے اقدام میں پوری طرح شریک ہونے کی پیش کش کی اور پھر اس نئی قربان گاہ پر پہلی قربانی کے لئے نذرانہ بھی دیا۔ دراصل کسی جگہ کا تقدس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو انسانی ملکیت یا قبضہ میں شمار کی جاسکے۔ فرشتہ نظر آنا اس بات کی

دلیل تھی کہ یہ جگہ مقدس ہے اور خدا سے تعلق رکھتی ہے اور آنے والی نسلیں جو (حضرت) داؤد اور ارونہ کی اولاد میں ہوں گی مل کر یہاں عبادت کیا کریں گی۔

کہا جاتا ہے کہ (حضرت) داؤد نے مجوزہ معبد کے لئے سامان بھی اکٹھا کر لیا تھا۔ الصور کا بادشاہ حیرم ان کا حیف تھا۔ دیودار کی لکڑی اور صنوبر کے تیل کے لئے اسے پیغام بھجوایا گیا۔ تو ارتخ نگار بالخصوص اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا کہ (حضرت) داؤد کے بارے میں کہا جائے کہ انہوں نے معبد کی تعمیر میں خود کوئی حصہ نہیں لیا تھا۔ وہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہوا نے (حضرت) داؤد کو مجوزہ معبد کی تعمیر کے سلسلہ میں پوری تفصیلات سے آگاہ کر دیا تھا جو انہوں نے اپنے بیٹے سلیمان کو بتا دی تھیں۔ (19) کیونکہ معبد صرف انہی خطوط پر تعمیر ہو سکتا تھا جن کی نشاندہی خود یہوا نے اپنے ہاتھ سے لکھے حکم میں کر دی تھی۔ (20) ویسے بھی ایک بادشاہ کسی معبد کے لئے اپنی پسند کی جگہ کا انتخاب نہیں کر سکتا تھا۔ اسے صرف اسی مقام پر تعمیر ہونا تھا جسے دنیا کے مرکز میں سے ایک کے طور پر منکشف کیا گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ قدیم دنیا کے بادشاہوں نے سابقہ معبدوں کے لئے وہی مقامات منتخب کئے جہاں سے لوگوں کے لئے خدا یاد یوتا سے رابطہ اور رسائی ممکن ہوتی تھی۔ اسی طرح جب کوئی معمار کوئی نیا معبد ڈیزاں کرتا تو یہ اس کی اختراع نہیں بلکہ خدائی رابطے کے مقام کا محض ایک "سمبل" ہوتا تھا۔ یونانی زبان سے یہ لفظ اخذ کیا گیا ہے اور اس کا مطلب ہے کہ دو چیزیں بہم کر دی گئی ہیں۔ قدیم دنیا میں بہم ہونے یا وصال ہونے کا تصور بہت اہم تھا۔ قدیم مذاہب کی بنیاد بھی یہی تھی۔ ایک معبد خدا کے آسمانی گھر کی نقل ہوتا تھا۔ یہی شبیہ آسمانی فن تعمیر اور زمین پر اس کی نقل کے درمیان تعلق پیدا کرتی تھی۔ اور دو کو مخصوص معنوں میں ایک کرتی تھی۔ اسی قریبی مشاہدت نے دیوتاؤں کے لئے یہ ممکن بنایا تھا کہ وہ زمینی معبدوں میں بھی اسی طرح رہیں جس طرح وہ آسمانی جگہوں پر رہتے ہیں۔ چنانچہ ایک معبد کا نقشہ بھی خدا خود مہیا کرتا تھا جیسا کہ (حضرت) داؤد پر منکشف کیا گیا۔ اس کا مقصد بھی یہ تھا کہ زمین پر خدا کے گھر کے خدو خال اور ترین میں و آرائش آسمان پر خدا کے گھر کی پوری پوری نقل ہوں۔

MAP (نقشہ)

لیکن اس سارے معاملے کا ایک سیاسی پہلو بھی تھا۔ صندوق کو یو شلم میں لانے کے بعد (حضرت) داؤد شہر کو بدرجہ اپنے مکمل قبضہ و تصرف میں لا رہے تھے۔ سب سے پہلے وہ اپنے لوگوں کی انتہائی متبرک چیز کو اوفیل کی ترائی میں لائے اور پھر ارونہ کا کھلیان خرید کروہ کوہ صیہون پر اپنے مجوزہ معبد میں یہواہ کی مستقل تخت نشینی کی راہ ہموار کر رہے تھے۔ (حضرت) سلیمان کے دور حکومت میں یہواہ یو شلم کا ایل علیون یعنی ایک سب سے بڑا خدا بن گیا۔ یوں (حضرت) داؤد قدم بقدم اپنے لئے ایک چھوٹی سی سلطنت تعمیر کر رہے تھے۔ سب سے پہلے انہوں نے فلستیوں کو زیر کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ انہیں یو شلم کی تسبیح سے پہلے وادی رفائیم میں شکست دے سکتے تھے لیکن انہوں نے ایسا بعد میں کیا۔ کسی مرحلے پر انہوں نے کنعان کی دوسری شہری ریاستوں کو بھی اپنی قلمرو میں داخل کر لیا ہو گیا لیکن بابل اس کا ذکر نہیں کرتی۔ ان ریاستوں نے باج گذار کی حیثیت قبول کر لی ہوگی۔ آخر میں انہوں نے پڑوی مملکتوں مواب اور ادوم کو تسبیح کرنے کے علاوہ شام کا کافی علاقہ زیر نگیں کر لیا۔ اسرائیل (حضرت) داؤد کی سلطنت کو آج تک نہیں بھول سکے کیونکہ پھر وہ کبھی سیاسی طور پر اتنے طاقتور نہیں ہو سکے۔ لیکن (حضرت) داؤد کی سلطنت کا تذکرہ مشرق قریب کے کسی اور ریکارڈ میں نہیں ملتا۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگ اسے بنی اسرائیل کے بزرگان دین کی کہانیوں کی طرح محض ایک افسانہ قرار دیتے ہیں۔ لیکن مذہبی مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ کہتے ہیں کہ اسرائیل اور یہواہ ریاستوں پر مشتمل ایک متحده سلطنت حقیقت میں موجود تھی۔ اس دور کے مشرق قریب میں پائی جانے والی سیاسی، اقتصادی اور تجارتی صورت حال کی تفصیلات کا ذکر بابل کرتی ہے جو (حضرت) داؤد کی سلطنت کو مشکوک بناتی ہیں لیکن مصر اور میسروپیمیا دونوں زوال کا شکار تھے۔ وہ اپنے داخلی مسائل میں اس طرح الجھے ہو یہے تھے۔ کہ (حضرت) داؤد کی سلطنت کے ساتھ ان کا کوئی رابطہ ہی نہیں رہا ہوگا۔ علاوہ ازیں بابل اس سلطنت کو مثالی نہیں سمجھتی۔ چمکتے دکتے تذکرے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی پڑھنے کو ملتا ہے کہ یہ قوم خود بری طرح تقسیم تھی۔ اپنے وسائل سے تجاوز کر رہی تھی۔ اور یوں تیزی سے بحران کی طرف گامزن تھی۔

(حضرت) داؤد کو بعد از مرگ ہیرو تو کہا جا سکتا ہے لیکن اپنی زندگی میں وہ زیادہ ہر دل عزیز نہیں تھے۔ ان کے بیٹے ابی سلوم نے ان کے خلاف بغاوت کر دی۔ چشمہ عین راجل پر اس نے اپنے لئے

ایک یادگار بنائی۔ اس مقام پر یبوی بادشاہ مذہبی رسوم ادا کرتے تھے۔ حبرون میں جا کر اس نے اسرائیل اور یہوداہ کا بادشاہ ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ صورت حال اتنی نازک ہو گئی کہ (حضرت) داؤد کو ریو شلم سے نکل کر بغاوت کو دبانا پڑا۔ اس بغاوت کو عویٰ حمایت بھی حاصل تھی (حضرت) داؤد اپنی اعلیٰ تر عسکری صلاحیت کی بدولت اس خلفشار کو ختم کرنے میں کامیاب ہوئے۔ اسرائیل اور یہوداہ کی ریاستوں کے درمیان اتحاد بھی بہت ڈھیلا ڈھالا تھا۔ چونکہ (حضرت) داؤد اپنی ریاست یہوداہ کی طرف زیادہ مائل تھے اس لئے اسرائیل کے ساتھ اتحاد ہر وقت ٹوٹنے کے خطرے سے دو چار رہتا تھا۔ ابی سلوم کی شورش کے بعد پوری اسرائیلی ریاست متحده سلطنت سے الگ ہو گئی اور (حضرت) داؤد کو ایک بار پھر طاقت کا استعمال کرنا پڑا۔ ان کی زندگی کے آخر لمحوں میں ریو شلم میں، یبوسیوں اور اسرائیلیوں کے درمیان پھوٹ پڑ چکی تھی۔ جب (حضرت) داؤد بستر مرگ پر تھتوں کے زندہ نجح رہنے والے بڑے بیٹے ادونیاہ نے عین راجل کے مقام پر خود ہی اپنی تاج پوشی کر لی اور بادشاہ بن بیٹھا۔ حبرون کے کاہن ابی یاتر اور سپہ سالار یوآب نے بھی اس کی حمایت کر دی۔ یبوی گروہ نے (حضرت) داؤد کی حمایت حاصل کرنے کے بعد جوابی کارروائی کی۔ ناقن، صدق و اور بت سبع نے قریطیوں اور فلیتیوں پر مشتمل پرانی یبوی فوج کی مدد سے (حضرت) سلیمان کو چشمہ جھوٹ کے پاس یہوداہ کے معبد پر بادشاہ بنایا اور ان کی تاجپوشی کے لئے بہت بڑی تقریب منعقد کی۔ ادونیاہ نے جلد ہی ہتھیار ڈال دیئے۔ اسے یوآب کے ساتھ پھانسی دے دی گئی۔ جبکہ ابی یاتر کو کاھن کے منصب سے معزول کر دیا گیا۔ جب (حضرت) داؤد کا انتقال ہوا تو یبوی گروہ ریو شلم میں نئے حکمرانوں کی آمد پر اظہار مسرت کر رہا تھا۔

(حضرت) داؤد کے دور حکومت میں ریو شلم کنغان کی چھوٹی سی شہری ریاست کی بجائے ایک سلطنت کا دار الحکومت بن گیا۔ (حضرت) سلیمان کے دور حکومت میں جو 970 ق م میں شروع ہوا، ریو شلم نے علاقائی طاقت کا درجہ حاصل کر لیا اور اس کی سلطنت کے جنم میں دو گنا اضافہ ہو گیا۔ (حضرت) سلیمان کے حرم میں بہت بڑی تعداد میں شہزادیاں تھیں۔ جو حلیف یا ماتحت بادشاہوں کی بیٹیاں تھیں۔ (حضرت) سلیمان نے ایک فرعون کی بیٹی سے شادی کر کے خصوصی شہرت پائی۔ سلطنت کے پاس اب ان گنت رخوں کی فوج تھی۔ رہاں زمانے کا جدید ترین عسکری اور حرбی ذریعہ تھا۔ خلیج عقبہ میں ایک بہت بڑا بحری یہٹہ تھا۔ (حضرت) سلیمان، عسکری تاجر بن گئے۔ اور مصر اور صلیقیہ کے ساتھ رخوں اور گھوڑوں کی تجارت کرنے لگے۔ بابل بتاتی ہے کہ سبا (موجودہ یمن) کی ملکہ (حضرت) سلیمان کی داشمندی کی شہرت سے متاثر ہو کر ان سے ملنے کے لئے آئی۔

یہ کہانی (حضرت) سلیمان کی بادشاہت کی بڑھتی ہوئی اہمیت کی عکاسی کرتی ہے۔ اگر انہوں نے بحر احمر میں تجارت شروع کر دی تھی تو اس سیقیناً سب کی معيشت متاثر ہوئی ہوگی۔ (حضرت) سلیمان کو افسانوی حیثیت حاصل ہوئی۔ ان کی دولت اور دانشمندی دونوں حیرت انگیز حد تک وافر کی جاتی ہیں۔ انہوں نے ایک لاک بادشاہ کی شہرت پائی جس نے بہت زیادہ کامیابیاں حاصل کیں۔ انہوں نے ایک عظیم الشان تعمیراتی منصوبہ شروع کیا جس میں پرانے قلعہ بند شہروں حجر، مجد و اور عرادہ شامل تھے۔

یو شلم (حضرت) سلیمان کے دور میں عروس البلاد اور ان کے عظیم الشان تعمیراتی منصوبے کی بھر پور جھلک بن گیا۔ شہر کو جنوب کی طرف وسعت دیتے ہوئے انہوں نے کوہ صیہون کے کنارے پر ایک شاہی گڑھی تعمیر کی۔ اس مقام پر پہلے ارونہا کی شاہی عمارت تھیں۔ نئی گڑھی یا بالا حصہ رکھنے والے باہل باتی ہے وہ دسویں صدی ق م کی ان گڑھیوں جیسا تھا جو شام اور میسون پوٹیما کی کھدائی کے دوران مختلف مقامات پر دریافت ہو چکی ہیں۔ اس گڑھی میں یہواہ کا ایک معبد اور بادشاہ کے لئے ایک محل تھا۔ (21) یہاں کچھ اور عمارتیں بھی بنائی گئی تھیں۔ دیوار کے ستونوں والا ایک مکان جس کا استعمال ہم پر واضح نہیں۔ ایک عمارت خزانے کے لئے، ایک بہت بڑا کمرہ عدالت جس میں (حضرت) سلیمان کا شاندار تخت رکھا تھا جو ہاتھی دانت کا بنا ہوا تھا۔ ان سب کے علاوہ ایک خصوصی محل تھا جو فرعون کی بیٹی کے لئے بنایا گیا تھا۔ (حضرت) سلیمان کی یہ بیوی تمام بیویوں میں ممتاز، معروف اور حسین و جمیل تھی۔

ان تمام عمارتوں میں سے کسی کا بھی اب نام و نشان موجود نہیں۔ معبد جوان عمارتوں میں سے سب سے زیادہ اہم تھا اس کے بارے میں بھی ہمارا علم صرف باہل کے متن تک محدود ہے۔ یہ معبد یہواہ کے لئے وقف تھا اور تابوت یہواہ (عہد نامے کا صندوق) اسی میں رکھا گیا تھا۔ مشرق قریب کے معبدوں کے برعکس اس میں کوئی ایسی شبیہ یا صورت نہیں تھی جو معبد کے دیوتا کی موجودگی کا عالمتی اظہار ہوتی تھی۔ دراصل کوہ سینا پر جب یہواہ (حضرت) موسیٰ پر ظاہر ہوا تھا تو اس نے ہدایت کر دی تھی کہ اسے انسانی شبیہ میں نہ پیش کیا جائے۔ چنانچہ یہواہ کے مذہب میں مورتیاں اور بنت شمل نہ ہوئے۔ لیکن (حضرت) سلیمان کے تعمیر کردہ معبد میں باقی سب کچھ وہی تھا جو اس دور کے شامی اور کنعانی معبدوں میں ہوتا تھا۔ اس کا طرز تعمیر اور نقشہ بھی شامی اور کنunanی معبدوں جیسا تھا۔ اسی کی تعمیر غالباً اصول کے ہنرمندوں کے ہاتھوں ہوئی اس لئے لگتا ہے کہ یہ شامی شاہی طرز تعمیر کا مخصوص نمونہ تھا۔ (22) عام عبادت گزار معبد کی عمارت میں داخل نہیں ہوتے تھے۔ قربانیاں یہ ورنی احاطہ میں ہی پیش کی جاتی تھیں۔ عبادت گاہ بذات خود بہت چھوٹی اور تین حصوں پر مشتمل تھی۔ مغربی سمت میں ڈیوڑھی (اولاد) اس کے آگے ہیکل اور پھر زینے سے کچھ اوپر دیور

(خانہ اقدس)۔۔ یہاں صندوق کو رکھا گیا تھا جو نیلے، قرمزی اور ارغوانی رنگ کے سوتی پر دوں سیڈھا ہوا تھا۔(23) معبد فرنجپر ظاہر کرتا ہے کہ یو شلم کے یہودی مذہب نے مشرق قریب کے روحاںی مزانج کی بھر بھر پر تسلیم کا اہتمام کر رکھا تھا۔ صندوق کے علاوہ وہاں خروج کی علامت کے طور پر کوئی چیز نہیں تھی۔ بابل بتاتی ہے کہ ہیکل میں دو بڑے طلائی شمعدان تھے ان کے ساتھ سونے کی ایک میز تھی جس پر نذر کی روٹیاں رکھی جاتی تھیں دیوالار کے بنے بخور دان پر سونے کے پترے چڑھے تھے۔ کانسی کا بنا ایک سانپ نما عصا بھی تھا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ (حضرت) موسیٰ اس سے طاعون کے مریضوں کا علاج کیا کرتے تھے۔ لیکن ایسا لگتا ہے کہ یہ قدیم یہودی مذہبی رسم سے تعلق رکھتا تھا۔(24) اولام یعنی ڈیوڑھی کے داخلہ پر کھلے ستون ایستادہ تھے۔ دائیں ستون کا نام ”یاکن“ اور بائیں کا بوعز تھا۔(25) کھلے حن میں پیتل کا ایک مذبح اور ایک بہت بڑا حوض تھا۔ اس کے نیچے بیلوں کی بارہ مورتیاں تھیں۔ یہ ”یم“ اور ابتدائی سمندر کی علامت تھے۔ معبد کی دیواریں اندر اور باہر دونوں طرف نقش و نگار سے مزین تھیں۔ ان پر فرشتوں، کھجور کے درختوں اور پھولوں کی تصاویر کنده تھیں(26) یہ کنده کاری شامی اثرات کو ظاہر کرتی ہے۔ پیتل کا حوض شام کے بعل دیوتا کی یم۔ نہر عفریت سے لڑائی کی یاد دلاتا ہے۔ بیل کو زرخیزی اور الوہیت کا نشان سمجھا جاتا تھا۔ جب کہ یا کین اور بوعز نامی ستون کنعان کے کھڑے پھرول (ماتزیوات) کی نقل تھے۔ بابل میں عبرانی تقویم کی بجائے کنعانی تقویم کے ذکر کے ساتھ معبد کی تعمیر کی تفصیلات دی گئی ہیں۔ کنunanی تقویم کے جس مہینے میں تعمیر شروع ہوئی وہ ”ایتحا یم“ (ستمبر اکتوبر) تھا۔ اسی مہینے میں بعل دیوتا کا موسم خزاں کا ”میلہ“ منعقد ہوتا تھا۔ یہ میلہ بعل دیوتا کی ”مات“ پر فتح اور کوہ زیفون پر تخت نشینی کی یاد میں منعقد ہوتا تھا۔ اسرائیلی روایات میں یہ میلہ ”سکوٹھ“ (مظله) کے نام سے منایا جاتا تھا۔ اگرچہ یہ ہوا فصل انگور سے موسم تھا لیکن بعد میں اسے ”خروج“ کے واقعہ سے منسوب کر دیا گیا۔

معبد سلیمان

(نقشہ) MAP

www.HallaGulla.com

1 -	دیور	7 - (تابوت یہواہ (صدوق))
2 -	بیکل (عبادت گاہ)	8 - کروپیاں (فرشتوں کے مجسے)
3 -	اولام (ڈیوبھی)	9 - شمع دان
4 -	حجرے	10 - بخوردان
5 -	یاکن اور بوعزستون	11 - بارہ روٹیوں کی میز
6 -	چکردار زینہ	

لیکن معبد بہر طور ”کافرانہ“ شبیہوں سے لبریز ہونے کے باوجود اسرائیل کا انہائی متبرک مقام تھا۔ کچھ انبیاء اور مصلحین اس بات سے ناخوش تھے اور چاہتے تھے کہ لوگ واپس اس خالص مذہب کی طرف لوٹ جائیں جو خرونج کے بعد انہیں عطا کیا گیا تھا۔ لیکن لوگ راستِ العقیدہ ہو چکے تھے۔ اور جب معبد سلیمانی کو بنو کر نظر نے تاراج کیا تو اسرائیلیوں کی اکثریت سمجھتی تھی کہ ان کی دنیا انجام کو پہنچ گئی ہے۔ اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں کیونکہ زیادہ تر لوگ کنعانی اور شامی دیو مالا کی علامتوں کو تابوت یہواہ اور خرونج کے مذہب کے مطابق خیال کرتے تھے۔ دراصل خرونج کی کہانیاں بعل دیوتا اور مردوک کی قدیم دیو مالائی کہانیوں میں تبدیل ہو چکی تھیں۔ اگر ہم ”خرونج“ کی کہانی کو محض تاریخی واقعہ کی نظر سے دیکھیں تو یہ ”سپا“ واقعہ تھا جب کہ بعل دیوتا کی یہم۔ نہر عفتریت سے اڑائی محض ایک افسانہ ہے چنانچہ ”جھوٹا“، واقعہ تھا۔ لیکن اگر ہم خرونج کے واقعات کے داخلی معنوں کو دیکھیں اور اس کی طاقت کی دائیٰ حقیقت کو محسوس کریں تو معبد سلیمانی کے صحن میں بنایا گیا حوض نامناسب معلوم نہیں ہوتا۔ دونوں تاریکی کی قوتوں سے دائیٰ جنگ اور نجات کے راستے کی بات کرتے ہیں۔ جس طرح یہودی اپنے آپ کو یاددا لاتے رہتے ہیں، کہ ہر نسل کو یہ سمجھنا ہے کہ وہ مصر کی غلامی سے آزاد ہو رہی ہے۔

MAP (نقشہ)

یہودی ربی ہیکل سلیمانی کے قریب عبادت میں مصروف ہیں۔ یہ عبادت گاہ حرم الشریف کے ایک تہہ خانہ میں ہے۔

اسی طرح یہ کی موجودگی ایک یاد ہانی ہوتی تھی کہ برائی کی قتوں پر غلبہ پانے کی جدوجہد جاری رہنی چاہئے۔ اس کی علامت کو معبد کی دہلیز کے پاس بنانے کا مقصد بھی یہ تھا کہ برائی کو ختم کرنے کا چیلنج اور کوشش خدا کی منشاء ہے۔ اسے پورا کرنے کی ضرورت اور تحریک موجود رہنی چاہئے۔

یو شلم کے مذہب، یہواہ سے تعلق رکھنے والے بھنوں اور مناجاتوں سے پہتہ چلتا ہے کہ معبد تصوراتی طور پر کوہ صیہون سے وابستہ تھا۔ جب ”صندوق“ سے ملاتا تھا اور اس کی جڑیں زمین کے نیچے پائی جانے والی دنیا میں بھی اترتی تھیں جسے ابتدائی سمندر کے طور پر پیش کیا گیا۔ کہا جاتا تھا کہ تخلیق کائنات کے وقت صرف سمندر تھا جہاں نیکی اور بدی کی قتوں میں جنگ ہوتی اور پھر دنیا معروض وجود میں لائی گئی۔ مقدس پہاڑ کی طرح معبد بھی اس حقیقت کی علامت تھا جو کائنات کی زندگی کو برقرار رکھتی ہے۔ (حضرت) یعقوبؑ کے زینے کی طرح یہ اس پل کی نمائندگی کرتا تھا جو عدم کو وجود سے ملاتا تھا اور جس کے بغیر ناپسیدار دنیا برقرار نہیں رہ سکتی۔ چونکہ یہ معبد اس جگہ بنا تھا جہاں فرشتے کی رویت ہوئی تھی چنانچہ عبادت گزاروں کو امید ہوتی تھی کہ یہاں وہ خدا سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ جب وہ مقدس مقام میں داخل ہوتے تو وہ ایک ایسی سمت میں قدم رکھدیتے، جس کے بارے میں ان کا ایمان تھا کہ وہ انہیں اس دنیا میں لے جاتی ہے جو ان کی موجودہ دنیا کی ہم عصر ہے اور اسے برقرار رکھے ہوئے ہے۔ کوہ صیہون اپنے ارد گرد پائے جانے والے پہاڑوں سے کلی طور پر مختلف تھا۔ چنانچہ اسے ”ھولی“ Holy (کادوش) کہا گیا۔ عبرانی میں اس لفظ کے معنی ہیں مختلف یا ”سب سے الگ“۔ معبد سلیمانی کا نقشہ بھی ایسا ہی بنایا گیا تھا کہ مقدس مقام کے تین درجے تھے۔ سب سے اوپر نچا اور مقدس ترین مقام خانہ اقدس (دیور) تھا جو خدا کی برتری اور ماورائے اور اک ہونے کی علامت تھا۔ چونکہ ہر شخص برتر قوت تک رسائی نہیں رکھتا اس لئے عام لوگوں کو خانہ اقدس میں داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ یہاں صرف کاہن اور ربی داخل ہو سکتے تھے۔ چنانچہ خانہ اقدس خاموش، خالی اور ناقابل رسائی رہتا۔ چونکہ یہ صندوق اور یہواہ کی موجودگی کا احاطہ کئے ہوئے تھا چنانچہ یہ اس حقیقت کا

خاموش گواہ تھا کہ خدا، انسانوں کی دنیا میں داخل ہو سکتا ہے۔ یہ تصور جبلی اور برتر تھا۔

مقدس کوہ شبیہوں کی چوٹی پر تعمیر ہونے کی وجہ سے معبد یہواہ کے باعث عدن کی نمائندگی بھی کرتا تھا۔ یہ بات ز پیدائش کے باب نمبر دو اور تین میں کرتا ہے۔ (27) بڑے بڑے شمعدان ان درختوں کی مثال تھے جن کی شاخیں پھولوں اور باداموں سے لدی رہتی تھیں۔ کھجور کے درختوں اور پھولوں کی شبیہوں کی ہیکل کے دروازوں اور دیواروں پر کنده کاری اس باغ کی یادداشتی تھی جس میں فرشتے ابتدائی زمانے میں چہل قدمی کرتے تھے۔ معبد میں سانپ بھی موجود تھا۔ ممکن ہے ز نے یہ سب کچھ (حضرت) سلیمان کے عہد میں لکھا ہو لیکن اگر وہ بعد کے دور سے تعلق رکھتا تھا تب بھی وہ معبد کی روحانیت سے واضح طور پر متاثر دکھائی دیتا ہے۔ جب مردوك نے دنیا تخلیق کی تو اس نے ایک معبد بھی بنایا لیکن ز ہمیں بتاتا ہے کہ جب یہواہ نے تخلیق مکمل کر لی تو پھر اس نے ایک باغ آراستہ کیا جہاں وہ شام کے وقت ٹہلتا تھا اور اولین انسانوں (آدم و حوا) سے گفتگو کرتا تھا۔

باغ عدن کی کہانی میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت سلیمان کے معبد میں عبادت کرنے والے اسرائیلیوں کے لئے خدا کیا چاہتا تھا۔ جس طرح گم گشته جنت کی تمام کہانیوں میں موجود ہے؛ عدن ایک ایسی جگہ تھی جہاں بالائی دنیا سے رابطہ بہت آسان تھا۔ عدن بذات خود خدا کا ایک تجربہ تھا۔ ز کے مطابق یہ دنیا کی زرخیزی و شادابی کا ایک ذریعہ تھا۔ اس کے عین وست میں ایک دریا تھا جو باغ سے نکلنے کے بعد چار نہروں میں تقسیم ہو جاتا تھا اور پوری دنیا کو سیراب کرتا تھا۔ ان نہروں میں سے ایک کو جیہوں کہا جاتا ہے۔ معبد میں دو بڑے بڑے شمعدان تھے۔ عدن میں دو درخت تھے جو اپنے آپ کو ہر سال نیا جنم دینے کی طاقت رکھنے کی بدولت خدا کی تخلیقی قوت کی علامت تھے۔ عدن اس ابتدائی کلیست کا ایک تجربہ تھا جو دنیا بھر کے لوگ اپنے مقامات میں تلاش کرتے ہیں۔ خدا اور انسان تقسیم نہیں تھے بلکہ ایک ہی مقام (باغ عدن) میں رہتے تھے۔ آدم و حوا کو معلوم نہیں تھا کہ وہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ نیکی اور بدی میں کوئی امتیاز نہیں تھا۔ یوں آدم و حوا ایک ایسے مقام پر تھے جو تمام تضادات اور تمام تفریقات سے بلند تر تھا۔ یہ ایک ایسی وحدت ہے جو ہمارے تجربے سے دور اور ہماری ناپائیدار دنیا میں ناقابل تصور ہے۔ البتہ ہم اسے اپنی داخلی بصیرت اور وجدان کے توسط سے کبھی کبھار دیکھ سکتے ہیں۔ ہم آہنگی اور یک جہتی کی یہ ایک ایسی تصوراتی دنیا ہے جسے تمام مذاہب کے لوگ تخلیق آدم کا مقصد سمجھتے ہیں۔ آدم و حوا سے جب لغزش ہوئی تو وہ اس دنیا (یا جنت) سے محروم ہو گئے۔ انہیں خدا کے تصور (موجودگی) سے خارج اور باغ عدن سے نکال دیا گیا۔ چنانچہ جب عبادت گزار معبد سلیمانی میں داخل ہوتے تو اس کے ماحول میں موجود باغ عدن کی مشابہت اور شبیہیں انہیں تصوراتی طور

پروپریوٹس باغ عدن یا یہواہ کے باغ میں لے جاتیں اور وہ۔۔۔ چاہے لمحاتی کیفیت ہی سہی۔۔۔ اس جنت میں خود کو محسوس کرنے لگتے جوان سے چھن چکی تھی۔ یا احساس اس جدائی کے زخم کو مندل کر دیتا جو نہیں جتو کی بنیاد ہے۔ مذہب انسان کو یہ جدائی ختم کرنے اور جنت میں واپس پہنچ جانے کا راستہ دکھاتا ہے۔ معبد سلیمانی کا ماحول وہاں پر کھلی چیزیں اور عبادت سب مل کر عبادت گزاروں کے اس روحانی سفر کو ممکن بناتے جو وحدت کی طرف لیجاتا ہے اور وحدت اس حقیقت اعلیٰ سے الگ کچھ اور نہیں جسے ہم خدا کہتے ہیں۔

یہی تصورات بابل کے مینار کی داستان میں پائے جاتے ہیں۔ یہ داستان بھی ایک مستقل نوعیت کے مقدس مقام کی تخلیق پر مشتمل ہے۔ مقدس مقام کی بشارت کا انتظار کرنے کی بجائے لوگ از خود پیش رفت کرتے ہیں اور کہتے ہیں۔۔۔ آؤ ہم خود ہی ایک شہر اور ایک مینار تعمیر کریں جس کی چوٹی آسمان کو چھوٹی ہو۔ ”آسمان کی طرح بلند و بالا ہونے کی کوشش ایک قابل فخر اور ذاتی عظمت و ترقی کا اقدام ہے۔ اس طرح کے اقدامات کرنے والے لوگ اپنے لیے اپنا نام تعمیر کرنا چاہتے تھے۔ لیکن نتیجہ پھوٹ، تقسیم اور تفریق کی صورت میں نکلتا ہے۔ خدا ایسے لوگوں کو ان کی گستاخیوں کی سزا دینے کے لئے انہیں پوری طرح گڑھ کر دیتا ہے پھر وہ ایک دوسرے کی بات نہیں سمجھ سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ اس مقام کو بابل کہا گیا کیونکہ خدا نے وہاں ساری دنیا کی زبان کو بے ترتیب یا گڈھ مڈ (بل) کر دیا۔ (28) ل کی کہانی میں بابل اور اس کے زگورتوں کے لئے ایک گہری دشمنی جھلکتی ہے۔ دیوتاؤں کا دروازہ (باد عیلانی) اجنبیت، بے آہنگی اور انتشار کی وہ علامت بن گیا جو دنیاوی زندگی کی بدترین شکل ہوتی ہے۔ صیہون میں جس کے معنی ”امن“ (شیل) اور مفاہمت کا شہر، ہیں عبادت گزاروں کے لیے ایک مختلف تجربہ ہوتا تھا۔ یہاں اسرائیل کے لوگوں کو اس مقدس پہاڑ پر مذہبی اجتماع کرنے کا موقعہ ملتا تھا جسے خدا نے خود اپنی میراث قرار دیا۔ بابل کے لوگ اس لئے انتشار و افتراق کے شکار ہو گئے کہ انہوں نے مصنوعی طور پر کسی مقام کو مقدس بنانے کی کوشش کی اور یہ سب کچھ خدا کی خوشنودی کی بجائے انسانی خواہشوں اور ہوس اقتدار کی تسلیم کے لئے کیا گیا۔

کوہ صیہون پر حضرت سلیمان کے تعمیر کردہ معبد نے زائرین اور عبادت گزاروں کو خدا کی موجودگی کا احساس دیا۔ اگلے باب میں ہم دیکھیں گے کہ بہت سے لوگوں کو وہاں خدا کی رویت کی امید تھی۔ بابل کے لوگوں کے برکس جنہوں نے دنیا میں انتشار پیدا کیا، اسرائیلوں کی ایک بہت بڑی تعداد یہواہ کے معبد میں داخل ہر کر خود کو پر سکون محسوس کرتی۔ خدا کی علامت و نشانی کے طور پر یہ معبد دنیا کی زرخیزی اور امن و سکون کا ذریعہ تھا۔ (29) اور مشرق قریب کے دوسرے ملکوں کی طرح اس کا تقدس اس جدوجہد کا اٹوٹ حصہ تھا۔ جسے آج ہم ”سماجی انصاف“ کہتے ہیں۔ یہ ایک اہم نکتہ ہے۔ کیونکہ اب انہوں نے اپنی بادشاہت

قائم کر لی تھی۔ اسرائیل اور یہوداہ کے لوگوں نے مقدس بادشاہت کا مقامی تصور اپنالیا تھا۔ لیکن یہ بادشاہ یہوداہ کا ”مسیح“ تھا۔ اس کا برکت یافتہ۔ خدا کے مقدس پہاڑ پر بادشاہ کی تاجپوشی کے دن۔ خدا نے اسے اپنا بیٹا بنالیا۔ (30) اس کا محل معبد کے ساتھ اور اس کی کرسی عدالت۔ یہواہ کے تخت یعنی خانہ اقدس (دیور) کے پہلو میں تھی۔ بائبل کے گیت اور مناجاتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ۔۔۔ بادشاہ کا فریضہ غریبوں کا تحفظ، ضرورت مند بچوں کی کفالت اور طالموں کی سرکوبی تھا۔ (31) اگر یہ انصاف قائم ہوتا ہے تو ریاست میں ہم آہنگی، امن اور زرخیزی جنم لیتی ہے۔ (32) ایسی صورت میں یہواہ انہیں تحفظ مہیا کرتا ہے۔ جو قدیم دنیا کی سب سے بڑی اور مسلسل ضرورت تھی۔ صیہون چونکہ اب یہواہ کی میراث تھا اس لئے وہ ہمیشہ کے لئے خدا کی حفاظت میں چلا گیا۔ (33) لیکن صیہون میں اگر انصاف نہیں ہوگا تو پھر کوئی تحفظ اور کوئی ”شیلم“ بھی نہیں ہوگا۔

یہ نصب العین ریو شلم کے مذہبی گیت میں بار بار آنے والے تین لفظوں میں بیان کیا گیا ہے۔

ثبت (Misphat) زیدیک Tzedek اور شیلم Shalom۔ (34) مشبت ایک قانونی اصطلاح ہے جس کے معنی ہیں فیصلہ یا عدالت کی رائے لیکن اس سے مراد کوہ صیہون پر یہواہ کی عادلانہ حکمرانی بھی ہے۔ جب تابوت یہواہ کو خانہ اقدس میں پہنچایا گیا تو یہ ایک طرح سے کوہ صیہون پر یہواہ کی تخت نشینی تھی۔ چنانچہ اب وہ ریو شلم کا حقیقی بادشاہ تھا۔ زمین کا بادشاہ انسانوں میں اپنی موجودگی کی وجہ سے۔ بادشاہ کا فرض زیدیک کا نفاذ تھا۔ کنعان میں زیدیک (عدل و انصاف) سورج دیوتا کی صفت تھی۔ جو پوشیدہ گناہوں کو منظر عام پر لاتا تھا۔ مظلوموں کے ساتھ ہونے والی نا انصافیوں کو ختم کرتا تھا اور ایک منصف کی حیثیت سے دنیا پر نظر رکھتا تھا۔ جب یہواہ کی تخت نشینی صیہون پر ہو گئی تو یہ صفت اس سے بھی منسوب ہو گئی۔ اسے دیکھنا ہوتا تھا کہ کیا اس کی سلطنت میں انصاف ہو رہا ہے۔ کیا غریب اور کمزور کو تحفظ مل رہا ہے۔ اور کیا طاقتور کہیں ظلم تو نہیں کر رہا؟ صرف اسی صورت میں صیہون شیلم کا شہربن سکتا تھا۔ شیلم ایک ایسی کیفیت تھی جس سے مراد ”امن“ تھا لیکن اس لفظ کے حقیقی معنی کلیت یا تکمیل تھے۔ ایک ایسی کلیت یا تکمیل جو مقدس مقامات پر لوگ چاہتے یا ڈھونڈتے ہیں۔ چنانچہ شیلم میں فلاح و بہبود، زرخیزی، امن و سلامتی، ہم آہنگی اور جنگ میں فتح۔۔۔ سب کچھ شامل تھا۔ شیلم کی موجودگی، اجنبیت، غیریت اور عدالت کی نفع تھی جو زمین پر انسانی ابتری کا سبب بنتی ہیں۔ ریو شلم اس وقت تک شیلم کا مقدس شہر نہیں بن سکتا تھا جب تک اس میں زیدیک یعنی عدل و انصاف نہ ہو۔ لیکن اسرائیلی اس بات کو بھول جاتے ہیں۔ وہ ریو شلم کی تقدیس اور عظمت کا شور تو مچاتے ہیں۔ اس کی پاکیزگی کے لئے اڑنے مرنے پر تیار ہو جائیں گے لیکن بنیادی شرط کو بھول

جاتے ہیں۔ پیغمبروں نے انہیں بار بار یاد دلایا کہ اگر وہ عدل و انصاف کا دامن چھوڑ دیں گے تو ناگزیر طور پر شیلیم سے محروم ہو جائیں گے۔

صیہون پر معبد بنا کر اور اس میں یہواہ کی تخت نشینی کر کے حضرت سلیمان نے کنعانی اصطلاح میں ”خاندان داؤڈ“ کی سلطنت کے نام پر باقاعدہ زمین پر قبضہ کر لیا تھا۔ یہواہ اب یروشلم کا حکمران تھا اور بنی اسرائیل چونکہ اس کی قوم تھے اس لئے زمین ان کی ہو گئی۔ کوہ زیفون پر بعل دیوتا کے محل نے اردوگرد کے علاقے کو اپنی میراث بنالیا تھا۔ اب صیہون کا تعلق یہواہ سے تھا۔ صیہون اس کی دائیٰ میراث بن گیا۔ معبد اور یہواہ کی تخت نشینی (حضرت) سلیمان کے اس دعویٰ کی بنیاد بنی کہ یروشلم داؤڈ کے خاندان کی دائیٰ میراث ہے۔ معبد کی تعمیر، تسبیح کا ایک اقدام اور خدا کی پشت پناہی کے ساتھ ارض موعودہ پر قبضہ کا ایک ذریعہ تھی۔ مقدس عمارت اس بات کا اعلان تھی کہ اسرائیلوں کی خانہ بدوثی کے دن ختم ہو گئے ہیں اور متحده سلطنت کے لوگ بالآخر اپنے گھر میں آگئے ہیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو ایک ایسی جگہ پر منتظم کر لیا ہے جہاں وہ خدا کیسا تھا۔ قربی رابطہ میں رہتے ہوئے زندگی بسر کر سکتے ہیں۔

لیکن حضرت سلیمان کو انجام کا رایوں کن قرار دیا گیا۔ توریت کی پانچویں کتاب کا مصنف انہیں ایک صنم پرست قرار دیتا ہے۔ الزام عائد کیا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان نے یروشلم میں اپنی غیر ملکی بیویوں کے دیوتاؤں کے معبد بنائے۔ وہ خود بھی اپنے پڑوی علاقوں کے دیوی دیوتاؤں کی پرستش کرتے تھے۔ جن میں صیدا کی دیوی عشتار، عمون کے دیوتا ملکوم اور مواب کے دیوتا کیموش شامل تھے۔ یروشلم کے مشرق کی پہاڑیوں میں ملکوم اور کیموش کی قربان گاہیں بھی بنائی گئی تھیں۔ (35) یہ سب کچھ بہت پرستی کی وجہ سے تھا۔ D کا کہنا ہے کہ اسرائیل اور یہوداہ کی متحده مملکت حضرت سلیمان کی وفات کے بعد ٹوٹ گئی۔ لیکن D اس کا ذکر مختلف مفہوم میں کرتا ہے چھٹی صدی قبل مسیح کے بعد اسرائیلی خالصتناً تو حید پرست بن رہے تھے۔ اب ان کا عقیدہ واہیمان یہ تھا کہ یہواہ ہی اصل اور اکیلا خدا ہے یہی سچ ہے اور تمام دیوی دیوتا جھوٹ ہیں۔ لیکن حضرت سلیمان اور ان کی رعایا ابھی اس عقیدے کو قبول نہیں کر رہے تھے۔ بائل کے علم کہتے ہیں کہ اگرچہ معبد سلیمانی کافروں کے بتوں سے بھرا پڑا تھا اور یروشلم میں دوسرے دیوتاؤں کے معبد بھی بنائے گئے تھے لیکن یہ سب کچھ اپنی غیر ملکی بیویوں کے لئے حضرت سلیمان کی رواداری کا اظہار تھا۔ ان باتوں سے یہواہ کی حیثیت پر کوئی اثر نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ اب بھی صیہون کا بادشاہ تھا اور چھوٹے خداوں پر بالا دستی رکھتا تھا۔ مذہبی گیتوں میں دیوتاؤں کی الوہی مجلس کا صدر نشین قرار دیا جاتا تھا۔

اگر حضرت سلیمان ناکام ہو گئے تھے تو اس کی وجہ غالباً یہ تھی کہ وہ زیدیک پر عمل پیر انہیں ہو سکے

تھے۔ ان کی مملکت کی معیشت کمزور تھی۔ سلطنتیں اس وقت تحلیل ہو جاتی ہیں جب اپنے وسائل سے تجاوز کر جاتی ہیں۔ یہی کچھ حضرت سلیمان کے دور میں ہوا۔ حضرت سلیمان کے مبینہ خزانوں کے باوجود اصراف بے جا کی کیفیت تھی۔ الصور کے بادشاہ حیرم سے قیمتی سامان تعمیرات خریدا گیا اور پھر اس کا قرض ادا نہ کیا جاسکا۔ چنانچہ مغربی گلبی میں بیس قصبے اس کے حوالے کرنا پڑے۔ اپنی طاقتوفوج کے باوجود (حضرت) سلیمان ان علاقوں پر اپنا قبضہ برقرار نہ رکھ سکے جو انہیں اپنے والد حضرت داؤد سے وراثت میں ملے تھے۔ پہلے ادوم اور پھر دمشق کی سریاستین آزاد ہو گئیں۔ لیکن سب سے زیادہ سگنین بات مملکت میں عدم اطمینان اور بعد عنوانی تھی۔ حضرت داؤد نے اپنی ریاست یہوداہ کو زیادہ نوازا تھا چنانچہ اسرائیل کی ریاست متحده مملکت سے اپنی وابستگی کے لئے پر جوش نہیں رہی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس صورت حال کو پیش نظر نہ رکھا۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انوں نے بھی اسرائیلی ریاست کا استحصال کیا۔ اسے برابر کا ز حصہ دار بنانے کی بجائے مفتوحہ علاقہ سمجھ لیا۔ انہوں نے مملکت کے شمالی علاقہ کو 12 انتظامی اکائیوں میں تقسیم کر دیا۔ ان میں سے ہر ایک سال میں ایک مہینہ کے لئے دربار کے اخراجات اور بیگار کے لئے افرادی قوت مہیا کرنے کی پابند تھی۔ اس کے برعکس جنوبی علاقہ جو یہوداہ ریاست پر مشتمل تھا اس کے لئے اس طرح کو کوئی حکم نہیں تھا۔ متحده مملکت کے لوگ ویسے بھی بیگار سے ناخوش تھے۔ (36) جبکہ قدیم دنیا میں زندگی کی ایک حقیقت تھی۔ حضرت داؤد نے بھی جبکہ نافذ کر رکھی تھی اور کسی نے اعتراض نہیں کیا تھا۔ لیکن جبکہ مشقت مختلف بات تھی۔ حضرت سلیمان کو اپنے بڑے بڑے تعمیراتی منصوبوں کے لئے وسیع تر افرادی قوت کی ضرورت تھی۔ اس سے معیشت کو دو طرح سے نقصان پہنچا۔ لوگوں کی بہت بڑی تعداد پیداواری کاموں سے نکل گئی اور تعمیراتی کام بذات خود غیر پیداواری تھے۔ دیہات اور قصبے جن میں ملک کی دولت پیدا ہوتی ہے، جبکہ مشقت کے لئے جانے والے مردوں کی وجہ سے خالی ہو جاتے تھے۔ معیشت بری طرح متاثر ہوتی ہے جبکہ مشقت سماجی اور اقتصادی نا انصافی کی بدترین شکل ہوتی ہے چنانچہ یہ زیدیک کی نفعی تھی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اسرائیل کے تیس ہزار افراد کو بیگار پر مجبور کیا گیا لیکن یہوداہ کے لوگوں کے لئے کسی جبکہ مشقت کا ذکر سننے میں نہیں آتا۔ (37) اسرائیل کے لوگ بہت ناخوش تھے اور ان کی اکثریت یو شلم سے اپنے ناطے توڑنے کی خواہش مند تھی۔

ہم نے دیکھا ہے کہ قدیم دنیا میں انصاف کی رسم مذہب میں نہیں البتہ گھرے سیاسی فہم میں پائی جاتی تھی۔ سماجی عدم اطمینان کی وجہ سے بادشاہیں ختم ہوتی رہی ہیں۔ تیرھویں صدی قبل میسیح میں یوگیرت اس لئے تباہ ہوا کہ اکے نظام میں کسانوں پر ناقابل برداشت بوجھ تھا۔ حضرت سلیمان کی مملکت بھی اسی لئے

منتشر ہوئی کہ انہوں نے اپنی رعایا کے ساتھ مساوی برتاؤ نہ کیا۔ ان کے جانشینوں کے لئے یہ ایک واضح سبق تھا۔ حضرت سلیمان اس بات سے آگاہ تھے کہ ان کی مملکت خطرے میں ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ان کی زندگی کے آخری برسوں میں اسرائیل کا افسر بیگار، یہ بعام، ان کے خلاف ہو گیا۔۔۔ کہا جاتا ہے کہ شمالی علاقے کیا کیم نبی نے پیشین گوئی کر دی تھی کہ حضرت سلیمان کی مملکت دو ٹکڑوں میں بٹ جائے گی اور یہ بعام، اسرائیل کے دو قبیلوں کا حکمران بن جائے گا۔ (38) اسی لئے یہ بعام بغاوت کے لئے ساز باز کرتا رہا اور حضرت سلیمان نے اسے قتل کرائیکی کوشش کی۔ یہ بعام مصر کو بھاگ گیا اور وہاں اس نے فروعون سیسیک کے دربار میں پناہ لے لی۔ لیکن اسے زیادہ عرصہ تک جلاوطن نہ رہنا پڑا۔ حضرت سلیمان چالیس سال تک حکومت کرنے کے بعد 930 قبل مسح میں انتقال کر گئے۔ انہیں اپنے والد کے پہلو میں شہزادہ میں دفن کیا گیا۔ انتشار نے اسرائیل اور یہوداہ کی متحده سلطنت پر حملہ کر دیا جس کا حضرت سلیمان کو خدشہ تھا۔

=====

Virtual Home
for Real People

حوالہ جات

- سیموئیل 5:6 -1
 اسرائیلی ماہر آثار قدیمہ یگال یاد دین کا کہنا ہے کہ اسی وجہ سے بعد میں لنگڑے اور نا بینا افراد کا
 داخلہ معبد میں منوع قرار دے دیا گیا تھا۔
- سیموئیل 5:8 ، 1 - تواریخ 11:4-7 -3
- سیموئیل 5:9 -4
 ار-داود کے معنی غالباً قلعہ داؤد ہونے چاہئیں۔
- سیموئیل 5:8 ، 1 - تواریخ 11:5 -5
 یشوع 15:8 -6
- R. E. Clements, Abraham & David (London.1967) 7.
- 4:3 سلاطین -1 -8
9. G.E. Mendenhall, Jerusalem from 1000 to 63 BC, in K. J. Asali, Jerusalem in History (New York-1990), p. 45.
 تواریخ 21:9 -10
- Gosta W. Ahlstrom, the History of ancient Palestine (Minneapolis, 1993), pp. 504-05
11. Gosta W. Ahlstrom, Der prophet Nathan and Der Tempelban (1961).
- R.E. Clements, God & Temple (Oxford 1965), P. 58.
12. Harold H. Rowley, Worship in Ancient Israel: Its forms & Meaning (London-1967), p. 73.

Clements, God & Temple, pp. 42-43.

Ronald de Vaux, Ancient Israel: Its Life & Institutions.
(New York & London- 1961), pp. 114-311.

تواترخ 6	-1	-13
سیموئیل 6	-2	-14
سیموئیل 7:6-16	,2	-15
تواترخ 28:11-19	-1	-16
سیموئیل 24	-2	-17

18. BENJAMIN MAZAR, The Mountain of the Lord (New York- 1975). p. 52.
CLEMENTS, God a Temples. pp. 61-62.
AHLSTROM, HISTORY Of ancient Palestine, P. 471.
HANS- JOACHIM KRAUS, Worship in Israel
(Oxford- 1966) p. 188

تواترخ 28:11-19	-1	-19
تواترخ 28:19	-1	-20
معبد آٹھ سال میں اور محل تیرہ سال میں تعمیر ہوا۔		-21

22. DAVID USSISHKIN, King Solomon's Palaces, Biblical Archeologist 36 (1973).

سلاطین 3:1-7	-2	تواترخ 6:1-14	-1	-23
گنتی 18:14	-2	سلاطین 21:8-9	-1	-24

ان دونوں ستونوں کے ناموں کے معنی نامعلوم ہیں۔ شاید یہ دو دعاوں کے ابتدائی لفظ ہیں۔
یا کیم یہواہ (خدا داؤد کا تخت ہمیشہ کے لیے قائم کرے) اور بوعز یہواہ (یہواہ کی طاقت سے)
کی دعاوں سے لیے گئے ہیں۔ بوعز کا ذکر کتاب روت میں بادشاہ داؤد کے اجداد کی حیثیت
سے بھی موجود ہے۔ ممکن ہے ان کے یہ نام کا نئاتی ستون قرار دیئے جانے کی وجہ سے رکھے

گئے تھے۔ طلوع آفتاب کی پہلی کرنیں انہی ستونوں کے ذریعے معبد میں داخل ہوتی تھیں۔

3:8-13 6:15-38 2 1 26 سلاطین تواریخ

27. MARGRATE bARKER, The Gate of Heaven: The History and Symbolism of the Temple in Jerusalem (London) 1991, pp. 26-29.

CLEMENTS, God & Temple- p. 65.

11:4-9 پیدائش -28

29. CLEMENTS, GOD & TEMPLE- PP. 64, 69, 72.

2:6-12 زبور -30

72:4 زبور -31

9:10-16 زبور -32

48:8 زبور -33

34. COHN, Cosmos, Chaos and the World to come- p. 139.

11:4-8 صلاطین -1 -35

4:18-19 صلاطین -1 -36

8:15-24 صلاطین -1 -37

11:26-40 صلاطین -1 -38

=====

چوتھا باب

شہر یہوداہ

حضرت سلیمان کے بیٹے رجعام کو وراشت میں ایک کمزور اور برگشہ سلطنت می۔ اس کی حکمرانی کو ریاست یہوداہ میں تو تسلیم کر لیا گیا لیکن اسرائیل کی شماںی ریاست نے قبول نہ کیا۔ اسرائیل کی ریاست حضرت سلیمان کے عظیم تعمیراتی منصوبوں کو وجہ سے چنانچہ جب رجعام اسرائیل کے بڑوں سے ملنے اور اپنی باادشاہت کی توثیق کرانے کے لئے سیکم میں گیاتوا سے بتا دیا گیا کہ اس کی باادشاہت صرف اسی صورت میں قبول کی جائے گی کہ اسرائیل پیکسوں اور جبری مشقت کا بوجھ ہکار کر دیا جائے۔ رجعام کے سامنے ایک مشکل فیصلہ تھا۔ اگر یہ شرط تسلیم کر لی جاتی تو حضرت داؤد کی عظیم سلطنت کا خواب ادھورا رہ جاتا اور خود رجعام کو ایک کم تر درجہ کے حکمران کی حیثیت قبول کرنا پڑتی۔ بہت کم حکمران اس طرح کی حیثیت قبول کرتے ہیں۔ چنانچہ رجعام نے یہ شرط مسترد کر دی۔ اسرائیل کے بزرگوں اور کہنہ مشق مشیروں کی مذکورہ شرط ایک مفید تجویز تھی اس سے سلطنت میں استحکام پیدا ہو سکتا تھا لیکن رجعام کے نوجوان ساتھیوں نے اسے ایسا کرنے سے روک دیا۔ انہیں خدشہ تھا کہ اگر اسرائیل سے ٹیکس اور جبری مشقت میں نرمی بر تی گئی تو یہوداہ کے لوگوں کے آرام و آسانیش میں کمی آجائے گی۔ رجعام نے اسرائیل کے بزرگوں کو جواب دیا ”میرے باپ نے تم کو چاہک سے ٹھیک کیا، میں تمہیں کوڑوں سے ٹھیک کروں گا۔“ (1)

(نقشہ) MAP

اسرائیل کے بزرگوں نے متعدد سلطنت سے قطع تعلق کا اعلان کر دیا۔۔۔۔۔ بیگار افسر کو سنسکار کر دیا گیا جب کہ

رجام جان بچا کر یروشلم بھاگ آیا۔

اب یہوداہ اور اسرائیل کی ریاستوں کے راستے الگ الگ تھے۔ یہ عالم اسرائیل کا بادشاہ بن گیا۔ اس نے ترضہ کو اپنا دارالحکومت بنایا اور بیت ایل اور دان کے قدیم معبدوں کو شاہی معبدوں میں تبدیل کر دیا۔ بعد میں اسرائیل کے بادشاہ اور میری نے سامریہ کو اپنا دارالحکومت بنایا جو اس علاقے کا سب سے شاندار اور خوشحال شہر بن گیا۔ اسرائیل کی راست، یہوداہ کی ریاست سے زیادہ بڑی اور زیادہ دولت مند تھی۔ اس میں بڑی بڑی شاہراہیں اور وہ علاقے تھے جن کا تعقلق متمول شہری ریاستوں سے تھا۔ اس کے مقابلے میں یہوداہ کی ریاست الگ تھلگ، وسائل سے محروم اور ایسے پہاڑی علاقوں اور لق و دق صحراؤں پر مشتمل تھی جہاں کاشت کاری ناممکن تھی۔ یہوداہ کے بادشاہ کو اسرائیل کے الگ ہونے سے بہت نقصان پہنچا۔ اس نے اسرائیل پر مذہب سے برگشتہ ہونے اور الحاد وارتہاد کا الزام لگا دیا۔ لیکن جو کچھ بھی ہوا تھا اس کا ذمہ دار یہوداہ کا بادشاہ رجاعم ہی تھا جس نے صورت حال اپنے باپ کی طرح جوں کی توں رکھنے کا فیصلہ کیا تھا۔ یہوداہ اور اسرائیل کی علیحدگی کے پچاس برس بعد دونوں ریاستوں میں جنگ چھڑ گئی۔ یہوداہ کی ریاست کمزور ہونے کی وجہ سے خاص طور پر غیر محفوظ تھی۔ رجاعم، فرعون سیقت کی مدد سے یروشلم کو اسرائیل کے قبضے سے بچانے میں کامیاب ہوا۔ فرعون کنعان میں اپنی سیاسی موجودگی چاہتا تھا۔ رجاعم نے معبد کی آمدی کے عوض اسے اپنا حلیف بنالیا۔ یہوداہ کے بادشاہ آسا کے دور (911-870 قم) میں اسرائیل کی فوجیں رامہ کے مقام تک پہنچ گئی تھیں جو یروشلم سے شمال میں صرف پانچ میل کے فاصلہ پر تھا۔ اس دفعہ یہوداہ کے بادشاہ نے یروشلم کو دمشق کی آرامی بادشاہت کی مدد سے بچایا۔ آرامی بادشاہ نے یہوداہ کے بادشاہ کی مدد کی درخواست پر اسرائیل پر عقب سے حملہ کر دیا۔ اس کے بعد اسرائیل شام کے ساتھ خونین سرحدی چھڑپوں میں الجھ گیا اور یہوداہ نے سکھ کا سانس لیا۔

چاروں طرف سے دشمنوں میں گھر جانے کے بعد یہوداہ کے لوگ یہوداہ کی مدد کے طالب ہوئے۔ اب وہ یہوداہ کو پکارنے لگے۔ کنعان کے عام لوگوں کی طرح وہ ابتری اور خلفشار کی قدیم طاقتیوں کے ساتھ ساتھ مصر، اسرائیل اور بعد میں حریف بن جانے والی ریاست دمشق کو اپنے دشمن قرار دیتے تھے۔ سمندر اور ریاستان کی طرح یہ دشمن بھی ان کی ریاست کو ختم کر سکتے تھے۔ اپنے دشمنوں پر غالب آنے کے لئے اپنی سابقہ جدوجہد اور لڑائیوں کو یاد کر کے اپنی توانائیاں مجتمع کرنے کی بجائے وہ یہواہ کی اس جدوجہد کو یاد کرنے لگے جو اس نے ابتدائی زمانے میں ابتری اور خلفشار کے خلاف کی تھی۔ تمام تر مشرق قریب کے معبدوں میں بعل اور مردک جیسے دیوتاؤں کی ایسی لڑائیوں کی یاد ہر سال پورے تزک و احتشام کے ساتھ

منانی جاتی تھی۔ اس کے پیچھے یہی تصور کار فرماتھا کہ جس امن و سلامتی کی ان کے شہروں کو ضرورت ہے وہ صرف آسمانی جنگجو ہی قائم کر سکتے ہیں۔ قدیم دنیا کی یہ مذہبی رسموم محض یاد کرنے کی کارروائیاں نہیں ہوتی تھیں۔ وہ ان دیو مالائی داستانوں کو اس طرح پیش کیا کرتے تھے کہ لوگوں کو محسوس ہو کہ یہ سب کچھ پھر رونما ہونے والا ہے۔ اور لوگوں کو برائی کے عفريتوں اور نیکی کے دیوتاؤں کے درمیان ہونے والی دائمی اور نادیدہ کشمکش میں دیوتاؤں کے محتاج ہونے کا یقین آجائے۔ ماورائی وقتوں کی جنگوں کو تمثیلی انداز میں ایک مکمل ناٹک کے ذریعے لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا۔ یوں عبادت گزار دیو مالا کی ”ابدی واصلی دنیا“، میں پہنچ جاتے۔ یہ مذہبی رسم کا نئات کی اس تلخ حقیقت کا مظہر تھیں جو ہمیشہ موت اور اذیت کی صورت رکھتی ہے لیکن یہ بھی واضح کر دیا جاتا کہ یہ جدوجہد ہمیشہ ایک تخلیقی نتیجہ رکھتی ہے۔ یہ اور مات کے ساتھ مہلک لڑائیوں میں کامیاب ہونے کے بعد بعل کی تخت نشینی کوہ زیفون پر ہوئی تھی اور یہ ہمیشہ کے لئے اس کا گھر بن گیا تھا۔ زیفون سے بعل نے امن، زرخیزی اور نظم قائم کئے جن کو اس کے دشمن ختم کرنا چاہتے تھے۔ جب یو گیرت میں اس فتح کی یادمنانی جاتی تو بادشاہ، بعل کا کردار ادا کرتا اور اپنے آسمانی وجود کی حیثیت سے بپتسمہ دیتا تھا کہ اس کی سلطنت میں امن، زرخیزی اور انصاف کا فریضہ پورا ہو۔ ہر سال موسم خزاں میں بعل کی تخت نشینی کا جشن منایا جاتا۔ یہ تقریبات ایتھا نیم کے مہینے میں منعقد کی جاتیں اور ان آسمانی توانا یوں کو جنم دیتیں جن سے یو گیرت کے لوگ پورا سال استفادہ کرتے۔

یو شلم میں معبد سلیمانی کی تغیر سے پہلے۔۔۔ ہمارے علم کے مطابق۔۔۔ یہواہ کو خداۓ خالق نہیں سمجھا جاتا تھا۔ خرونج کی داستانیں اسے کائنات کی بجائے ایک قوم کی تخلیق کرتے ہوئے دکھاتی ہیں۔ لیکن جب کوہ صیہون پر خانہ اقدس (دیور) میں اس کی تخت نشینی منعقد ہو گئی تو اس کی مذہبی رسم میں وہ باقی بھی شامل ہو گئیں جو اس علاقے کے سابقہ معبود یعنی بعل ایل علیوں کی عبادت سے تعلق رکھتی تھیں۔ غالباً کاہن صدقہ کے زیر اثر یہوی عقائد اسرائیلیوں کے عقائد میں شامل ہو گئے۔ بعل دیوتا کی طرح اب یہواہ کے بارے میں بھی کہا جانے لگا کہ اس نے سمندری عفریت لوتان کے ساتھ جنگ کی۔ عبرانی میں لوتان لویاتاں کہا گیا۔(2) اس نے ابتری و انتشار کے ابتدائی پانیوں کو مطیع کیا۔ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو یہ زمین پر سیلا ب لے آتے۔ ان سرحدوں کی شاندی کردی جن کو عبور کرنے کی اجازت نہیں تھی اور ایک مقفل دروازے کے ذریعے ان پانیوں کو ”باندھ“ دیا گیا۔(3) مردک دیوتا کی طرح اس نے بھی ایک سمندری عفریت کو چیر کر دلکھڑوں میں تقسیم کر دیا۔ اس عفریت کا نام رہاب تھا اور یہ معرکہ آرائی اس وقت ہوئی جب یہواہ نے زمین کی بنیاد رکھی۔(4) بعد میں ان ہنگامہ خیز تخلیق کے واقعات کو ”پیدائش“ کے باب میں

پر امن تخلیق میں تبدیل کر دیا گیا۔ لیکن باہبل باتی ہے کہ یہوداہ کے لوگوں میں ایسی کہانیاں مقبول تھیں جو ان کے پڑوسی علاقوں کے عقائد سے قریبی مشابہت رکھتی تھیں اور بحران کے وقت وہ لوگ اسی ”کافرانہ دیومالا“ کی طرف رجوع کرتے۔ مقابلے کی داستانِ لجوئی کا ذریعہ تھی کیونکہ اس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ اگرچہ تباہی کی قوتیں بہت طاقتور ہیں لیکن عافیت ہمیشہ موجود رہے گی۔ البتہ یہ سب کچھ از خود نہیں ہوگا۔ کاہنوں اور بادشاہوں کی ذمہ داری تھی کہ اوپرین فتح کی یاد ہر سال منائیں تا کہ بیو شلم میں خدائی قوت حلول کر جائے۔ ان کا فرض تھا کہ اپنے لوگوں کو اس عظیم اسرار سے وابستہ رکھیں جو دنیا کو قائم رکھے ہوئے ہے۔ کائنات کی ناگزیر دہشت کا سامان کریں اور یہ دیکھنا سیکھیں کہ بظاہر جو کچھ دہشت ناک اور ہلاکت آفریں ہے اس کا ثابت پہلو کیا ہے؟ زندگی اور نظم کی فتح موت اور ابتری پرمنی ہے۔ ہر قحط اور بانجھ پن کے بعد ہر یا اور زرخیزی آئے گی اور فنا کا خطرہ مل جائے گا کیونکہ خدائی قوت ان کے درمیان موجود ہے۔

باہبل کی ابتدائی مناجاتیں بتاتی ہیں کہ کتنے بھر پور طریقے سے یہوداہ کے لوگ اس عقیدے میں یقین رکھتے تھے بعض مقامات پر تو یہ مناجاتیں یوگیرت کی قدیم دیومالا کو دھراتی ہیں۔

ہمارے خدا کے شہر میں، اپنے کوہ مقدس پر
یہواہ بزرگ اور بے حد ستائش کے لاّق ہے

خدا کا شہر اس کا مقدس پہاڑ ہے
اس کی چوٹی جب تک بلند ہے
پوری دنیا میں مسرت و شادمانی ہے

کوہ صیہون، زیفون کا دل ہے

جو عظیم بادشاہ کا شہر ہے

یہاں اس کے محلات کے درمیان

خدا اس کا قلعہ ثابت ہوا ہے (5)

(زبور - 48:3)

یہواہ کی اسی طرح بیو شلم کے لئے لڑنا تھا جس طرح بعل اپنی میراث کے لئے یوگیرت میں لڑا تھا۔ اس کی موجودگی نے دشمنوں کے مقابلے میں شہر کو ایک ناقابل تسخیر حصار میں مlfوف کر دیا۔ بیو شلم کے شہر یوں کو کھا گیا تھا کہ صیہون کی قلعی بندی کی تعریف کریں۔ اس کے برجوں کو گنیں اور دیواروں کی تعریف

کریں۔ اس کے محلات کو بار بار دیکھیں اور ستائش کریں۔ بالکل اسی طرح جس طرح اردن کے شہری گل گامش کے بنائے ہوئے برجوں کی تعریف کیا کرتے تھے۔ دہر پر گہری نظر ڈالنے کے بعد یو شلم کے لوگ کہہ اٹھیں گے کہ ”خدا یہاں ہے۔“ (6) ابتدائے آفرینش کے وقت یہواہ نے حدود متعین کر دی تھیں تاکہ ہر چیز اپنی مناسب جگہ پر رہے: یو شلم کی سلامتی اور تحفظ کے لئے دیواریں اور حفاظتی اقدامات بھی وہی مذہبی نوعیت رکھتے تھے جو دنیا کا ابرتری اور فنا سے بچانے کے لئے عظیم دیوتا کے اقدامات کی تھی۔ چنانچہ یو شلم کے شہریوں کو یقین تھا کہ شہر کبھی تسخیر نہیں ہو گا۔ یہواہ اپنے لوگوں کا قلعہ ہے۔ وہ ہر حملہ کو پسپا کر دے گا اور دشمنوں کے نیزوں کو توڑ دے گا۔ (7) یہوداہ کے لوگوں کو اس وقت بھی خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں جب ان کے ارد گرد ساری کائنات منہدم ہو رہی ہو۔ پھاڑ سمندر میں ڈوب رہے ہوں اور طوفانی لہریں چنگھاڑتی ہوئی ہر چیز کو نگل رہی ہوں۔ (8) ان کے شہر میں یہواہ نے شیلیم کی جنت بنارکھی ہے جس میں کلیت، ہم آہنگی اور سلامتی ہے۔

یو شلم کے مذہبی عقائد میں لوگوں نے قدیم خروج کی داستانوں کو یہواہ کی تخلیق کائنات کے پس منظر میں دیکھا۔ یہواہ نے جب لویاتاں اور رہاب کو شکست دے دی تو اپنے آپ کو پوری دنیا کا بادشاہ بنالیا اور پھر دنیا کو قائم و دائم رکھا۔ بنی اسرائیل کو مصر کی غلامی سے نجات دلانا، پوری بنی نوع انسان کی نجات کے لئے اس کے ارادوں کا ایک اظہار تھا۔ (9)

نقادوں نے بابل کی میانجا توں سے ابتدائی مذہب کو پھر سے اصلی شکل دینے کی کوشش کی ہے لیکن ان کے لمبے چوڑے دعوے کھوکھلے ہیں۔ اس دور کے یو شلم میں مذہب کے بارے میں ہم بہت کم علم رکھتے ہیں۔ تا ہم کوہ صیہون پر یہواہ کی بادشاہت مرکزی نکتہ دکھائی دیتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ سکوتوہ کی ضیافت بادشاہ (حضرت) سلیمان کی طرف سے معبد کو نذر گزارنے کی ایک رسم تھی جو مقدس پھاڑ پر تخت نشینی کی سالانہ تقریب کے دوران ادا کی جاتی تھی۔ جس طرح بعل دیوتا، مات کو شکست دے کر اور زمین کی زرخیزی بحال کر کے کوہ زیفون پر اپنے محل میں واپس آیا تھا۔ اسی طرح یہواہ نے صیہون اور اس کے مقامات کی زرخیزی کو یقینی بنا یا تھا چنانچہ اس قدیم زرعی میلے (سکوتوہ) میں اس کی یاد بھی منائی جاتی تھی۔ اس کا اظہار موسیقی، تالیوں اور نعروں سے کیا جاتا تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہواہ نفیریوں کی آواز سن کر خانہ اقدس میں اپنے تخت پر بیدار ہو جاتا ہے۔ (10) آلات موسیقی بجا کر، مذہبی نعرے لگا کر اور معبد کو بخور کے دھوئیں سے بھر کر شائد معبد میں ”رویت خدا“، وہی ما حول بنانے کی کوشش کی جاتی تھی جو کوہ سینا پر حضرت موسیٰ کے سامنے خدا کے ظہور کے وقت موجود تھا۔ (11) غالباً ایک جلوس بھی جیہوں سے معبد تک نکالا جاتا تھا جو

یہواہ کے کوہ صیہون کی طرف پہلے سفر کی یاد تازہ کرتا تھا۔ ان تمام ترمذی رسومات میں یہواہ کے بارے میں ایک ایسا زبردست تاثر مرتب ہوتا تھا کہ لوگ اسے محض سیہون کا بادشاہ ہی نہیں۔۔۔ پوری دنیا کا عظیم بادشاہ تسلیم کرنے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ اس نے دوسرے تمام دیوبندیوں پر برتری حاصل کر لی تھی۔ (12)

کیونکہ تم یہواہ ہو

پوری دنیا کے علیون

دوسرے تمام معبودوں سے بالا و برتر (13)

اسرائیلوں کی طرف سے باقاعدہ نظریہ توحید تشكیل دینے سے بہت پہلے کوہ صیہون پر ایسی مذہبی رسومات اور تقریبات شروع کی جا چکی تھیں جن کا مقصد یہواہ کے لوگوں کو جذباتی طور پر یہ سکھانا تھا کہ یہواہ ہی واحد خدا ہے۔

(نقشہ) MAP

بیابان نور دی کے چالیس سالوں کی یاد میں سکوتوہ کا تھواڑ پورے مذہبی جوش و خروش سے منایا جاتا ہے۔ کھجور کی شاخیں اس موقع پر ادا کی جانے والی رسوم کا ضروری حصہ ہوتی ہیں۔

لیکن صیہون کی مذہبی رسم محض شور و غوغاء کی تقریب نہیں ہوتی تھی۔ ابتدائی زائرین کی مناجاتیں ظاہر کرتی ہیں کہ یہ رسم ایک گھری ذاتی روحانیت تخلیق کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ معبد کی زیارت کے لئے جانا معراج تھا۔ زائرین جوں ہی صیہون کی چوٹی پر جانے کے لئے وادی حنوم سے یو شلم کی ڈھلوانوں پر قدم رکھتے تو وہ اپنے آپ کو یہواہ کی رویت کے لئے تیار کر لیتے۔ (14) پہاڑ کی چوٹی پر پہنچنے کا یہ سفر محض جسمانی سفر نہیں ہوتا تھا بلکہ ایک داخلی اور روحانی معراج بھی ہوتا تھا جو زائر کو ایک ایسی جگہ پر لے جاتا جہاں اس کی داخلی دنیا، خارجی دنیا سے مربوط ہو جاتی۔ یہ ایک طرح سے گھر لوٹ آنے یعنی محفوظ ہو جانے کا احساس بیدار کرتا تھا۔

تیرے مذکوٰو کے پاس گوریا نے اپنا آشیانہ

اور ابا نیل نے اپنے لئے گھونسلا بنالیا
جہاں وہ اپنے بچوں کو رکھے
اے لشکروں کے خداوند۔۔۔ یہواہ
مبارک ہیں وہ جوتیرے گھر میں رہتے ہیں (15)

آرام اور مستقل سکونت کا تصور حضرت داؤد کے اس گیت میں موجود تھا جو انہوں نے سب سے پہلے یو شلم میں یہواہ کا گھر بنانے کی تجویز میں پیش کیا تھا۔ (16) معبد کی مذہبی رسوم نے یہوداہ کے لوگوں کو دنیا سے مربوط ہونے میں مدد دی۔ تخلیق کی داستانوں میں زور دے کر کہا گیا تھا کہ کائنات کی ہر چیز کی اپنی ایک معین جگہ ہے۔ سمندروں کو یہواہ نے پابند کر دیا تھا کہ وہ خشک زمین پر غالب نہ آئیں۔ اب یہواہ اپنی مخصوص جگہ پر کوہ صیہون پر تھا۔ اس کی موجودگی نے یہ مقام یہوداہ کے لوگوں کے لئے ایک محفوظ مسکن بنادیا تھا۔ اور یہ لوگ خود بھی مقدس ہونے کی وجہ سے اپنے لئے مخصوص کردہ معین جگہ پر تھے۔ شہر کی دیواروں کے باہر تباہی پھیلانے والے دشمن تھے جو ان کی دنیا (شہر) کو انتشار و ابتلا کا شکار بناسکتے تھے۔ لیکن اس حصار کے اندر وہ اپنی دنیا خود تخلیق کر سکتے تھے۔ صیہون کا معبد وابستگی اور مسرت کا جواہر ساس پیدا کرتا تھا اس سے زائرین کو روحانی اور جسمانی طور پر اپنے ٹھیک مقام پر ہونے کا اطمینان اور تسلیم ملتی۔ معبد پر حاضری ایک خوشگوار فریضہ تھا۔ زائرین خداوند کی بارگاہ کے مشاق ہوتے تھے۔ (17)

اے لشکروں کے خداوند
تیرے مسکن کیا ہی دلکش ہیں
میری جان خداوند کی بارگاہوں کی مشتاق ہے
بلکہ گداز ہو چلی ہے

زارین کو معبد پر آ کر داخلی سکون ملتا اور وہ خود کو تو انہا محسوس کرتے تھے۔ وہ خود کو دنیا کے لامتناہی بکھیڑوں اور بے معنویت سے آزاد سمجھتے۔ ان کی دیومالا بیابان نور دی کی طوبیل ابتلا کا ذکر کرتی تھیں۔ ایسی ابتلا جس میں کوئی انسان زندہ بچ رہنے کی امید نہیں رکھتا۔ لیکن اب معبد میں تغیر کھنے والی دنیا کے ساکن اور پر سکون مقام پر زائر خود کو بھر پور طریقے سے زندہ محسوس کرتا۔ پوری شدت کے ساتھ اپنی موجودگی کو محسوس

کرتا۔ معبد کے صحنوں میں گذارا ہوا ایک دن اس کے لئے کسی دوسرے مقام پر گزارے ہوئے ہزاروں دنوں سے زیادہ قیمتی تھا۔

لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہوداہ، ہی اکیلا خدا تھا جس کی عبادت یروشلم میں کی جاتی تھی۔ اگرچہ علمائے بابل یہوداہ اور اسرائیل کے بادشاہوں کو صرف اس معیار سے دیکھتے ہیں ”--- اچھے بادشاہ وہ ہیں جو اکلوتے یہوداہ کی عبادت کو فروع دیتے ہیں اور دشمن دیوتاؤں کی خانقاہوں، مذہبی مقامات اور ایستادہ پتھروں کو ختم کرتے ہیں ---۔ برے بادشاہ وہ ہیں جو غیر ملکی مذہبوں اور رسموں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، لیکن ہمیں زیادہ تفصیلات نہیں ملتیں۔ اس دور میں بادشاہوں کی دوسری سرگرمیوں کے بارے میں کچھ سننے اور پڑھنے کو نہیں ملتا۔ لیکن جب یہ تایا جاتا ہے کہ کون کون سے بادشاہ یہوداہ کے ساتھ مخلص تھے تو یہ حقیقت چھپی نہیں رہتی کہ ان حکمرانوں کے دور میں بھی یروشلم میں غیر ملکی مذہبی رسوم پھولتی پھولتی رہیں۔ خاندان داؤد کے بادشاہ یہوسفط (848-870 قم) کی یہوداہ سے وفاداری کی بہت تعریف کی جاتی ہے لیکن اس کے دور میں بھی دوسرے خداوں کے مذہبی مقامات آباد تھے۔ علاوہ ازیں یہوسفط نے اپنے بیٹے یہورام کی شادی اسرائیل کے شاہ اہب اور ملکہ یزبیل کی بیٹی عتلیاہ سے کرنے میں کوئی جھجک محسوس نہ کی حالانکہ وہ بعل کی راخ العقیدہ عبادت گزار تھی۔ وہ اپنے ساتھ فونقی مذہب بھی یروشلم میں لائی اور وہاں اس نے معبد بھی تعمیر کروایا۔ اس معبد کا کا صن صیدا کا ماتن تھا۔

یہورام اور عتلیاہ کی شادی کے نتیجہ میں غالباً ایک ایسا معاہدہ طے ہوا تھا جس کے مطابق یہوداہ کی ریاست، اسرائیل کی ماتحت ریاست بن گئی تھی۔ بابل کا کہنا ہے کہ ”--- اور پھر یہوسفط اور یہورام دونوں اسرائیل کی طرف سے دمشق کے خلاف لڑتے رہے۔“ نویں اور آٹھویں صدی قبل مسح میں مشرق قریب ایک نئی کوشحالی سے ہم کنار ہوا۔ یودہ (عیسو) کی پیشین گوئیاں پوری ہو گئیں۔ کیونکہ یہوسفط کو مواب، عمدون اور شعیر کے خلاف قابل ذکر کامیابیاں حاصل ہوئیں۔ لیکن ایک نیا خطرہ سراٹھا رہا تھا۔ آشور جسے اب عراق کہا جاتا ہے، اس کے حکمران ایک نئی سلطنت تشكیل دے رہے تھے جس کی طاقت اور قوت کی مثال ماضی میں موجود نہیں تھی۔ آشوریوں کا دارالحکومت نیوا تھا۔ ان کی سب سے بڑی خواہش مغرب کی طرف بحر روم کے ساحلوں تک پہنچنا تھا۔ آشوریوں کی پیش قدمی روکنے کے لئے دمشق اور اسرائیل نے ایک دوسرے سے اجھنا چھوڑ دیا اور انا طولیہ اور دوسری چھوٹی ریاستوں کے ساتھ مل کر ایک اتحاد بنالیا۔ لیکن اس اتحاد کو 863 قم میں شکست ہوئی اور دمشق اور اسرائیل کو آشوریوں کی غلامی پر مجبور ہونا پڑا۔ یہوداہ کی ریاست چونکہ غیر اہم تھی اس لئے آشوریوں نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ چنانچہ اس کی آزادی برقرار

آزادی کے باوجود یو شلم میں امن و سکون نہیں تھا۔ جب ملکہ عتلیاہ 841 قم میں اپنے بیٹے کی موت کے بعد قائم مقام فرمان روائی تو اس نے (حضرت) داؤد کے خاندان کو ختم کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ اس کا خیال تھا کہ اس طرح وہ تخت کی جائزدارث بن جائے گی۔ چھ سال کے بعد معبد کے کاہنوں اور شہر کی اشرافیہ نے حکومت کا تختہ الٹ دیا اور عتلیاہ کے سات سالہ پوتے یو آس کو بادشاہ بنالیا گیا جسے شیر خواری میں کاہن کی بیٹی نے عتلیاہ کی دست بردا سے بچالیا تھا۔ یو آس کی تاچپوتی کے دن عتلیاہ کو قتل کر کے بعل کے معبد میں پھینک دیا گیا۔ یو شلم کو بیرونی دشمنوں کا خطرہ بڑھا تو یو آس نے دمشق کے بادشاہ کے ساتھ ایک معاهدہ کیا اور ایک خطیر رقم کے عوض اسے یو شلم پر حملہ کرنے سے روک دیا۔ یو آس کے بیٹے امصیاہ کے دور حکومت (781-796 قم) میں اسرائیل کی فوج نے یو شلم کے معبد اور شاہی محل پر قبضہ کر لیا۔ فوج نے واپس سامریہ جانے سے پہلے شہر کی دیوار کا ایک حصہ بھی منہدم کر دیا۔ لیکن اس واقعہ کے باوجود لوگوں کی صیہون سے عقیدت میں کمی نہ آئی۔ امصیاہ کے بیٹے عزیاہ (740-781 قم) کے دور میں یو شلم روز بروز طاقتور ہوتا چلا گیا حالانکہ بادشاہ جذام کے مرض میں بتلا تھا۔ (19) اسرائیلی حملہ میں منہدم ہونے والی دیوار کو پھر سے تعمیر کر دیا گیا۔ میلو کے مقام پر موجود پرانے قلعے کی جگہ شہر اور معبد کے درمیان اوپل میں ایک نیا قلعہ بنوا�ا گیا۔ اب یو شلم ایک صنعتی شہر بن گیا اور اس کی آبادی میں اضافہ ہو گیا۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان دنوں شہر کی آبادی دیواروں کے باہر بھی پھیل گئی تھی۔ اسی زمانے میں آشوریوں کی طاقت عارضی طور پر ضعف کا شکار ہو گئی۔ مقامی ریاستوں نے انھیں اپنے علاقوں سے باہر ڈھیل دیا۔ اسرائیل کی ریاست بھی آزاد ہو گئی اور خوشحالی کے سفر پر گامزن ہو گئی۔

لیکن اس خوشحالی نے سماجی مسائل پیدا کر دیئے امیر اور غریب کے درمیان وسیع خلیج دانشمند لوگوں کے لئے ناقابل قبول تھی۔ چنانچہ اسرائیل اور یہوداہ دونوں ریاستوں میں انبیاء اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے ظلم و نا انصافی کی مذمت کرنا شروع کر دی۔ تخت نشینی کے وقت مشرق قریب کے بادشاہ عہد کیا کرتے تھے کہ وہ غریبوں اور کمزوروں کو تحفظ دیں گے۔ لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان ریاستوں کے حکمران اپنایہ نصب اعین بھول گئے تھے۔ مرے میں خدا کا انسانی روپ میں (حضرت) ابراہیم کے پاس آنا اور حضرت ابراہیم کا اس کی مہمان نوازی کرنا، یہواہ کے مذہب میں تمام انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی ہدایت تھی۔ یہ بات واضح کر دی گئی تھی کہ روح القدس کسی بھی انسان، معبد اور مقدس مقام میں ظاہر ہو سکتی ہے۔ لیکن اسرائیل اور یہوداہ کی ریاستوں میں انسانوں کے لئے جذبہ ترمم مفقود ہو چکا تھا۔

اس دور میں نئے مذاہب تمام مہذب دنیا میں نمودار رہے تھے۔ مورخین اس کو ”محوری دور“ کہتے ہیں۔ تمام نئے مذاہب کا اصرار تھا کہ سچے ایمان کی خصوصیت انسانی ہمدردی کا عملی اظہار ہے۔ چنانچہ یہواہ کا مذہب بھی دنیا کے نئے حالات سے مطابقت پیدا کرنے کے لئے تبدیلیوں کے مرحلے میں داخل ہو گیا۔

محوری دور کا کوئی بھی نبی یروشلم کے معبد کے ساتھ اتنا مخلص نہیں تھا جتنا یسیعاہ نبی۔ اسے 740 ق م میں نبوت ملی۔ یہ سال بادشاہ عزیز یہ کی موت کا تھا، یسیعاہ شاہی خاندان کا ایک رکن تھا اور یقیناً کا صحن بھی ہو گا کیونکہ وہ اس وقت ہیکل میں کھڑا عود ولو بان کے دھوئیں کے بالوں کو دیکھنے اور مذہبی نعروں کا شور سننے میں مختص تھا کہ اچانک اس نے محسوس کیا کہ دیور کے پردے کے پیچھے ہیبت ناک حقیقت ظاہر ہو چکی ہے۔ اس نے دیکھا کہ یہواہ خانہ اقدس میں رکھے تخت پر بیٹھا ہے، اس کے گرد فرشتے حلقہ بنائے کھڑے ہیں اور خانہ اقدس سے پھوٹنے والا نور تمام دنیا پر چھار ہاہے، فرشتے گار ہے تھے۔۔۔ ”مقدس، مقدس، مقدس ہے یہواہ، رب الافواج۔۔۔ ساری زمین اس کے جلال سے معمور ہے۔“

یسیعاہ کی اس روایا میں معبد فیصلہ کرنے انداز میں اہم ہو گیا۔ صیہون کا مقدس پہاڑ زمین کا مرکز تھا کیونکہ اسی جگہ پر مقدس حقیقت بنی نوع انسان کی ارضی دنیا میں اتری تھی تا کہ انہیں نجات دلائے۔ صیہون کا مذہب یہواہ کی عالمی بادشاہت کا اعلان کر چکا تھا اور اب یسیعاہ کی روایا اس دن کی پیشان گوئی کر رہی تھی جب تمام تو میں یہواہ کے معبد کے پہاڑ کی طرف چل پڑیں گی اور ایک دوسرے کو یروشلم میں رویت خدا کے لئے جانے کی ترغیب دیں گی۔ تب سب لوگ کہیں گے۔۔۔ ”آؤ یعقوب کے خدا کے معبد کو چلیں۔۔۔“ (21) اور یہ باغ عدن کو عالمی مراجعت ہو گی۔ ”وہاں ساری مخلوق پیار اور محبت سے رہے گی۔ بھیریا بھیر کے ساتھ رہے گا۔ چیتا بکری کے ساتھ رہے گا اور شیر کا بچہ بچھڑے کے ساتھ رہے گا۔“ (22) (یسیعاہ۔ 9:11) یروشلم کا پہاڑ ایک نئے عالمی نظام کی تخلیق دیکھے گا۔ اس گم گشته کیلت (جنت) کی بازیافت دیکھے گا جس کے لئے انسانیت بے چین ہے۔

نئے یروشلم کے لئے یسیعاہ کی روایا کو کبھی نہیں بھلا کیا گیا۔ یسیعاہ کی پیشین گوئی تھی کہ امن کے دور کا آغاز کرنے والے ایک برکت یافتہ بادشاہ، ایک مسیحا کی آمد ہو گی۔ چنانچہ لوگ آج بھی امید کرتے ہیں کہ وہ مسیحا ضرور آئے گا جو امن کے دور کا آغاز کرے گا اور پھر حضرت ابراہیم کے تینوں مذاہب کے توحید پرستوں میں نئی روح پھونک دے گا۔ پھر یہودی، عیسائی اور مسلمان یروشلم کی طرف ایک ایسے مقام کی حیثیت سے دیکھیں گے جہاں خدا انسانی تاریخ میں آخری مرتبہ مداخلت کے لئے ظاہر ہو گا۔ پھر ایک عظیم فیصلہ ہو گا۔ ایک آخری جنگ ہو گی اور پھر نادم اور پشیمان منکروں کا بہت بڑا جلوس یروشلم کی راہ لے گا تا کہ خدا

کی مرضی کے آگے سر جھکا دے۔ یہ امید اور یہ خواب یروشنم کی سیاست کو آج بھی متاثر کر رہا ہے۔ لیکن یروشنم کے عالمی مرکز بن جانے کی یسیعah کی پیشیں گوئی کا آغاز ایک ایسی غیبی آواز کے ساتھ ہوتا ہے جو پورے صیہونی مذہب کی مذمت اور نفی کرتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔

تمہارے ذیجوں کی کثرت سے مجھے کیا کام؟
 یہواہ کہتا ہے۔۔۔ میں مینڈھوں کی سختی قربانیوں
 اور پچھڑوں کی چربی سے بیزار ہوں
 تمہیں کون کہتا ہے کہ میری بارگا ہوں کوروندو؟ (23)

محوری دور میں اب اس حقیقت کو تسلیم کر لیا گیا تھا کہ محض مذہبی رسم کی تکمیل اس وقت تک بے معنی ہے جب تک ان کے ساتھ ایک جذبہ ترحم نہ ہو۔ انصاف قائم کیا جائے، جو مظلوموں کی مدد کرے اور یتیموں اور بیواؤں کا سہارا بنے۔ (24) محققین کا خیال ہے کہ یہ باقی یسیعah بنی کی نہیں تھیں بلکہ مولفین نے اس کی پیشیں گوئی کے ساتھ خود اضافہ کر دیا۔ لیکن اس طرح کی باقی دوسرے انبیاء سے بھی منسوب ہیں جو سماجی انصاف کے علمبردار تھے۔ اسرائیل کی ریاست میں ایک نبی عاموس نے بھی دلائل دے کر ثابت کیا کہ معبد کے رسومات میں خروج کے مذہب کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ یسیعah کی طرح عاموس کو بھی رویت یہواہ ہوئی لیکن یہ بیت ایل کے معبد میں ہوئی۔ عاموس کو اتنا وقت نہ مل سکا کہ وہ ایک مکمل مذہب کی تشکیل کر لیتا۔ اس نے خدا کو یہ کہتے ہوئے دکھایا ہے۔

”کیا بیانی کے چالیس برسوں میں تم مجھے قربانیاں
 اور نذرانے پیش کرتے رہے ہو؟

تم تو ملکوم کا خیمه اور کیوان کے بت اٹھائے پھرتے
 رہے ہو جو تم نے اپنے لئے بنائے تھے
 یہواہ کو تمہارے نعروں اور بربطوں کے شور
 کی ضرورت نہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ
 انصاف پانی کی طرح ہے اور دیانت داری

کبھی نہ ختم ہونے والے چشمہ کی طرح جاری رہے۔“ (25)

(عاموس-5:27)

عاموس نے کہا کہ ”خدا یو شلم میں اپنے معبد سے بلند آواز میں گرج رہا ہے کیونکہ اردو گرد کے تمام ملکوں میں نا انصافی ہو رہی ہے اور اس ظلم و ستم نے اس کے مذہب کو مذاق بنادیا ہے۔ (26) جب محوری دور میں یہواہ کا مذہب تبدل ہوا تو انصاف اور رحم بنیادی فرائض بن گئے۔ ان کے بغیر مقدس مقامات سے والبنتگی کو بے معنی قرار دے دیا گیا۔ یو شلم کے مذہب میں بھی یہ فرائض شامل ہو گئے۔ اعلان کیا گیا کہ یہواہ تمام کمزوروں اور غریبوں کے لئے فکرمند ہے۔ صیہوں کو غریبوں کے لئے ایک پناہ گاہ ہونا تھا اور جیسا کہ ہم آگے چل کر دیکھیں گے کہ یہودی اپنے آپ کو یو شلم کے حقیقی بیٹھے قرار دیتے ہوئے خود کو ”غريب“ کہتے ہیں۔ لیکن یو شلم میں ”غربت“ سے مراد محض مادی محرومی نہیں تھی۔ غریب کا متضاد امیر نہیں بلکہ ”متکبر“ تھا۔ یو شلم میں لوگوں کو انسانی طاقت، بیرونی اعانت یا عسکری صلاحیت پر نہیں بلکہ صرف اور صرف یہواہ پر انحصار کرنا تھا۔ وہی صیہوں کا اکلوتا قلعہ اور حصار تھا۔ انسانی سیاہ اور قلعہ بندیوں پر متکبرانہ انحصار کو کفر قرار دے دیا گیا۔ (27)

لیکن آج کی طرح تب بھی ایسے لوگ پائے جاتے تھے جو رحم اور در دمندی کے مشکل فریضہ کی ادائیگی کے بر عکس اپنی مذہبی توانائیاں مقدس مقامات سے والبنتگی پر صرف کرنے کو ترجیح دیتے تھے۔ یسیعاہ کی طویل نبوت میں ایسے اشارے سامنے آگئے تھے کہ یو شلم کے نظریہ میں کچھ خطرات سراٹھا سکتے ہیں۔ یہوداہ کے بادشاہ آخز (---716 قم) کے عہد میں آشور کی سلطنت نے مشرق قریب میں پھر طاقت پکڑ لی۔ آشوریوں کے غلبے سے بچنے کے لئے دمشق کے حکمرانوں نے اسرائیلی ریاست کے ساتھ ایک نئے اتحاد کی داع غبلی ڈالی۔ یہوداہ کی ریاست کو بھی اس اتحاد میں شامل کرنے کی کوشش کی گئی لیکن اس کے بادشاہ آخز نے انکار کر دیا۔ دمشق اور اسرائیل کی مشترک فوج نے یو شلم کا محاصرہ کرنے کے لئے جنوب کا رخ کر لیا۔ یسیعاہ نبی نے آخز کو ڈٹے رہنے کا مشورہ دیا۔ اس نے پیش کیا کہ۔۔۔ ”اس کی ملکہ جس بچے کو جنم دینے والی ہے وہ ”داود کی بادشاہت“ کو بحال کرے گا۔ اسے عم انوایل (خدا ہمارے ساتھ ہے) کہا جائے گا کیونکہ وہ امن کے دور کا نقیب ہو گا۔ اس دور میں عورتیں اور مرد ایک بار پھر خدا کے ساتھ صلح و آتشی کے ساتھ رہیں گے۔ اس سے پہلے کہ یہ بچہ جوان ہو، دمشق اور اسرائیل کی ریاستیں تباہ ہو جائیں گی۔ بد حواس ہونے یا دوسرے بادشاہوں کے ساتھ اتحاد کر نیکی ضرورت نہیں ہے۔ آخز کو صرف یہواہ پر انحصار کرنا چاہئے۔ (28)

یسیعہ کی تاکید اور پھر برہمی کے باوجود آخز ڈٹے رہنے کا مشورہ ماننے پر تیار نہ ہوا۔ وہ کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے تحفظ کے لئے آشور کے بادشاہ تغلق پلنا سر کے سامنے سر جھکا دیا اور آشور کی بالادستی قبول کر لی۔ آشوریوں نے فوراً اسرائیل اور دمشق پر حملہ کر دیا اور ان دونوں پر قبضہ کر کے وہاں کے باشندوں کی اکثریت کو باہر ڈھکیل دیا۔ 733 قم میں اسرائیلی ریاست سکڑ کر سامریہ کی شہری حدود تک رہ گئی۔ اس پر ایک کٹھ پتلی حکمران کی حکومت قائم کر دی گئی۔ آشوریوں کی پالیسی میں غلام قوموں پر اپناند ہب مسلط کرنا شامل نہیں تھا۔ لیکن آخز چاہتا تھا کہ اپنے نئے آقاوں کو خوش کرنے کے لئے ان کی کچھ مذہبی رسم اپنے لے۔ چنانچہ معبد سلیمانی کے گھن میں پرانی

(نقشہ) MAP

اپنی قدیم قلعہ شکن مشین (منجھن) کے ساتھ ایک شہر کا حصارہ کئے ہوئے آشوری سپاہی اپنے قیدیوں کے لئے پوری سفا کی اور بے رحمی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ (745 قم کے ایک پھر پہ کندہ تصویر اور تحریر)

قربان گاہ کی جگہ ایک آشوری قربان گاہ بنادی گئی۔ پھر ریاست یہوداہ میں آشوریوں کے دیوتاؤں سورج، چاند اور ستاروں کی پرستش پر منی مذہبی رسم کے لئے ایک نیا جوش و خروش پیدا ہو گیا۔ ان دونوں مشرق قریب میں آشوریوں کا مذہب فروغ پاتا ہوا نظر آتا ہے۔

یسیعہ آخز کو بہت کم وقت دیتا تھا۔ لیکن آخز اپنا ملک بچانے میں کامیاب رہا۔ اس بچے کے بارے میں بھی کچھ سامنے نہ آیا جسے یسیعہ نے عمانوائل کی حیثیت سے قبل تعریف قرار دیا تھا۔ 716 قم میں آخز کے بعد اس کا بیٹا حزقياہ یہوداہ کا بادشاہ بنا۔ بابل بتاتی ہے کہ اس نے اپنے آپ کو صرف یہوا کے لئے وقف کر دیا۔ اس نے وہ تمام عبادت گاہیں بند کر دیں جو دوسرے معبدوں سے منسوب تھیں۔ تمام مذہبی نشانات، اونچے مقامات اور مندی کے مسماں کردیئے۔ معبد سلیمانی کے ہیکل میں رکھا ہوا پیتل کا سانپ نما اعضا بھی توڑ دیا۔ بابل بتاتی ہے کہ کاہنوں نے اس کی اصلاحی تحریک میں قائدانہ کردار ادا کیا اور معبد میں موجود غیر ملکی مذہبی رسم کا ساز و سامان اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ حزقياہ نے یہوداہ اور اسرائیل کے لوگوں کو حکم

دیا کہ یروشلم کے معبد سلیمانی میں اکٹھے ہوں اور عید فتح کی ضیافت میں شامل ہوں۔ حزقياہ کے باپ کے دور تک عید فتح کی ضیافت کا اہتمام لوگ گھروں میں کرتے تھے۔ (29) بائبل کے مولفین بتاتے ہیں کہ چھٹی صدی قبل مسیح تک اس ضیافت کا اہتمام معبد میں نہیں کیا جاتا تھا۔ حزقياہ نے اسے بحال کیا لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ اس بحالی کے پس منظر میں کیا تھا اور وہ اس اصلاح سے کیا حاصل کرنا چاہتا تھا۔ غالباً حزقياہ اپنے اس اقدام سے خود کو اپنے باپ کی مخلوط مذہب کی پالیسیوں سے محرف اور بیزار ثابت کرنا چاہتا تھا۔ اس طرح وہ آشوریوں کی بالادستی سے نکلنے کی ابتدا کر رہا تھا۔ اسرائیل کے لوگوں کو یروشلم بلانے کا ذکر ابھی ہو چکا ہے۔ یہ اقدام نشاندہی کرتا ہے کہ حزقياہ متحده مملکت کے احیاء نو کا خواہش مند تھا۔ اسرائیل اب خطرہ نہیں رہا تھا اور یہوداہ میں اپنے سابقہ دشمن کی مصیبتوں پر اطمینان محسوس کیا جا رہا تھا۔ عیحدگی کے بعد پہلی دفعہ یہوداہ کی ریاست ایک طاقتو رحیثیت میں ابھری تھی، اور بقیہ اسرائیلیوں کو شہر داؤد میں بلانے کے پس منظر میں حزقياہ کی یہ خواہش مچل رہی تھی کہ یسوعاہ کی روایا کو عملی تعبیر دی جائے۔

MAP (نقش)

اگر اس طرح کی امید پائی جاتی تھی تو یہ 722 قم میں کچلی گئی۔ اس برس اسرائیل نے جو سامریہ کی شکل میں اب چھوٹی سی ریاست تھا، آشوریوں کے خلاف ایک کام بغاوت کی۔ سامریہ کونہ صرف شکست ہوئی بلکہ اسے آشوری بادشاہ شا نیسر نے پوری طرح بر باد کر دیا۔ اب اسرائیل کی ریاست، آشوریہ کا ایک صوبہ بنادی گئی جسے سامریہ کہا گیا۔ 27 ہزار سے زائد اسرائیلیوں کو آشوریہ میں منتقل کر دیا گیا اور پھر ان کے بارے میں کسی کو کوئی خبر نہ ہوئی۔ ان کی جگہ بابل، کتھناج، ارادا اور سیپوریم کے لوگوں کو آباد کیا گیا۔ یہاں ان لوگوں نے اپنے پرانے معبودوں کے ساتھ ساتھ نئے معبود یہوداہ کی عبادت بھی شروع کر دی۔ اب اسرائیل کے نام سے کوئی جغرافیائی علاقہ باقی نہ رہا بلکہ یہوداہ میں مذہبی اصطلاح کے طور پر زندہ تھا۔ لیکن سارے اسرائیلیوں کو چونکہ علاقہ بدر نہیں کیا گیا تھا اس لئے باقی نج رہنے والوں نے اپنے تباہ شدہ ملک کو نئے آباد کاروں کی مدد سے پھر تعمیر کرنے کی کوششیں شروع کر دیں۔ کچھ اسرائیلی یہوداہ میں آگئے اور یروشلم کے اندر اور ارگرد آباد ہو گئے۔ یہ لوگ اپنے ساتھ وہ عقاائد اور مذہبی رسموں لے کر آئے تھے جو بھی اسرائیل میں رائج تھیں۔ ان عقاائد نے یروشلم کے مذہب پر گھرے اثرات مرتب کئے۔

سابق اسرائیل سے آنے والے افرادی بہاؤ نے یروشلم کی آبادی اور رقبہ میں آٹھویں صدی قبل مسح سے تین چار گنا اضافہ کر دیا۔ دونی مضافاتی بستیاں آباد ہوئیں ان میں سے ایک معبد کے سامنے مغربی پہاڑی پر تھی جسے مشنہ محلہ کہا گیا۔ یہ دراصل دوسرا شہر تھا۔ دوسری آبادی وادی الودع میں قائم ہوئی اسے مکتیش Makhtesh یعنی نشیب کہا گیا۔ نئے آشوری بادشاہ سارگون دوم نے زیادہ آزادانہ پالیسیاں اپنائیں۔ اور اپنے مقبوضہ اور غلام علاقوں کے لئے نرم رویہ اختیار کیا۔ اس کے نتیجہ میں یروشلم کو خصوصی مراعات اور اقتصادی ثمرات میسر آئے۔ لیکن شمالی ریاست (اسرائیل) کے انجام سے کوئی سبق سیکھنے کی بجائے حزقياہ نے اپنی خوشحالی کو گھمنڈ کا سبب بننے دیا۔ جب سارگون 705 قم میں مراتو یروشلم مضطرب مقبوضہ علاقوں کا مرکز تھا۔ یہ علاقے اپنی گردنوں سے آشوریہ کی غلامی کا طوق اتارنا چاہتے تھے۔ مقبوضہ ریاستوں نے اتحاد قائم کر لیا اور اس اتحاد کو الصور، اور اسقلون کے بادشاہوں کے علاوہ فرعون مصر نے بھی مدد کا وعدہ کیا ادھر ایک اور باغی اتحاد نے میسوپوٹیمیا میں جنم لیا۔ اس کی قیادت بابل کا بادشاہ مرد کی بلشنا کر رہا تھا۔ اس نے اپنا اپنی یروشلم بھیجا تا کہ یہاں گوداموں اور قلعہ بندیوں کا جائزہ لے۔ حزقياہ نے جنگ کے لئے زبردست تیاریاں کیں۔ اس نے آب رسانی کا نظام بہتر بنانے کے لئے نئی سرگ بنوائی جو سترہ سو فٹ لمبی تھی اور چشمہ جیہوں سے سیلووم کے تالاب تک پانی پہنچاتی تھی۔ ایک نئی دیوار بنوائی جو اس تالاب اور غالباً محلہ مشنہ کو محفوظ کرتی تھی۔ حزقياہ کو اپنی عسکری سلاحیت کا بہت گھمنڈ تھا لیکن یہ یروشلم کے ”غربیوں“ کی روحانی طاقت سے محروم تھی۔

حزقياہ کو جلد ہی اپنی حماقت کا احساس ہو گیا۔ یروشلم کے لئے ممکن نہیں تھا کہ وہ آشوریہ کی طاقت کے سامنے زیادہ عرصہ تک ٹھہر سکے۔ جب آشوریہ کے بادشاہ سنیرب نے بابل اور میسوپوٹیمیا کے دوسرے علاقوں کی بغاوت کر فرو کر لیا تو وہ مغرب میں یروشلم کی طرف بڑھا۔ مصر نے مدد کے لئے ایک بھی سپاہی نہ بھیجا۔ اردن کا مشرقی علاقہ اور فوئنیق یہ، آشوری فوجیوں کی جھوٹی میں پکے ہوئے پھل کی طرح آگرا اور بالآخر سنیرب کی فوجیں یروشلم کے باہر خیمه زن ہو گئیں۔ حزقياہ نے تباہی سے بچنے کے لئے تھفے اور خراج بھیجا لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ یسیعاہ کے شاگردمیکاہ نے پیشیں گوئی کی کہ یروشلم بہت جلد ملے کے ڈھیر میں اور صیہوں ایک ہل چلے گئی تھیت میں تبدیل ہو جائے گا۔ (30) لیکن یسیعاہ کا اب بھی اصرار تھا کہ:

”سب کچھ ختم نہیں ہوا۔ یہواہ جو صیہوں کا قلعہ ہے، اپنے شہر کی حفاظت کرے گا۔ سفارت کاری اور فوجی تیاریاں بے کار ثابت ہوئی

ہیں لیکن یہواہ کی موجودگی دشمن کو پسپا کر دے گی۔“ (31)

اور پھر تمام تر مشکلات کے باوجود، یسعیاہ کی پیشین گوئی ڈرامائی طور پر درست ثابت ہوئی۔

ہمیں یقینی طور پر کچھ معلوم نہیں کیا ہوا۔ بائبل کہتی ہے کہ یہواہ نے فرشتہ بھیجا جس نے آشوری فوج کو تباہ کر دیا اور بادشاہ سنجر بطن واپس جانے پر مجبور ہو گیا۔ (32) اس کی معقول وجہ غالباً یہ تھی کہ آشوری فوج میں طاعون پھیل گیا تھا۔ لیکن یو شلم کے لوگ بہر طور سے یہواہ کی کارروائی ہی قرار دیتے تھے۔ قدرتی بات ہے کہ وہ اس مردج کاظمہ ایک مجرمہ سمجھتے تھے۔ یوں یہواہ حقیقت میں ایک طاقتو ر جنگجو ثابت ہوا جس نے اپنے لوگوں کو ابتلا سے نجات دی تھی۔

اس غیر معمولی واقعہ نے یو شلم کی سیاست پر مہلک اثرات مرتب کئے۔ ماضی میں رجھام اور آسانے شہر کو داشمندانہ سفارت کاری کے ذریعے بچایا تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ صیہون پر یہواہ کا مذہب انہیں مجزوں پر اختصار کرنے کی بجائے لازم قرار دیتا ہے کہ یہواہ کی جدوجہد میں شامل ہوں اور اپنے دشمنوں کا مقابلہ ہر اس تھیار سے کریں جو انہیں دستیاب ہو۔ لیکن بعد کے نسلوں نے سوچ لیا تھا کہ شہرنا قابل تنفس ہے اور انہیں مجزانہ مداخلت سے یہواہ بچاتا رہے گا۔ یہ سوچ روحانیت کی بجائے جادو گردی کی قائل نسلوں کا ذہنی رویہ تھا۔ سنجر ب کی پسپائی کے بعد حزقياہ ایک ہیر و بن گیا۔ لیکن اس کی غیر داشمندانہ پالیسی ملک کو تباہی کے دھانے پر لے آئی۔ آشوریوں کی تاریخ میں سنجر ب کا دعوی ہے کہ اس نے حزقياہ کے 46 فصیل بند شہروں اور لا تعداد دیہات کو لوٹا۔ آبادی کی ایک کثیر تعداد کو علاقہ بدر کیا اور حزقياہ کا تقرر پیاسارا علاقہ چھین لیا۔ یو شلم ایک بار پھر ایک چھوٹی سی شہری ریاست تھا۔ حزقياہ کے بیٹے منسی کو ایک مشکل صورت حال میراث میں ملی وہ 698 قبل مسیح میں بر سرا قدر آیا اور یو شلم میں 55 سال حکمران رہا۔ بائبل کے مطابق منسی یو شلم کا سب سے برا حکمران تھا۔ اپنے آپ کو مختلف ثابت کرنے کے لئے اس نے باپ کی تمام مذہبی پالیسیوں کو ترک کر دیا۔ اس کے پیش نظر یہوداہ ریاست کی سالمیت اور بالخصوص خطرات کا خاتمه تھا۔ اس نے بعل کے لئے قربان گاہیں تعمیر کیں اور مسافات میں آسمانی دیوی دیوتاؤں کی عبادت گاہیں بحال کر دیں۔ اس نے وادی حنوم میں انسانی قربانی کا احیاء کیا۔ معبد میں آشور دیوتا کا بت نصب کیا۔ غالباً یہ خانہ اقدس (دیور) میں نصب کیا گیا تھا۔ معبد کے صحن میں منسی نے ”مقدس رنڈیوں“ کے لئے گھر بنوائے۔ صیہون اب آشور کی مذہبی رسوم کے لئے وقف ہو گیا تھا۔ جہاں دوسرے آسمانی دیوی دیوتاؤں کے لئے بھی قربان گاہیں تھیں۔ (33) یہواہ کے کٹ معتقد ان اقدامات سے فطری طور پر نالاں تھے لیکن عام

لوگوں کی اکثریت کے لئے یہ اقدامات شائد قابل قبول تھے۔ حوزی نبی کی تاریخ بتاتی ہے کہ بعل کی مذہبی رسومات 722 قم سے پہلے شاہی ریاست میں وسیع طور پر رائج تھیں 270 برسوں سے زائد عرصہ تک یہواہ یروشلم میں ”علیون“، رہا تھا۔ انبیاء اس ”معزولی“ پر شدید عذاب کی وعید دیتے اور اسے مذہب سے انحراف اور 701 قم کی نجات کی ناشکر گزاری قرار دیتے تھے۔ اس کے باوجود منسی شاید یہ سمجھتا تھا کہ آشوریوں کو مطمئن کرنا اور اپنے باپ کی یہواہ پرستی سے گریز کرنا ضروری ہے۔ اس کے طویل اقتدار نے

MAP (نقشہ)

یہواہ کو اپنی طاقت بحال کرنے کا وقت مہیا کیا اور منسی اپنے باپ حمزیہ کے دور میں چھن جانے والے علاقوں میں سے کچھ واپس لینے میں کامیاب ہو گیا۔

منسی کے نقاد اس کے دور میں یہواہ ازم کی ایک نئی قسم تشکیل دے رہے تھے وہ صیہون کے مذہب کو اچھی نظروں نہیں دیکھتے تھے۔ یہ توریت کی پانچویں کتاب کے مؤلف تھے اور 722 قم میں اسرائیل کی ریاست کی تباہی کے بعد وہاں سے یروشلم میں آئے۔ انہوں نے اسرائیل میں آشوریوں کے ہاتھوں معبدوں کی بر بادی دیکھی تھی۔ اور اس نتیجہ پر پہنچے تھے کہ انسانوں کے بنائے ہوئے معبدوں کو زمین اور آسمان کے درمیان رابط نہیں سمجھا جا سکتا اور نہ یہ لوگوں کو دشمنوں سے بچا سکتے ہیں۔ آسمان اور زمین کے درمیان خلیج پیدا ہو رہی تھی۔ ان موافقین کے لئے یہ بات عقل و فہم سے بعيد تھی کہ خدا انسانوں کی بنائی ہوئی کسی عمارت میں رہ سکتا ہے۔ یہ مولفین جب (حضرت) سلیمان کے یروشلم کے معبد کی تعمیر کا ذکر کرتے ہیں تو ان کی زبان سے ایسے لفظ نکلواتے ہیں جو صیہونی مذہب کی بندیادوں کو متنزل کرتے ہیں: ”کیا واقعی خدا آدمیوں کے ساتھ زمین پر رہے گا؟“ حضرت سلیمان نے اعتقادی کے ساتھ کہتے ہیں۔۔۔

”آخر کیوں تمہارے آسمان تمہیں وہاں نہیں رکھ سکتے؟ یہ گھر کتنا چھوٹا ہے جو میں نے بنایا ہے۔“ (34) خدا آسمان میں رہتا تھا اور دنیا میں تو صرف اس کا نام۔۔۔ اس کی ذات کا ایک سایہ موجود تھا۔ توریت کے مولفین کے خیال میں صیہون کا مذہب پرانی کنعانی دیومالا پر استوار تھا۔ وہ ایک ایسا مذہب چاہتے تھے۔ جس کی بندیاد تاریخ بننے نہ کے ایسی علمتی کہانیاں جن کا حقائق سے کوئی واسطہ نہیں۔ کئی طرح سے وہ آج مغرب میں رہنے والے ہم لوگوں کے قریب ہیں۔ مثلاً وہ بنی اسرائیل کے اس دعویٰ کو تسلیم نہیں کرتے تھے کہ کنعان

کی سرز میں پرانا حق کوہ صیہون پر یہواہ کی تخت نشینی کی وجہ سے ہے۔ اس کے برعکس انہوں نے یشور کی کہانی کوتر جھجھ دی جس میں وہ خدائی اشارے پر کنعان کی سرز میں کو فتح کرتا ہے۔ یہ کہانی ظاہر کرتی ہے کہ یشور نے خدا کی مدد سے اور تلوار کے ذریعے کنعان کا ایک علاقہ تنسخیر کیا۔ سکوتوہ کی ضیافت کے بارے میں ان کا اصرار ہے کہ یہ کٹائی کے موسم کا تہوار تھا۔ چنانچہ وہ اسے کوہ صیہون پر یہواہ کی تخت نشینی کا سالانہ جشن نہیں مانتے۔ (35)

سب سے بڑی بات یہ ہے کہ توریت کے یہ ملفین چاہتے تھے۔ کہ اسرائیلی صرف اور صرف یہواہ کی عبادت کریں اور دوسرے خداوں سے منہ موڑ لیں۔ شہابی ریاست (اسرائیل) کے انہیاء مثلًا حوزی اور الیاہ نے طویل عرصہ تک اسی پیغام کی تبلیغ کی۔ لیکن (حضرت) سلیمان کے زمانہ سے ہی یروشلم میں مخلوط خداوں کا تصور موجود تھا۔ نئے عقیدہ کے لوگ منسی کی پالیسیوں کو آخری تنکا سمجھتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ خروج کے وقت اسرائیلیوں نے صرف یہواہ کی عبادت کا وعدہ کیا تھا۔ وہ یشور کی کتاب کے چوبیسویں باب کا حوالہ دے کر کہتے ہیں کہ اسرائیلیوں نے اس انتخاب کی باقاعدہ توثیق ایک معاهدے (بیثاق بنی اسرائیل) میں کی تھی۔ یشور کی ولیانہ سرپرستی میں انہوں نے تمام دوسرے خداوں کو چھوڑ دیا تھا اور اپنے دل یہواہ سے لگائے تھے۔ (36)

یروشلم کے معبد میں عبادت کے انداز نے بھی یہواہ کے کچھ لوگوں کو ایسا ہی سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ صیہون کی مذہبی رسوم کے حوالے سے دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ان میں یہواہ کو اکلوتا بادشاہ اور دوسرے خداوں سے برتر خدا اقرار دیا جاتا تھا لیکن نقادوں کا کہنا ہے کہ صیہون کی مذہبی رسوم ناقص اور مشکوک تھیں۔ یہ قدیم دنیا میں مذہب کا مرکزی نکتہ ہوتی تھیں اور شائد اس وقت ان کے بغیر زندگی کا تصور بھی ناممکن تھا۔ نقادوں یا توریت کے ملفین کا خیال ہے کہ اسرائیلیوں کو صرف ایک مقدس مقام اپنانا چاہئے تھا۔ اور اس بات کا سختی سے خیال رکھنا چاہئے تھا کہ ان کے مذہب میں غیر ملکی مذاہب کے تصورات سراہیت نہ کر جائیں۔ ابتدا میں شائد اسرائیلیوں کے ذہن میں سیکم یا بیت ایل کو مقدس مقام بنانے کا خیال تھا لیکن 722 کے بعد یروشلم کا معبد ہی یہواہ کا معبد اور سب سے بڑا مقدس مقام بنادیا گیا۔ چنانچہ مصلحین کو اسی سے ناطے جوڑنا پڑا۔ جب وہ (حضرت) موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے ارض موعودہ میں کسی مرکزی معبد کی تلاش کا ذکر کرتے تو صیہون یا یروشلم کا ذکر کرنے سے گریز کرتے۔ اس کی بجائے وہ (حضرت) موسیٰ کی طرف سے مہم انداز میں یہ کھلواتے ہیں۔ ”وہ جگہ جسے یہواہ تمہارے خدا نے اپنانام لئے جانے کے لئے منتخب کیا ہے۔“ (37)

منسی کے دور میں مصلحین کے نصب العین کی عملی تعبیر ممکن نہیں تھی لیکن غیر متوقع طور پر انہیں اس کا موقعہ منسی کے پوتے یوسیاہ کے دور (640-609 قم) میں مل گیا۔ یہ انتہائی مناسب وقت تھا۔ پورے مشرق قریب میں لوگ غیر مبہم طریقے سے اس حقیقت سے آگاہ ہو چکے تھے کہ قدیم نظام ختم ہو رہا ہے۔ نئی دیوبیکل سلطنتوں، آشوریہ اور اس کی ابھرتی ہوئی مقابل بابل، میں رہنے کے تجربے نے لوگوں کو پہلی دفعہ ایک وسیع تر عالمی تناظر مہیا کیا تھا۔ تکنیکی ترقی نے بھی انہیں اپنے ماحول پر قابو پانے میں مدد دی تھی۔ اب لوگ دنیا کو اس نظر سے نہیں دیکھ سکتے تھے جس سے ان کے اباواجد ادیکھا کرتے تھے۔ دنیا کے دوسرے حصوں میں بھی سمجھا جا رہا تھا کہ اب پرانے پاگان ازم (بت پرستی یا تاریک خیالی) میں اصلاح وقت کا تقاضا ہے۔ محوری دور میں تاؤ مت، کنفیو شس مت، بدھ مت، ہندومت اور آخر میں یونانی مذہبی عقایلیت نے پرانے مذاہب کی جگہ لے لی۔ اسی طرح کی اصلاحی تحریک یہوداہ میں بھی تھی۔ لیکن جب قدیم تاریک خیالی نے دم توڑا تو مصر سے میسو پوٹیمیا تک لوگوں میں ایک تصوراتی ماضی کی حسین یادوں کا عارضہ پھیل گیا۔ مصلحین کا ”سنہری دور“، بھی کچھ اسی طرح کا تھا جس میں خروج اور قاصیوں کے ادوار شامل تھے۔ یہ ایک ایسا ماضی تھا جو اگرچہ زیادہ تر افسانوی باتوں پر مشتمل تھا لیکن حال کے انتشار اور پراگنڈگی سے زیادہ پرکشش تھا۔

حسین ماضی کی طرف مراجعت کے ایک حصہ کے طور پر یوسیاہ نے معبد سلیمانی کو بحال کرنے کا فیصلہ کیا جو تین سو سال گزرنے کے بعد اب مرمت طلب تھا۔ جب مرمت کا کام ہو رہا تھا تو کامن اعظم حلقویہ کو ایک ایسا طغیری ملا جو توریت کی پانچویں کتاب کا ایک حصہ تھا۔ جب یہ طغیری یوسیاہ کے سامنے پڑھا گیا تو نوجوان بادشاہ کو یہ جان کر سخت صدمہ پہنچا کہ ”خدا کی حمایت اسرائیل کے لئے غیر مشروط طور پر اور حضرت داؤد کے خاندان کے دائمی انتخاب کی وجہ سے نہیں بلکہ اس امر پر منحصر ہو گی کہ حضرت موسیٰ کی شریعت کی پابندی کی جائے گی۔ (38) کوہ صیہون پر یہواہ کی اپنے معبد میں موجودگی کافی نہیں تھی۔ اس نئی دینیات پر یوسیاہ کا رد عمل ظاہر کرتا ہے کہ ”شریعت موسوی“، یہوداہ کے لوگوں کی مذہبی زندگی کا مرکزی نکتہ نہیں تھی۔ چنانچہ اب شریعت موسوی کو ملک کا قانون بنا دیا گیا۔

یوسیاہ نے اپنی اصلاحات کا آغاز توریت کے قوانین کے مطابق کیا لیکن اس طرح کی تمام اصلاحات کی طرح یہ بھی دراصل ماضی کو پھر سے تخلیق کرنے کی کوشش تھی۔ سب سے پہلے یہوداہ کے تمام بڑوں کو طلب کیا گیا تا کہ معبد میں قدیم میثاق اسرائیل کی تجدید کی جائے۔ لوگوں نے دوسرے خداوں اور دیوتاؤں سے قطع تعلق کرنے اور اپنے آپ کو صرف یہواہ کے لئے وقف کرنے کا عہد کیا۔ اگلے مرحلہ میں

مذہبی رسم کی تطہیر تھی۔ اس موقع پر بائبل یو شلم میں پاگان رسم کی موجودگی کے بارے میں بتاتی ہے۔ بعل، آشور اور آسمانی دیوتاؤں کے بتوں اور نشانات کو شہر سے نکال کروادی قدر وون میں جلایا گیا۔ معبد کو مکروہات سے پاک کیا گیا اور معبد کے صحن میں آشور کے لئے وقف ”مقدس رنڈیوں“ کے گھروں کو منہدم کیا گیا۔

” اور اس نے توفت میں جوبی حنوم کی وادی میں ہے، مجاست پھنکوائی تاکہ کوئی شخص مولک کے لئے اپنے بیٹے یا بیٹی کو آگ میں نہ جلواسکے۔ اور اس نے ان گھوڑوں کو دور کر دیا جن کو یہودا کے بادشاہوں نے سورج کے لئے مخصوص کر کے خداوند کے گھر کے آستانہ پر ناقتن ملک خواجہ سرا کی کوٹھڑی کے برابر کھا تھا جو ہیکل کی حد کے اندر تھی اور سورج کی رخبوں کو آگ سے جلا دیا۔ اور ان مذکوؤں کو جو آخر کے بالا خانے کی چھت پر تھے جن کو شاہان یہوداہ نے بنوایا تھا۔ اور ان مذکوؤں کو جن کو منسی نے خداوند کے گھر کے دونوں صحنوں میں بنایا تھا بادشاہ نے ڈھادیا اور وہاں سے چور چور کر کے ان کی خاک کو قدر وون کے نالے میں پھنکوادیا۔ اور بادشاہ نے ان اوپرے مقاموں (Bamoth) پر مجاست ڈلوائی جو یو شلم کے مقابل کوہ آلاش کے ورنی طرف تھے جن کو اسرائیل کے بادشاہ سلیمان نے صیدانیوں کی نفرتی عستارات اور موآبیوں کے نفرتی کموں اور بنی عمون کے نفرتی ملکوں کے لئے بنایا تھا۔ اور اس نے ستونوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور یسیرتوں کو کاٹ ڈالا اور ان کی جگہ میں مردوں کی ہڈیاں بھردیں۔“ (39)

(۱۵:۲۳-۲۴:۱۰-۱۵)

تطہیری مہم کے اس مرحلہ پر ایک پریشان کن تشدد سامنے آتا ہے یہ اسرائیلیوں کی بہت پرسی سے کراہت کا آغاز تھا۔ بہت پرسی نے انبیاء، فقیہوں اور مذہبی گیت لکھنے والوں کو غیض و غصب سے بھر کھا تھا۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ عام اسرائیلی قدیم مذاہب کی علامتوں میں اتنی کشش محسوس کرتے تھے کہ ان

علامتوں کو پر امن طریقے سے ان سے الگ کرنا آسان نہیں تھا۔ مہاتما بده ہندوستان میں اپنی اصلاحی تحریک کے دوران تاریک خیالی سے وابستہ علمتوں کو آسانی سے ختم کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا لیکن یہاں صورت حال کچھ مختلف تھی۔ دراصل بت پرستی مذہبی جستجو کا ایک حصہ ہوا کرتی ہے کیونکہ خدا انسانوں پر اپنا ظہور براہ راست نہیں کیا کرتا بلکہ اساطیر، عمارتوں، انسانوں، چیزوں، انسانی تصورات اور عقائد میں ملتا ہے۔ خدا کی تمام علمتوں ہمیشہ نا کافی ہوتی ہیں کیونکہ وہ ایسی حقیقت کی نشاندہی کرتی ہیں جو ناقابل بیان اور ماورائے ادراک ہوتی ہے۔ لیکن مذہب کی تاریخ ظاہر کرتی ہے کہ جب کسی قوم کے حالات تبدیل ہو جاتے ہیں تو قدیم مذہبی اسرار و رموز ان کے لئے کار آمد نہیں رہتے۔ وہ خدا کی موجودگی اور اس سے تعلق کو مزید ظاہر کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ اس کے برعکس مذہبی معاملات میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ لیکن یہ بھی ممکن ہوتا ہے کہ لوگ مذہبی علمتوں اور نشانات مثلاً پتھر، درخت یا عقیدے کو خدا کا درجہ دے دیں۔

یوسیاہ کے دور میں واضح طور پر اسی طرح کی مذہبی تبدیلی ایک عبوری مرحلہ میں تھی۔ تین سو سال تک یروشن کے لوگوں نے کنعان کے دوسرے مذہبی نشانات سے روحانی غذا حاصل کی تھی۔ لیکن اب یہ نشانات اور مظاہر انہیں اتنے ناقص نظر آنے لگے تھے کہ برائی اور شیطنت کی علمتوں محسوس ہوتے تھے۔ یوسیاہ اور حلقياہ کو ان مذہبی علمتوں میں روحانیت اور تقدس کی بجائے فاشی اور گندگی نظر آتی۔ اس دور کی دینیات میں ایک تنازع تھا جو بعد میں توحید پرستوں کی روایات میں بھی دکھائی دے گا۔ یہ استرداد پوری قوت کے ساتھ شمالی علاقوں میں ابھرا۔ یہ علاقے ماضی میں اسرائیلی ریاست تھے۔ آشوری اب زوال میں تھے چنانچہ صوبہ سامرینہ پر ان کا تسلط زیادہ عرصہ تک نہ رہا۔ وہاں یوسیاہ کی تحریک غالبًاً الحاق نو کا ایک حصہ تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ ”داود کی سلطنت“ پھر سے متحد ہو جائے۔ لیکن یہاں اس کی اصلاح ظالمانہ اور پرتشدد ہو گئی۔ یوسیاہ نے بعل کی قدیم قربان گاہ منہدم کر دی جسے ”کافر“ یہ عالم نے اسرائیل کا شاہی معبد بنادیا تھا۔ انتقامی جذبے کے تحت یوسیاہ نے اس کے پھرلوں کو تڑوا کر سفوف بنوادیا۔ پھر اس نے قربی قبرستان کی قبریں کھدو اکروہاں سے ہڈیاں نکلوائیں اور قربان گاہ کی بے حرمتی کرنے کے لئے اس کی زمین پر یہ ہڈیاں جلاائیں۔ اس نے یہ حرکت اسرائیل میں موجود تمام پرانے مذہبی مقامات پر دہرائی اور ان کے پروھتوں کو قتل کر دیا۔ پروھتوں کی نعشیں انہی کی قربان گاہوں پر جلاائیں۔ یہ وحشیانہ پن اور مذہبی جنوں اس مذہبی رواداری کے برعکس تھا جو (حضرت) ابراہیم نے دوسرے مذاہب کے لئے پیش کی تھی۔ یہاں دوسرے مذاہب کے مقدس حقوق کے لئے مکمل احترام کا وہ مظاہرہ کہیں دکھائی نہ دیا۔ جس کی تلقین انبیاء کرتے رہے تھے۔ لیکن اس جذبے کو توریت کے مورخین یشوع کے طرز عمل میں دیکھ کر سراہتے ہیں جس نے ان کے دعوے کے

مطابق بے رحمی سے اسرائیلیوں کے پیشوؤں کو کنعان میں خدا کے نام پر قتل کیا۔ بدشمتی سے یہ جذبہ یروشلم کی روحانی فضا کا ایک حصہ بن گیا۔

یوسیاہ کی اصلاحی تحریک صیہون کی مہم بھی تھی۔ وہ یروشلم کو پورے یہوداہ اور اسرائیل میں یہواہ کا ایک اور اکلوتا معبد بنا کر توریت کے نظریہ کو نافذ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس مرکزی مقدس مقام کے تحفظ کے لئے دیگر تمام مقدس مقامات کو مسماڑ اور ان کی بے حرمتی کرنا ضروری خیال کیا جا رہا تھا۔ بیت ایل کے لئے یوسیاہ کی شدت اور تندی خاص طور پر اس لئے تھی کہ اس نے یروشلم کو چیلنج کر نیکی جرات کی تھی۔ شمالی علاقے کے پروھتوں کو قتل کیا گیا لیکن یہوداہ کے مسماڑ شدہ معبدوں کے پروھتوں کو صرف وہاں سے نکال کر یروشلم میں منتقل کر دیا گیا۔ وہاں انہیں صیہون کے نچلے درجے کے کاہنوں میں شامل کر دیا گیا۔ یروشلم کی سرفرازی کے لئے بقیہ شہروں میں تباہی، موت، بے حرمتی اور بے دخلی عمل میں لائی گئی۔ بنی اسرائیل کے انبیاء نے حرم اور ہمدردی کو مذہب کا لازمی جزو قرار دیا تھا لیکن یوسیاہ کی اصلاحی تحریک نے صرف اور صرف یروشلم کے وقار اور سر بلندی کو مقدم رکھا۔

اصلاحی تحریک زندہ نہ رہی البتہ جو جذبہ اس نے پیدا کیا تھا وہ کسی نہ کسی صورت میں موجود رہا۔ 609 قم میں یوسیاہ نے مکمل سیاسی خود مختاری کے لئے پیش رفت چاہی اور فرعون نیکوہ دوم پر حملہ کر دیا جو کنعان میں مصر کی موجودگی چاہتا تھا۔ فرعون اس وقت آشوریوں پر یلغار کے لئے دریائے فرات کی طرف بڑھ رہا تھا۔ مجدو کے مقام پر یوسیاہ اور فرعون کے درمیان تصادم ہوا۔ یوسیاہ ابتدائی حملہ میں ہی قتل ہو گیا۔ یہوداہ کی اشرافیہ نے یوسیاہ کے بیٹے بہوآخز کو یہوداہ کا بادشاہ بنادیا۔ لیکن فرعون نیکوہ دوم نے یہوداہ پر اپنی گرفت مضبوط کر لی یوسیاہ کے بیٹے بہوآخز کو معزول کر کے اس کے بھائی یہویقیم کو بادشاہ بنادیا۔ لیکن مصری زیادہ عرصہ تک یروشلم کو ماتحت نہ رکھ سکے۔ 605 قم میں بابل کے بادشاہ بنوک نظر نے مصر اور آشور کو شکست دے دی اور بابل کو مشرق قریب کی سب سے بڑی طاقت بنادیا۔ علاقے کی دیگر ریاستوں کی طرح یہوداہ کے ریاست بھی بابل کی غلام بن گئی۔ ابتدا میں ایسا محسوس ہوا کہ نئی سلطنت کے زیر نگیں یہوداہ خوشحال ہو جائیگی لیکن ایسا نہ ہوا کہ تین سال کی مکحومی کے بعد یہویقیم بابل سے منحرف ہو گیا۔ اس نے مشنہ کے مضافات میں ایک شاندار محل تعمیر کیا۔ صورت حال اچانک بگڑگئی اور یروشلم خون ریز خانہ جنگی کی لپیٹ میں آگیا۔ یہویقیم نے مصر سے اتحاد کر لیا جو علاقے میں اپنا اثر و رسوخ بحال کرنا چاہتا تھا۔ مصر کی اعانت سے یہویقیم نے بابل کی طاقت کے خلاف خم ٹھونک لیا۔ انبیاء نے ماضی کی طرح ایک بار پھر لوگوں کو یقین دلایا کہ صیہون پر یہواہ کی موجودگی یروشلم کو بنوک نظر سے اسی طرح محفوظ رکھے گی جس طرح اس نے سخیر ب کے

جملہ کے وقت محفوظ رکھا تھا۔ خودشی کے اس رویہ کے خلاف یوسیاہ کے ساتھی خلقیاہ کے بیٹے یرمیاہ نے بہت شور مچایا۔ اس نے لوگوں کو متنبہ کیا کہ یہواہ یروشلم کو اسی طرح تباہ کر دے گا۔ جس طرح وہ ایک بار شلوہ (سیلا) کو تباہ کر چکا ہے۔ اس تو ہیں یہواہ پر یرمیاہ کو موت کی سزا سنا دی گئی۔ اگرچہ یرمیاہ کی جان بخشی ہو گئی لیکن وہ مسلسل یروشلم کی گلیوں میں گشت کر کے آنے والی تباہی کے بارے میں لوگوں کو خبردار کرتا رہا۔ لوگ بار بار نعرے لگاتے۔۔۔ ” یہ یہواہ کا معبد ہے۔۔۔“ (40) اور یرمیاہ انہیں کہتا۔۔۔ ”تم صیہون کو جادوئی طاقت سمجھ کر فیض کی طرح پوچھتے ہو۔ لیکن یہ یہواہ کا گھر ہے اور یہواہ تمہیں صرف اسی صورت میں تحفظ مہیا کرے گا جب تم دوسرے خداوں سے منہ موڑ لو گے، ایک دوسرے کے ساتھ ایمانداری اور دیانت داری سے پیش آؤ گے، مسافروں، یتیموں اور بیواؤں کا استھان کرنے سے بازاً جاؤ گے۔“

اس سے پہلے کہ نبوکد نظر اپنے سرکش غلام کو سزا دینے کے لئے پہنچتا، یہو یویم کا انتقال ہو گیا اور اس کی جگہ اس کے بیٹے یہویا کیں کی تخت نشینی کر دی گئی۔ بابل کی فوج نے 597 قم میں یروشلم کا محاصرہ کیا اور تین ماہ کے بعد شہر میں داخل ہو گئی۔ چونکہ شہر از خود سرنگوں ہو گیا تھا۔ اس لئے نہ تقتل عام ہوا اور نہ تباہی و بر بادی۔ نبوکدنظر نے معبد لوٹنے اور یہوداہ کی قیادت کو بابل منتقل کرنے پر اتفاق کیا۔

بابل کا کہنا ہے کہ:

” وہاں ملک میں سوا نگالوں کے کوئی اور باقی نہ رہا۔ وہ سارے یروشلم کو اور سب سرداروں اور سب سورماوں کو جو دس ہزار تھے اور سب دستکاروں اور لوھاروں کو اسیر کر کے یروشلم سے بابل کو لے گیا۔ اور یہویا کیں بادشاہ، بادشاہ کی ماں اور بیویوں اور اس کے عہدے داروں اور ملک کے رئیسوں کو اسیر کر کے بابل لے گیا۔“ (2- سلاطین 14:16)

قدیم سلطنتوں میں یہ دستور تھا کہ مغلوم علاقوں میں آئندہ بغاوتوں کا امکان ختم کرنے اور ہتھیاروں کی تیاری روکنے کے لئے وہاں کے عہدیداروں، جنگجوؤں اور صاحب ثروت لوگوں کے ساتھ ساتھ دستکاروں کو بھی علاقہ بدر کر دیا جاتا تھا۔ (41) یروشلم پر نبوکدنظر کے جملہ کے وقت بھی ایسا ہی کی گیا۔ لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جو لوگ باقی رہ گئے تھے، انہوں نے کوئی سبق نہ سیکھا۔ نبوکدنظر نے یہویا کیں کے بچپا اور یوسیاہ کے بیٹے صدقیاہ کو یروشلم میں نیا بادشاہ بنایا۔ صدقیاہ نے بھی اپنے اقتدار کے آٹھویں برس میں بابل کے خلاف بغاوت کا علم بلند کر دیا۔ اس دفعہ جب نبوکدنظر یروشلم میں داخل ہوا تو

اس نے رحم و مروت سے قطعاً کوئی کام نہ لیا۔ بابلیوں نے 18 ماہ تک شہر کا محاصرہ برقرار کھا۔ یہاں تک کہ اگست 588 قم میں شہر پناہ توڑ دی گئی۔ بادشاہ اور اس کی فوج نے فرار ہونے کی کوشش کی لیکن بابل کی فوج نے تعاقب کیا اور یہی کوئے قریب گرفتار کر لیا۔ صدقیاہ کے بیٹوں کو اس کی آنکھوں کے سامنے ذبح کیا گیا اور پھر اس کی آنکھیں نکال کر پابند نجیب بابل رو انہ کر دیا گیا۔ اب بابلی کمانڈر نے پوری منصوبہ بندی کے ساتھ شہر کو زمین بوس کرنا شروع کیا۔ پہلے اس نے معبد سليمانی کو آگ لگائی۔ پھر شاہی محل کو اور پھر یروشلم کے تمام گھروں کو جلا دیا۔ معبد سليمانی کی تمام قیمتی چیزیں بابل بھیج دی گئیں۔ بابل تفصیل کے ساتھ ان تمام اشیاء کا ذکر کرتی ہے جو اہل بابل لوٹ کر لے گئے لیکن تابوت یہواہ (عہد نامے کے صندوق) کا کوئی ذکر نہیں کیا جاتا جو ہمیشہ کے لئے غائب ہو گیا۔ چنانچہ بعد میں مختلف قیاس آرائیاں ہوتی رہیں۔ (41) قدیم دنیا میں کسی شاہی معبد کی تباہی کا مطلب ریاست کی تباہی ہوتا تھا کوئی ریاست اپنے کسی ایسے مرکز کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی تھی جو آسمان کے ساتھ اس کا تعلق قائم کرتا ہو۔ یہواہ کو بابل کے دیوتا مرود کے نے شکست دے دی۔ یہوداہ کی ریاست ختم ہو گئی۔ مزید 823 افراد تین مرحلوں میں علاقہ بدر کئے گئے۔ اب پیچھے صرف مزدور، دیہاتی اور کسان رہ گئے۔

یریمیاہ علاقہ بدر کئے جانے والے لوگوں میں شامل نہیں تھا۔ شائد اس لئے کہ اس کا موقف بابلیوں سے ملتا جلتا تھا۔ جب تباہی نازل ہو گئی تو یریمیاہ، غیب دان، اپنے لوگوں کا مسیحابن گیا۔ اس نے جلاوطن کئے جانے والے لوگوں کو لکھا۔ ”یہواہ کی خدمت اجنبی سرزی میں ممکن ہے، وہاں آباد ہو جاؤ، باغ لگاؤ، مکان تعمیر کرو اور نئے ملک کی تعمیر میں حصہ لو۔“ (43) تابوت یہواہ کی کوئی بھی محسوس نہیں کرے گا۔ کوئی نیا تابوت نہیں بنایا جائے گا۔ (44) جلاوطن کئے جانے والے ایک دن واپس آئیں گے، وہ یروشلم کے ارد گرد، یہوداہ کے شہروں میں، کوہستان، وادی اور جنوب کے علاقوں میں زمینیں خریدنے کے لئے واپس آئیں گے۔“ (45)

معبد کی تباہی کو یہواہ کا خاتمہ سمجھنا چاہئے۔ وہ اپنے شہر کو تحفظ دینے میں ناکام رہا۔ اس نے دکھایا کہ وہ صیہون کا مضبوط قلعہ نہیں تھا۔ یروشلم ”بیابان“ بن گیا۔ انتشار اور بر بادی کی قوتیں کامیاب ہو گئیں۔ صیہونی وعدہ سراب ثابت ہوا۔ لیکن انہی کھنڈروں میں سے ابھی یروشلم شہر کو ایک ایسا مذہبی نشان بن کر ابھرنا تھا جو مستقبل کے لئے ایک نئی امید کو جنم دے سکتا تھا۔

=====

حوالہ جات

		سلاطین	-1
12:11	یسیعah		-2
74:14 'زبور 26:12 '3:12 ایوب 27:1			
38:10	ایوب		-3
89:10	زبور		-4
زبور 48:3	زبور		-5
اسمعہ کی کتاب ”ارٹھ اینڈ گاؤز“ سے لیا گیا ہے			
48:12-14	زبور		-6
46:5-9	زبور		-7
46:1	زبور		-8
99	زبور		-9
47:5-6	زبور		-10
6:4 97:2 'یسیعah	زبور		-11
99:1-4 ' 47:2	زبور		-12
97:9	زبور		-13
84:5-7	زبور		-14
84:3	زبور		-15
7:10.12 سیموئیل 2-			-16
84:1-2	زبور		-17
84:10	زبور		-18
بادشاہ عزیyah کے دور کی تاریخی ترتیب کئی اور بادشاہوں کے ادوار کی طرح توریت کی پانچویں			-19

کتاب اور تواریخ کے مؤلفین نے غلط دی ہے۔ عزیاہ کا معاملہ بالخصوص پیچیدہ ہے کیونکہ اس کی بیماری کے دوران اس کا بیٹھا یوتام امور سلطنت سرانجام دیتا تھا۔

6:3	یسیعہ	-20
2:2-3	یسیعہ	-21
11:6-9	یسیعہ	-22
1:11-12	یسیعہ	-23
1:16-17	یسیعہ	-24
5:25-27	عاموس	-25
1:2	عاموس	-26
9:10-13	زبور	-27

BEN C. OLLEN BURGER, ZION, The city of the great king (SHEFFIELD-1987) pp. 58-69

7:14-17	یسیعہ	-28	
29-30	تواتر خ	-29	
3:12	میکاہ	-30	
29:34	سلطین	-2	-31
32:21	تواتر خ	-2	-32
33:1-10	سلطین	-2	-33
21:1-18	تواتر خ	-2	-33
8:27	سلطین	-1	-34
16:13-15	استشنا	-35	
6:4 (سن اے اسرائیل۔ خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے)	استشنا	-36	
12:1-4	استشنا	-37	

HAROLD H. ROWELEY: Worship in Ancient Isreal.

Its forms & meaning (London - 1967) pp. 106-7

34:8-28	تواتر خ	-2	-38
---------	---------	----	-----

23:10-14 سلاطین -2 -39

7:3-7 یرمیاہ -40

بابل کو جلوطن کئے جانے والے افراد کی تعداد کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔

یرمیاہ نبی کا کہنا ہے کہ صرف 3023 افراد کو بابل بھیجا گیا لیکن وہ تین گروہوں کی صورت میں یہوداہ سے روانہ ہوئے۔

میکاپیز 5:2-4، یوما B-52، حواریوت 12A، بخششیکا کلام 6:1 -42

یرمیاہ 29:5-10 -43

یرمیاہ 3:16 -44

یرمیاہ 32:44 -45

=====

**Virtual Home
for Real People**

پانچواں باب

جلاءطنی

یروشلم اور اس کے معبد کی تباہی ایک گھرے مفہوم میں بنی اسرائیل کی دنیا کا خاتمہ تھا۔ یہاں نے اپنا شہر چھوڑ دیا۔ اور یروشلم ایک ”بیابان“ بن گیا۔ تخلیق سے پہلے کی بے ترتیبی اور ابتیری غالب آگئی۔ تباہی تخلیق کو معدوم کرنے کا ایک عمل تھا جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کے وقت سیلا ب نے دنیا میں زندگی ناپید کر دی تھی۔ یہ میاہ کی پیشن گوئی کے مطابق یروشلم ایک ایسے بیابان کا منظر پیش کر رہا تھا جہاں سے پرندے بھی کوچ کر جاتے ہیں۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ نظام کائنات میں خلل آگیا ہے۔ سورج اور چاند روشنی نہیں دیتے۔ پھاڑ لرزتے رہتے۔ ”روئے زمین“ پر کوئی ذی روح دکھانی نہیں دیتا تھا۔ (1) شاعر دہشت کے ساتھ وہ دن یاد کرتے جب بابل کے سپاہی معبد میں دندناتے پھرتے تھے، خانہ اقدس میں ان کے کھلاڑوں اور ہتھوڑوں کی ضربیں ابھی تک شاعروں کے کانوں میں گونجتی تھیں۔

اور اب وہ اس کی ساری نقش کاری کو
کلہاڑی اور ہتھوڑوں سے بالکل توڑے ڈالتے ہیں
انہوں نے تیرے مقدس میں آگ لگادی ہے
اور تیرے نام کے مسکن کوز میں تک مسما کر کے
ناپاک کر دیا ہے۔ (2) (زبور 74:7-3)

وہ انتقام اور مکافات عمل کے مقصد تھے۔ ان کی آرزو تھی کہ بابل کے بچوں کے سرچانوں پر پٹخے

جائیں۔ (3)

اے بابل کی بیٹی جو ہلاک ہونے والی ہے
مبارک ہوگا، جو تجھے اس سلوک کا
جو تو نے ہم سے کیا، بدلہ دے
چڑھاں پر پٹخن دے گا۔ (زبور=137:9-8)

یہوداہ کے لوگ تفحیک کا سامان بن چکے تھے۔ مہذب قوموں کے لوگ ان کا تمسخر اڑاتے اور پوچھتے۔۔۔ ”کہاں ہے تمہارا خدا؟“ (4) معبد کے بغیر قدیم دنیا میں خدا سے رابطہ ناممکن تھا۔ یہوداہ غائب ہو چکا تھا۔ معبد ملبے کا ڈھیر تھا اور خدا کے لوگ اجنبی سر زمین پر بکھرے پڑے تھے۔

مشرق قریب میں دستور تھا کہ جب کوئی شہر تاخت و تاراج کیا جاتا تو اس کے زندہ بچ رہنے والے لوگ ہنڈروں پر بیٹھ کر اسی طرح نوح خوانی کرتے جیسے کسی عزیز کی موت پر کی جاتی ہے۔ یہوداہ اور اسرائیل کے بچ رہنے والے لوگ سال میں دو دفعہ اپنے مقدس شہر کا سوگ منایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ماہ ایو کی نوتارخ کوتاہی کی برسی کے موقع پر اور دوسرا دفعہ سکوتوح کے روز معبد کے لئے وقف ہونے کی سالگرہ کے موقع پر۔ وہاں آنے والے لوگوں کے بارے میں بابل ہمیں بتاتی ہے۔

” اس کے دوسرے دن یوں ہوا کہ سکم اور سیلا اور سامریہ سے کچھ لوگ جو سب کے سب اسی تھے ڈاڑھی منڈائے اور کپڑے پھاڑے اور اپنے آپ کو گھائل کئے اور ہدیئے اور لوبان ہاتھوں میں لئے وہاں آئے تاکہ خداوند کے گھر میں گزار نیں۔ (5) (یرمیاہ=41:6)

کتاب گریہ میں کچھ نوئے محفوظ ہیں جو زمین بوس معبد کے فریب سوگ کے روایتی انداز میں بیٹھ کر یہوداہ اور اسرائیل کے بڑوں نے پڑھے تھے۔ سوگ کا روایتی انداز ٹاٹ کے کپڑے پہننا اور پیشانی پر را کھ مانا تھا۔۔۔ یونہ یو شلم کی بربادی کے دل دوز مناظر پیش کرتے ہیں۔ ایک گنجان آباد دشہر جس کی گلیاں زائرین سے بھری رہتی تھیں اب وہاں ہو کا عالم تھا۔ چوک خالی، گلیاں سنسان، مکان ہنڈر اور گیدڑوں

کی پاتال سے ابھرتی ہوئی وحشت ناک آوازیں۔ ان نوحوں نے شدید نفسیاتی اثر مرتب کیا اور باقی پنج رہنے والے لوگ اپنے آپ سے نفرت کرنے لگے۔ جو لوگ 596 قم میں مر گئے وہ خوش قسمت ثابت ہوئے۔ اب لوگ گندگی کے ڈھیروں میں کھانے پینے کی چیزیں تلاش کرتے پھرتے تھے۔ کمزور دل ماوں سے اپنے بچوں کی بھوک نہ دیکھی جاسکی۔ انہوں نے خود اپنے بچوں کو ہلاک کر دیا۔ کتاب گریہ کے ایک نوحہ میں لکھا ہے:

”اس کے شرفابرف سے زیادہ صاف اور دودھ سے زیادہ سفید تھے۔

ان کے بدن مو نگے سے زیادہ سرخ تھے۔ ان کی جھلک نیلم کی سی تھی۔ اب ان کے چہرے سیاہی سے بھی زیادہ کالے ہیں اور ان کا چڑاہڈیوں سے سٹا ہے۔ وہ سوکھ کر لکڑی سا ہو گیا ہے۔“ (6)

سب سے بڑھ کر اذیت ناک بات احساس ذلت تھا۔ یو شلم، مقدس شہراب ناپاک ہو چکا تھا۔ جو لوگ اس کی تعریف کیا کرتے تھے اب اسے تحقیر کی نظر سے دیکھتے تھے۔ شہر خود بھی سک رہا تھا۔ اور اس نے اپنا چہرہ چھپا لیا تھا۔ اس کا لباس حیض آلود خون سے بخس ہو چکا تھا۔ (7) لیکن ما یوسی کی تاریکیوں میں بھی جو نوحہ لکھے گئے ان میں بابلیوں کو مورد الزام ٹھہرانے کی بجائے اپنے گناہوں کو نظر میں رکھا گیا۔ نوحہ لکھنے والوں کو علم تھا کہ یہوداہ نے یو شلم کو بنی اسرائیل کے گناہوں کی وجہ سے تباہ کیا ہے۔

یو شلم اب مزید قابل رہائش نہیں تھا۔ شہر کے جنوب کا علاقہ تو اس طرح تباہ ہوا تھا کہ آباد کرنا ناممکن تھا۔ یہوداہ کی سابق ریاست کے انتہائی جنوب میں ادو میوں نے غلبہ پالیا اور ادو میہ کی ریاست کی بنیادیں رکھ دیں۔ یہوداہ کے زیادہ تر لوگ جو 586 قم میں باقی پنج رہے تھے وہ سامرینہ چلے گئے یا یو شلم کے شمال میں بیت ایل اور اس کے مضائقات میں آباد ہو گئے۔ بابلیوں نے بادشاہ یوسیاہ کے محمر کے پوتے جیدالیاہ کو علاقے کا گورنر مقرر کیا۔ اس نے اپنے شہر مصفاہ میں رہتے ہوئے حالات پر سکون بنانے کی کوشش کی۔ بابلیوں نے ملک کی تعمیر نو کے لئے وہاں رہ جانے والے لوگوں کو علاقہ بدل لوگوں کی زمینیں دیدیں۔

یہوداہ کے جو لوگ ماضی میں نہایت غریب اور استھصال زدہ تھے انہیں زمینیں مل گئیں لیکن نئے وفادار پیدا کرنے کی کوششیں ناکام رہیں۔ 582 قم میں سابقہ یہودائی فوج کے جو افسران مورائے اردن کو بھاگ گئے تھے وہ واپس آگئے۔ انہوں نے خاندان داؤد کے ایک فرد اسماعیل کی قیادت میں منظم ہو کر گورنر جیدالیاہ اور اس کے ساتھیوں کو قتل کر دیا۔ لیکن یہ بغافت ناکام ہو گئی کیونکہ اسماعیل عوامی حمایت نہ حاصل کر سکا وہ

عمون کو بھاگ گیا۔ سیاسی طور پر زیادہ فعال لوگ بابلیوں سے بچنے کے لئے مصر کو ہجرت کر گئے۔ اگلے چھاپس برس تک یہوداہ اور یہ شلم کے بارے میں تاریخ کے اوراق خاموش ہیں۔

بے وطنی کی اذیت کے باوجود جلاوطن کئے گئے لوگ آسودہ حال ہو گئے۔ انہیں بابل میں ظلم و ستم کا نشانہ نہ بنایا گیا۔ بادشاہ یہویا کین بابل کے دربار میں رہا اس کا شاہی منصب بحال رکھا گیا۔ (8) جلاوطن ہو کر آنے والے لوگ بابل اور اس کے گرد نواح کے پرکشش اور اہم علاقوں میں آباد ہو گئے۔ یہ علاقے ”عظیم نہر“ کے قریب تھے جو دریائے فرات سے شہر میں پانی لانے کا ذریعہ تھی۔ ان لوگوں نے بابل کے مختلف مقامات کے نام عبرانی میں رکھ لئے۔ مثلاً کچھ لوگ جس مضافاتی علاقے میں رہتے تھے، انوں نے اس کا نام ”تل ابیب“ رکھ لیا۔ جلاوطنوں نے یہ میاہ کی نصیحت پر صدق دل سے عمل کیا اور بابلی معاشرے کا جزو بن گئے۔ انہیں آپس میں آزادانہ ملنے، زمینیں خریدنے اور کاروبار کرنے کی اجازت تھی۔ چنانچہ بہت سے بہت جلد متممول اور معروف تاجر بن گئے۔ کچھ افراد کو دربار میں منصب مل گئے۔ انہوں نے ان اسرائیلیوں کی اولاد سے میل جوں بڑھا لیا جن کو بابلیوں نے 722 قم میں جلاوطن کیا تھا۔ بہت سے جلاوطن جن کا ذکر بابل میں موجود ہے، شمالی علاقوں کے دس قبیلوں سے تعلق رکھتے تھے۔ (9)

لیکن ان سب کیلئے بابل میں قیام ایک صدمہ اور ایک چیلنج تھا۔ یہ عالیشان شہر ان تمام شہروں کے مقابلہ میں زیادہ ترقی یافتہ اور عروس البلاد تھا جن کو وہ ماضی میں اپنے ملک میں دیکھ چکے تھے۔ اپنے چھاپس معبدوں کے ساتھ بابل ایک ایسی مذہبی دنیا تھا جو کنعان کے قدیم اصنام پرست مذہب سے زیادہ پیچیدہ تھی۔ لیکن اس کی کچھ سوم ان کے لئے مانوس تھیں۔ یہواہ کو مردک سے شکست ہو چکی تھی اور اب وہ مردک کے علاقہ میں رہ رہے تھے چنانچہ بہت سے لوگ متاثر ہو گئے اور انہوں نے مقامی مذہب اختیار کر لیا۔ کچھ لوگ غالباً بابل کے دیوبنی دیوتاؤں کی پرستش کے ساتھ ساتھ یہواہ کی عبادت بھی کرتے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کے نام مقامی لوگوں کی طرح دیوبنی دیوتاؤں کی نسبت سے رکھنا شروع کر دیئے۔ مثلاً شامیش لیدن (شامیش دیوتا فیصلہ کرے) اور بلیاد دیک (بعل حفاظت کرے) وغیرہ، لیکن بقیہ لوگ اپنے مذہب پر قائم رہے۔ (10)

MAP (نقشہ)

معبد کی تباہی اور بابل کو جلاوطنی کے بعد یہودیوں نے قوانین موسیٰ کو خدا سے رابطہ کا ذریعہ اور

توریت کو معبد بنالیا تھا۔ اس کے بعد یہودی بچوں کے لئے توریت کی تعلیم لازمی قرار دیدی گئی۔

توریت کے مولفین 586 قم کے ازلیہ کو اپنی اصابت رائے کا ثبوت تصور کرتے ہوں گے۔ وہ بالکل درست تھے۔ قدیم کنعانی دیومالاجس نے اہل یہوداہ کے اس عقیدہ کو تو انا کیا کہ صیہون نا قابل تسخیر ہے، حقیقت میں ایک سراب اور خود فربی ثابت ہوا۔ اس کے برعکس توریت کا اصرار تھا کہ حضرت موسیٰ کے قوانین پر توجہ دی جائے اور بنی اسرائیل کے ساتھ یہواہ کے اس عہد نامے کی پابندی کی جائے جو انہیں اس وقت عطا کیا گیا تھا جب ابھی کسی نے یروشلم کا نام بھی نہیں سننا تھا۔ موسیٰ شریعت انہیں جلاوطنی اور بابل کی بھٹی میں ان کی شناخت تخلیل ہونے سے بچا سکتی تھی۔ جلاوطنی کے برسوں میں مذہبی استقامت رکھنے والے لوگوں نے اپنے اصول و ضوابط مرتب کئے اور وہ طرزِ عمل اپنایا جو انہیں اضمام پرست پڑو سیوں سے مختلف رکھ سکتا تھا۔ وہ اپنے اڑکوں کے ختنے کرواتے، سبت کے دن کام کرنے سے گریز کرتے اور خوردنوش کے خصوصی قوانین پر عمل کرتے جو انہیں عہد نامے کے لوگوں کی حیثیت سے ایک مختلف شناخت مہیا کرتے تھے۔ انہیں خود کو ایک ”مقدس“، ”قوم ثابت“ کرنا تھا۔ اپنے خدا کی طرح مختلف اور ممتاز۔

بقیہ جلاوطنوں نے قدیم دیومالائی مذہب میں ہی تسلیم محسوس کی۔ وہ سمجھتے تھے کہ صیہون کے قدیم نشان اور دست انیں زیادہ پرشکوہ ہیں اور صورت حال کے مطابق ان کے لئے وقار کا ذریعہ ہیں۔ مذہب کی تاریخ ظاہر کرتی ہے کہ بحران اور انقلاب کے وقت لوگ مذہب کی کسی دانشمندانہ اور معقول صورت کی بجائے اساطیر اور مفروضوں کی طرف تیزی سے لپکتے ہیں۔ لفیيات کی طرح اساطیر بھی لاشعور میں داخل ہو کر انسانی شخصیت پر گہرا اثر ڈالتی ہیں۔ ہمارے اپنے زمانہ میں دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک جلاوطن اپنے طور طریقوں میں محض تبدیلی سے نہیں گزرتا بلکہ کہیں زیادہ مقامی اثرات قبول کرتا ہے۔ جلاوطنی ایک فرد کے روحانی ماحول کو بھی تبدیل کر دیتی ہے۔ دنیا میں اپنا الگ تھلک مقام گنو کر جلاوطن اپنے آپ کو بھٹکتا ہوا محسوس کرتا ہے۔ کائنات اس کے لئے اچانک اجنبی اور نامنوس ہو جاتی ہے۔ جب ایک دفعہ ”گھر“ کا متعین مقام کھو جاتا ہے تو پھر اپنے درست ترین محل و قوع کی بنیادی کی ہر چیز کو بے معنی اور بے مقصد بنادیتی ہے۔ اپنی شفافت اور اپنی شناخت کی جڑوں سے کٹ کر لوگ محسوس کرتے ہیں کہ وہ مر جھار ہے ہیں بے وقعت ہو گئے ہیں۔ چنانچہ فرانسیسی ماہر عمرانیات آر، پی ٹرلز کا کہنا ہے کہ اپنی آبائی سرزمین سے نکلنے پر مجبور ہونے کے بعد ”کیبون بونوں“ نے محسوس کیا کہ پوری کائنات درہم برہم ہو گئی ہے۔ ان کا خالق ان سے

ناراض تھا۔ دنیا ایک تاریک مقام بن چکی تھی۔ رات، رات اور مسلسل رات۔۔۔ ان کی جلاوطنی نے ان کے آبا و اجداد کی روحوں کو بھی جڑوں سے اکھاڑ دیا تھا۔ جواب دور دراز، ناقابل رسائی میدانوں میں بھٹک رہی تھیں اور ہمیشہ کے لئے در بدر ہو گئی تھیں۔“

کیا وہ رو جیں زمین پر ہیں؟ کیا وہ یہاں ہیں؟

کیا وہ ان نذر انوں کی زیبائش کو دیکھتی ہیں؟

آنے والا کل عربیاں اور خالی ہے

کیونکہ خالق اب مزید ہمارے ساتھ نہیں

اب وہ ہماری آگ کے پاس میزبان کی مند پر نہیں (11)

مادر وطن سے محروم ہو جانے کا مطلب تھا کہ آسمان سے تعلق جو زندگی کو قابل اعانت بتاتا ہے، ٹوٹ چکا ہے۔ چھٹی صدی قبل مسیح میں جلاوطن یہودیوں نے اس کا اظہار یہ کہہ کر کیا کہ ان کی دنیا انجام کو پہنچ گئی ہے۔

جو لوگ یہواہ کے مذہب اور اپنے آبا و اجداد کی رسوم سے وابستہ رہنا چاہتے تھے انہیں ایک سنگین مسئلہ درپیش تھا۔ جب جلاوطن یہ کتے تھے کہ۔۔۔ ہم ایک اجنبی سر زمین پر یہواہ کا کوئی گیت کیسے گا سکتے ہیں؟ (12) تو وہ محض وطن کی یاد کا اظہار نہیں کرتے تھے۔ بلکہ مذہبی طور پر دہری مشکل کا بھی اظہار کرتے تھے۔ آج مذہبی لوگوں کا ایمان ہے کہ وہ دنیا میں کہیں بھی اپنے خدا سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ جنگلوں میں، پہاڑوں میں، شہروں میں، بازاروں میں، گھروں میں، عبادت گاہوں میں کہیں بھی وہ خدا کو مخاطب کر سکتے ہیں۔ لیکن قدیم دنیا میں کی جانے والی عبادت آج کے دور سے بہت مختلف تھی۔ جلاوطنی کے دوران یہودیوں نے ایک نیا انداز اختیار کیا۔ یو شلم کی طرف منہ کر کے اپنے ہاتھ اٹھاتے اور یہواہ کی حمد و شنا کرتے یا اس سے عہدو پیمان کرتے۔ یہ طریقہ کار قربانی کا تبادل تھا اور قربانی کو دیوی دیوتاؤں سے رابطہ کا ذریعہ سمجھا جاتا تھا۔ (13) لیکن عبادت کا یہ نیا طریقہ ایک انوکھا تصور تھا اور پہلے جلاوطن ہونے والوں کا معمول نہیں تھا۔ جلاوطنی نے یہودیوں کو محوری دور کی زیادہ داخلی روحانیت سکھائی ہو گی۔ جب وہ پہلے 597 قبل مسیح میں جلاوطن ہو کر بابل میں آئے تو انہوں نے صرف اتنا محسوس کیا ہو گا کہ انہیں یہواہ کی موجودگی سے دور کر دیا گیا ہے۔ اس کا گھر صیہون میں تھا اور وہ اس کے لئے بابل میں کوئی گھر تعمیر نہیں کر سکتے تھے جس طرح

آج ہم کہیں بھی چرچ، مسجد اور صومعہ بناسکتے ہیں۔ کیونکہ توریت کے مولفین کے مطابق بنی اسرائیل کا صرف ایک جائز اور قانونی معبد ہے جو یو شلم میں پایا جاتا ہے۔ گپون کے بونوں کی طرح یہودی جلاوطن بھی الجھن میں ہوں گے کہ کیا انکا خالق واقعی ان کے ساتھ اجنبی شہر میں موجود ہے؟ اس سے پہلے تو یہودی اور اسرائیلی اجتماعی عبادت کے لئے صرف ایسے مقامات پر اکٹھے ہوتے رہے تھے جن کا تعلق یہواہ کے اکشاف سے یا پھر کسی طرح کے مذہبی اسرار و رموز سے تھا۔ لیکن بابل میں کہیں بھی کوئی ایسا مقام نہیں تھا جہاں یہواہ کی رویت کا واقعہ کسی کے علم میں ہو۔

پھر یہواہ نے تل ابیب میں اپنا ظہور کیا۔ 597 ق م میں بابل میں آنے والے جلاوطنوں کے پہلے گروہ میں بنی حزقي ایل بھی موجود تھا۔ پلے پانچ سال تک وہ اپنے گھر میں اکیلا پڑا رہا۔ اس نے کسی انسان سے بات نہ کی۔ پھر یہواہ کی رویت نے حقیقی طور پر اس کو اعصاب زدہ کر دیا اور وہ پورا ایک ہفتہ مض محل پڑا رہا۔ روشنی کا ایک بادل اسے شمال سے اپنی طرف آتا ہوا دکھائی دیا جس کے اندر ایک رتھ تھا جسے چار فرشتے کھینچتے ہوئے لارہے تھے۔ یہ فرشتے عجیب طرح کی مخلوق تھے اور ان شبیہوں سے قطعاً مختلف تھے جو بابل کے دروازے پر کندہ کی گئی تھیں۔ بابل میں انہیں کیریو (کروبی) کہا جاتا تھا۔ جب حزقي ایل نے اس پیکر کو بیان کرنا چاہا تو وہ ناکام رہا۔ اس کا اظہار عام لفظوں اور شبیہوں سے کرنا ناممکن تھا۔ اس نے جو کچھ دیکھا وہ۔۔۔ تخت جیسی کوئی چیز اور اس تخت پر انسان جیسی کوئی ہستی تھی۔ طوفان، آگ اور ہنگامہ خیز شور کی مخلوط کیفیت میں حزقي ایل کو معلوم ہوا کہ اس نے کوئی ایسی چیز دیکھی ہے جو یہواہ کے پر شکوہ جمال جیسی ہے۔ (14) یہی عاصہ کی طرح حزقي ایل نے حقیقت اعلیٰ کی جھلک دیکھی تھی جو معبد کے مقدس نشانات کے پیچھے موجود تھی عہد نامے کا صندوق۔۔۔ یہواہ کا زمینی تخت ابھی یو شلم کے معبد میں تھا لیکن اس کی تجلی اور جلال، بابل میں پہنچ گئے تھے۔ درحقیقت یہ ایک نزول، الہام اور حیرت انگیز اکشاف تھا۔ بہت بڑے اسرار کا بے نقاب ہونا۔ عظیم پرده جس نے معبد سلیمانی میں خانہ اقدس (دیور) کو ہیکل سے الگ کر رکھا تھا، انسانی شعور و ادراک کی آخری حدود کی نمائندگی کرتا تھا۔ اب یہ نقاب ایک طرف سر کا دیا گیا تھا۔ حزقي ایل بذات خود یہواہ اور اس کے جلال کے درمیان امتیاز کر سکتا تھا۔ جلال جو اس کی موجودگی کا اظہار تھا اور جس نے خدا کی ناقابل بیان حقیقت کو انسانوں کے لئے قابل فہم بنادیا تھا۔ یہ رویا ایک قدیم عقیدے کی چونکا دینے والی نئی صورت تھی۔ ابتدائی دنوں میں بنی اسرائیل کے علم میں یہ بات آگئی تھی کہ خدا حرکت کر سکتا ہے۔ وہ سینا سے کنعان میں اپنی قوم کے پاس فرشتوں کے پروں پر بیٹھ کر آیا تھا۔ اب فرشتوں نے اسے اپنے بندوں کے پاس جلاوطنی میں پہنچایا تھا۔ وہ اس علاقے کے دیگر خداوں اور دیوی دیوتاؤں کی طرح کسی خاص مقام سے

وابستہ اور ناقابل حرکت نہیں تھا چنانچہ وہ صرف معبد یا ارض موعودہ تک محدود نہیں تھا۔

ایک اور وجہ بھی تھی جس کے لئے یہوا نے یروشلم میں رہنے والے اہل یہوداہ کی بجائے جلاوطنوں کے ساتھ رہنے کا انتخاب کر لیا تھا۔ حزقی ایل کو یہوا کی رویت 592 قم کے قریب ہوئی تھی۔ بنو کدنظر کے ہاتھوں یروشلم کی تباہی سے چھ سال پہلے۔ لیکن بعد کی ایک روایا میں اسے پتہ چل گیا تھا کہ یروشلم کو تباہی کے لئے نشان زد کر دیا گیا ہے کیونکہ یہوداہ کے لوگ میثاق بنی اسرائیل سے مخفف ہو چکے ہیں اور مقدس معبد کی چار دیواری میں غیر خداوں کی عبادت کر رہے ہیں۔ ایک دن حزقی ایل، تل ابیب میں اپنے گھر میں جلاوطن یہودیوں کے ساتھ بیٹھا تھا کہ اس پر اچانک یہوا کا ہاتھ نازل ہوا اور اس کو روحانی طور پر اٹھا کر یروشلم لے گیا۔ وہاں اسے معبد کا منظر دکھایا گیا جس میں عبادت گزار غیر خداوں کے سامنے سجدہ ریز ہو رہے تھے۔ حزقی ایل یہ منظر دیکھ کر لرز گیا۔ اسے بتایا گیا کہ ان ”گندی حركتوں“ سے نالاں ہو کر یہوا یروشلم کو چھوڑ رہا ہے۔ حزقی ایل نے دیکھا کہ فرشتوں نے اپنے پر پھیلادیئے۔ مقدس رتحہ (تحت) کے پیہے حرکت میں آگئے۔ اور ”یہوا کے جلال“ کو اٹھائے ہوئے وہ یروشلم سے نکلے اور شہر کے مشرق میں کوہ زیتون کے اوپر غائب ہو گئے۔ یہوا نے اب جلاوطنوں کی برادری میں رہنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس روایا کا ایک ہی مطلب تھا کہ اب چونکہ یہوا یروشلم سے ہجرت کر گیا ہے، اس لئے شہر کی تباہی کسی بھی وقت رونما ہو سکتی ہے۔-(15)

لیکن یہوا نے اسی نبی وعدہ کیا تھا کہ ایک دن وہ اپنے شہر کو واپس آئے گا۔ کوہ زیتون کیا سی راستے سے واپس آئے گا اور صیہون پر اپنے مسکن کو پھر سے آباد کرے گا۔ ایک دن خروج برپا ہو گا۔ منتشر جلاوطن اپنے کھروں کو لوٹ آئیں گے اور ایک نئی تخلیق ظہور میں آئے گی جس میں بدنزیب ویران اور سنان سر ز میں ”باغ عدن“ میں تبدیل ہو جائے گی۔ یہ وقت تسکین و اندماں کا ہو گا۔ یہوداہ اور اسرائیل کے لوگ ”داودی سلطنت“ میں ایک بار پھر متعدد ہو جائیں گے اور جس طرح یہوا باغ عدن میں رہتا ہے اسی طرح یہاں اپنے لوگوں میں رہے گا۔-(16) اجنبيت، کدورت اور فرقہ کا خاتمه ہو جائے گا۔ اس کلیت کی طرف مراجعت ہو گی جس کی تمنا لوگوں کو ہے۔ یروشلم اس روایا کا مرکز تھا۔ بنو کدنظر کے ہاتھوں یروشلم کی تباہی کے چودہ سال بعد حزقی ایل یا اس کے شاگردوں میں سے کسی نے ایک اونچے پہاڑ پر ایک شہر کو روایا میں دیکھا۔ اس کا نام ”یہواہ شم“ تھا یعنی یہوا یہاں ہے۔-(17) یہ شہر ایک جنت ارضی تھا۔ قدیم اصطلاحوں میں امن اور رخیزی کا مقام۔ جس طرح دریا باغ عدن کے وسط میں پھوٹتا اور مقدس پہاڑ سے نشیب کو بہتا ہوا پوری دنیا کو سیراب کرتا ہے اسی طرح حزقی ایل نے دیکھا کہ:

” ایک دریا شہر کے معبد کے نیچے پھوٹ رہا ہے اور معبد کے احاطہ سے نکل کر مضافات کو زندگی اور شفا بخش رہا ہے۔ اس دریا کے کناروں پر ایسے درخت تھے جن کے پتے کبھی نہیں مر جھاتے اور پھل کبھی موقوف نہیں ہوتے۔ جو کھانے میں خوش زائدہ اور تاثیر میں شفا بخش ہیں۔ (18) (حزقی ایل 12:47)

جلادُ طَنْ چونکہ اجنبیت اور فراق کی اذیت میں بنتا تھے چنانچہ وہ قدیم دیومالا میں تسلیم پانے لگے جو انہیں ان کی اپنی سرز میں کو مراجعت کی نوید سناتی تھی۔

لیکن حزقی ایل نے خود کو ماضی سے نہیں چپکا رکھا تھا وہ مستقبل کے لئے ایک نیا منظر تشكیل دے رہا تھا۔ چونکہ اس کے تصور میں ”یہواہ شم“ کا شہر تھا چنانچہ اس نے مقدس شہر کا ایک نیا نقشہ ترتیب دیا۔ شہر کے وسط میں معبد، معبد سیلمانی کی نقل تھا جوابِ ہندر بن چکا تھا۔ اس کے برآمدے، ڈیور ہمی یہ کل اور خانہ اقدس (دیور) تقدیس کے تدریجی مقام تھے۔ ہر درجہ پچھلے درجہ سے زیادہ مقدس تھا۔ (19) جس طرح پرانے معبد میں خانہ اقدس تک مختلف درجوں سے ہو کر، ہی پہنچا جاتا تھا اور ہر ایک کو اعلیٰ ترین مقام یعنی خانہ اقدس تک جانے کی اجازت نہیں تھی، یہی پابندی مجوزہ معبد کے لئے بھی تھی۔ یہ تصور حزقی ایل کے رویا کا مرکزی نکتہ تھا اور بھی اس کی مثالی دنیا کے نئے نقشہ کی بنیاد تھی۔ البتہ مجوزہ معبد، معبد سیلمانی سے دواہم پہلوؤں سے مختلف تھا۔ بادشاہ کا محل معبد کے ساتھ نہیں تھا اور معبد کی عمارتوں کے ارد گرد و فیصل بند صحن تھے۔ (20) یہواہ کی تقدیس کو غیر مقدس دنیا سے انتہائی احتیاط کے ساتھ الگ اور ممتاز انداز میں پیش کیا جانا تھا۔ خدا اب زیادہ مورائی حقیقت اور دنیا سے بالکل الگ تھلگ ہستی بن رہا تھا۔ یعنی بائبل کے پہلے مصنف نے تصور پیش کیا تھا کہ یہواہ حضرت ابراہیم کے پاس ایک دوست کی طرح بیٹھا باقیں کر رہا ہے۔ لیکن حزقی ایل، محوری دور کا نبی تھا، اس کے خیال میں خدا ایک بلند و بالا اسرار تھا جو تمام تر انسانوں پر غالب ہے۔ لیکن خدا کو ضروری طور پر دوسری شے یاد رک بنانے کے باوجود یہ اب بھی انسانوں کی دنیا کا مرکز اور ان کی زندگی اور طاقت کا ذریعہ تھا۔ ایک حقیقت، جسے حزقی ایل کی رویا میں جنت کے دریا کی صورت میں علامتی انداز میں پیش کیا گیا تھا۔ اب حزقی ایل نے ارض موعودہ کو جس طرح پیش کیا وہ اس کے طبعی جغرافیہ میں ابہام پیدا کرتا تھا۔ مثلاً یہواہ شم، بِرَوْشَلَم کے برعکس زمین کے بالکل مرکز میں ہے اور اسرائیل اور یہوداہ کی مشترکہ

سلطنت سے بڑا اور شمال میں پالمیرا تک اور مغرب میں مصر کے دریا تک پھیلا ہوا۔ (21) حزقی ایل حقیقی معنوں میں اپنے مادر وطن کی تفصیلات نہیں بتاتا بلکہ ایک روحانی سلطنت کا تصور تخلیق کرتا ہے۔ خدائی قوت یہواہ شم کے شہر سے اسرائیل کی سر زمین اور اس کے لوگوں پر صوفشاں ہے۔ دور دراز مقامات پر یہ صوفشاںی دھیمی پڑ جاتی ہے۔ معبد اس دنیا کا مرکز ہے۔ اگلا درجہ یا علاقہ شہر ہے جس نے معبد کی عمارتوں کو گھیرا ہوا ہے۔ پھر معبد اور شہر کے ارد گرد خصوصی علاقہ ہے جس میں مقدس افراد رہتے ہیں۔ ان میں بادشاہ، کاھن اور سرکاری عمال شامل ہیں۔ یہ علاقہ ان علاقوں سے زیادہ مقدس ہے جن میں اسرائیل کے بقیہ بارہ قبل رہتے ہیں۔ آخر میں اس مقدس علاقے کے بعد باقی تمام دنیا ہے جس میں دوسری قومیں آباد ہیں۔ (22) جس طرح خدا کلی طور پر سب سے الگ تھلگ مسکن میں ہے اسی طرح بنی اسرائیل بقیہ دنیا سے الگ اور ممتاز درجہ میں ہیں۔ یہ تصور اسی طرح کی زندگی پر مبنی تھا جو جلاوطن اسرائیلی بابل میں اپنے لئے چاہتے تھے۔ ہم نہیں جانتے کہ آیا حزقی ایل اس رویا کو ارضی یو شلم کا بنیادی خاکہ بنانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ بہر طور یہ واضح طور پر ایک یوٹو پیا تھی۔ اس مرحلہ پر ابھی شہر، معبد اور زیادہ تر سر زمین کھنڈرات پر مشتمل تھی اور فی الوقت اس کی تعمیر نوکی کوئی امید نہیں تھی۔ حزقی ایل کا ماڈل فی الحال تصوراتی بات تھی۔ جب اس کے پر اسرار گائیڈ نے رویا میں اسے مجوزہ معبد اور شہر کا نقشہ پوری تفصیل کے ساتھ دکھایا تو یہ نہیں بتایا تھا کہ نیا معبد اور شہر کس طرح تعمیر ہو گا چنانچہ اس رویا کا مقصد کچھ اور ہی محسوس ہوتا ہے۔

”اے آدمزاد۔ تو بنی اسرائیل کو یہ گھر دکھا، تاکہ وہ اپنی بد کرداری سے شرمندہ ہو جائیں اور اس نمونہ کو اپنا جائیں۔ اور اگروہ اپنے سب کاموں سے پشیمان ہوں تو اس گھر کا نقشہ اور اس کی ترتیب اور اس کے خارج و داخل اور اس کی تمام شکل اور اس کے تمام احکام اور اس کی پوری وضع اور تمام قوانین ان کو دکھا اور ان کی آنکھوں کے سامنے اس کو رکھتا کہ وہ اس کا کل نقشہ اور اس کے تمام احکام کو مان کران پر عمل کریں۔“ (حزقی ایل= 10:43-12:10)

اگروہ جلاوطنی میں اسی طرح رہنا چاہتے تھے جس طرح یو شلم میں یہواہ کی موجودگی میں رہتے تھے تو پھر انہیں اپنے آپ کو ایک مقدس علاقہ میں رکھنا تھا۔ ایسی صورت میں دوسری قوموں کے ساتھ

برادرانہ اختلاط اور مردک اور دوسرے غیر خداوں سے شناسائی خطرناک بات تھی۔ اسرائیل کے گھر کو لازمی طور پر خدا کا گھر بنایا جانا ضروری تھا کیونکہ خدا نے ان کے ساتھ رہنے کا انتخاب کر لیا تھا۔ اس مثالی مذہبی نقشہ پر غور کر کے اسرائیلی اس تقدیس کے معنی اور نوعیت کو سمجھ سکتے تھے جس کے مطابق ہر فرد اور ہر چیز کو اپنے اپنے مقام پر رہنا تھا۔ انہیں اپنی زندگیوں کے لئے نئے مرکز اور نئی فضا کی ضرورت تھی۔ جو جلاوطنوں کے لئے تسلیم و اطمینان کا سبب بنتی کیونکہ وہ بابل میں مسلسل اپنے آپ کو کنارے پر محسوس کر رہے تھے۔ نئی فضا انہیں احساس دلاتی کہ وہ اپنے کافر پڑو سیوں کے بر عکس حقیقت مطلق کے زیادہ قریب ہیں۔ در بدر لوگوں کے لئے مجوزہ شہر ایک ایسا مقام تھا جس میں وہ پورے افتخار کے ساتھ اطمینان بخش زندگی گزار سکتے تھے۔

اسرائیلیوں کے لئے مقدس طرز حیات کے خدو خالہ میں باقبال کی تیسرا اور چوتھی کتاب یعنی احبار اور گنتی میں نظر آتے ہیں۔ اسرائیل کی تاریخ کا ہنوں کے نکتہ نظر سے مرتب کی گئی تھی اور اس میں بہت کچھ حزنی ایل سے مطابقت رکھتا ہے۔ جب اسرائیلیوں کی بیابان نور دی اور کوہ سینا پر خدا کی طرف سے عطا کئے گئے قوانین کا ذکر توریت میں کیا جاتا ہے تو تقدیس کے مختلف درجوں کی وہی مشاہدہ سامنے آتی ہے جو حزنی ایل مرتب کرتا ہے۔ بیابان میں اسرائیلی خیموں کے وسط میں مظالم یعنی معبد کا شامیانہ ہوتا تھا۔ اور اس شامیانہ میں تابوت یہواہ یعنی عہد نامے کا صندوق اور یہواہ کا جلال ہوتا تھا۔ یہ مقدس ترین خیمه یا مقام تھا جس میں صرف حضرت ہارون آ جاسکتے تھے۔ وہ کاہن اعظم تھے اور مقدسوں کے مقدس تک رسائی کی سعادت صرف انہیں حاصل تھی۔ اسرائیلیوں کے بقیہ خیمے بھی مقدس تھے اور انہیں ہر قسم کی آلودگی سے پاک رکھنا ضروری تھا کیونکہ ان کے درمیان مقدس ترین خیمه موجود ہوتا تھا۔ اسرائیلیوں کی خیمه بستی سے باہر خدا کے بغیر لق و دق صحراء تھا۔ حزنی ایل کی طرح کتاب احبار بھی یہواہ کو متھر یعنی غیر جامد خدا کے طور پر پیش کرتی ہے۔ سفری خیمه میں یہواہ اپنے لوگوں کے ساتھ مسلسل سفر میں رہتا ہے۔ خرون، احبار اور گنتی کی کتابوں میں کہیں یو شلم کا ذکر نہیں ملتا۔ اس کا سبب جزوی طور پر غالباً یہ ہے کہ اسرائیلیوں کے ارض موعودہ میں داخل ہونے اور حضرت داؤد کے یو شلم پر قبضہ سے بہت پہلے داستان ختم ہو جاتی ہے۔ توریت کی پانچویں کتاب کے بر عکس تیسرا اور چوتھی کتاب میں کسی ایسی "جلگہ" کا تصویر پیش نہیں کیا جاتا جہاں یہواہ اپنا نام قائم کر سکے۔ ان کتابوں کا مولف P ایک بار پھر تسلیم مہیا کرتا ہے۔ جلاوطنوں کو یقین دلایا گیا کہ یہواہ اپنے لوگوں کے ساتھ رہے گا چاہے وہ کہیں بھی جائیں۔ اور خواہ جلاوطنی کی ابتری میں ہوں۔ کیا وہ صحرائے سینا کے بیابانوں میں ان کے ساتھ محسوس نہیں رہا تھا؟

یروشلم کے کاہنوں نے غالباً ہمیشہ اپنے مخصوص اور مخفی قوانین پر عمل کیا تھا۔ P کی وقارع نگاری دراصل انہیں معقول بنانے اور عوام تک پہنچانے کی ایک کوشش تھی۔ کیونکہ ان کی قدیم دنیا تو نبوکند نظر نے تباہ کر دی تھی۔ اور جلاوطنوں کو اب ایک نئی دنیا تعمیر کرنا تھی۔ تخلیق P کی نظر میں مرکزی حیثیت رکھتی تھی۔ لیکن اس نے تصادم کی داستان کی تراش خراش کر دی اور ان باتوں کو خارج کر دیا جو معبدوں سے متعلق تھیں اور مقدس مقامات کا تعین کرتی تھیں۔ ان کے برعکس اس نے ان داستانوں کے جو ہر کو لا اُقت توجہ سمجھا مثلاً ابتری کو کائنات تخلیق کرنے کا حکم دیا جانا۔ P کتاب پیدائش کے پہلے باب میں تخلیق کائنات کے بارے میں بتاتا ہے کہ، یہواہ سمندری عفریت لویاتاں سے کوئی خون ریز جنگ کئے بغیر دنیا کو وجود میں لایا۔ وہ کسی کشمکش کے بغیر ابتدائی عضر ”تو ہو وہو“ کو دوسرے عناصر سے الگ کر لیتا ہے۔ اسی طرح وہ رات کو دن سے، روشنی کو تاریکی سے اور سمندر کو خشکی سے الگ کر لیتا ہے۔ حدود متعین کر دی جاتی ہیں اور کائنات کے ہر جزو کو اس کا مخصوص مقام دے دیا جاتا ہے۔ یہی علیحدگی اور تخلیقی احکامات توریت میں اس مقام پر دیکھے جاسکتے ہیں جب اسرائیلیوں کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنی غذاوں میں گوشت کو دودھ سے الگ کر دیں اور سبت کے دن کو ہفتہ کے بقیہ دنوں سے الگ کر دیں۔ یہ علیحدگی ابتدائی میں یہواہ کی تخلیق کے طرز عمل کی تقليد تھی۔ مذہبی رسم کی یہ ایک نئی شکل تھی جس کے لئے کسی معبد اور تفصیلات بتانے والے کا ہن کی ضرورت نہیں تھی۔ ان کے برعکس انہیں تمام مرد اور عورتیں اپنی روزمرہ زندگی میں سر انجام دے سکتے تھے۔ خدائی تخلیق کا اعادہ مذہبی رسم کی صورت میں کرتے ہوئے وہ ایک نئی دنیا تعمیر کر رہے تھے اور جلاوطنی کی منتشر اور اکھڑی ہوئی زندگی میں ایک نظم اور ترتیب لارہے تھے۔

اوامر عشرہ یعنی شریعت موسوی کے دس احکامات میں سے بیشتر، چیزوں کو ان کے درست مقام پر رکھنے سے متعلق ہیں۔ ماہر عربانیات میری ڈگلس کہتی ہیں کہ جن چیزوں اور انسانوں کو ضابطہ قسیسی (عہد نامہ عتیق) میں ”ناپاک“، قرار دیا گیا وہ اپنی قسم یا زمرے سے باہر نکل آئیں اور ایک ایسے حلقوہ میں داخل ہو گئیں جو ان کا اپنا نہیں تھا۔ ”گندگی“ سے مراد ایسی چیز ہے جو غلط جگہ پر ہو۔ چاہے یہ، یہواہ کے معبد میں کوئی غیر خدا ہو یا کپڑوں پر پچھوندی، یعنی کوئی ایسی چیز جو عالم فطرت کو چھوڑ کر انسانوں کی اقلیم میں داخل ہو گئی ہو۔ موت عظیم ترین غلاظت ہے کیونکہ یہ دنیا کی ناپائیداری کا ڈرامائی انتباہ اور زندگی پر اختیار رکھنے میں ناکامی کی یاد دہانی ہے۔ (24) منظم کائنات میں زندہ رہنے کے لئے اسرائیلیوں کو ایک ایسی دنیا تعمیر کرنا تھی جس کا تصور حزنی ایل نے دیکھا تھا اور جس کا انحصار اس خدا پر تھا جو ان کے درمیان موجود ہو۔ جب معبد یروشلم میں برقرار تھا، یہ انہیں خدا سے رابطہ و رسانی کا ذریعہ مہیا کرتا تھا۔ اب اوامر عشرہ نے انہیں وہ گہر اعلق

مہیا کرنا تھا جو خدا کے ساتھ باغ عدن میں آدم و حوا کو میسر تھا اور وہ ان کے ساتھ چہل قدمی کرتا تھا۔ ان اوامر عشرہ کے ذریعے بابل میں جلاوطن اسرائیلیوں کو ایک نئی مقدس جگہ تخلیق کرنا تھی جو انتشار و ابتری کی بے ترتیبی اور بے قاعدگی کو قریب نہ آنے دے۔ لیکن ۱ صرف مذہبی پاکیزگی کو کافی نہیں سمجھتا تھا: اس کے مقدس ضابطہ میں سب سے ضروری وہ احکامات تھے جو دوسرے انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی ہدایت کرتے ہیں۔ مقدس سرز میں میں عبادت اور زراعت کے لئے احکامات کے ساتھ اس طرح کے سخت احکامات بھی موجود تھے۔

تم چوری نہ کرنا اور نہ دغاد بینا اور نہ ایک دوسرے سے جھوٹ بولنا ☆

تم فیصلہ میں ناراستی نہ کرنا۔ نہ تو غریب کی رعایت کرنا اور نہ بڑے آدمی کا لحاظ کرنا بلکہ راستی کے ساتھ اپنے ہمسایہ کا انصاف کرنا۔ ☆

اپنے لوگوں پر بہتان نہ لگانا اور اپنے ہمسایہ کی زندگی خطرے میں نہ ڈالنا۔ ☆
اپنے دل میں اپنے بھائی سے بعض نہ رکھنا۔ ☆

انتقام نہ لینا اور نہ اپنی قوم کی نسل سے کینہ رکھنا بلکہ اپنے ہمسایہ سے اپنے مانند محبت کرنا۔ (25) ☆

اگر کوئی پر دلیسی تیرے ملک میں تیرے ساتھ بودو باش کرتا ہو تو تم اسے آزار نہ پہنچانا۔
اسے اپنے ہم وطن کی مانند سمجھنا بلکہ تو اس سے اپنی مانند محبت کرنا اس لئے کہ تم ملک مصر میں پر دلیسی تھے۔ (26) ☆

(احبار۔ 19--16:::19)

سماجی انصاف ہمیشہ مقدس مقامات سے واپسی اور معبد کی مذہبی رسوم کے ساتھ لازم و ملزم رہا ہے۔ کنعانی دیو مالا میں، صیہون کے مذہب میں اور انبياء کے الہام میں ہر جگہ سماجی انصاف پر زور دیا جاتا رہا ہے۔ لیکن ۱ کچھ اور آگے بڑھ جاتا ہے۔ صرف انصاف نہیں محبت بھی ضروری ہے اور یہ جذبہ ایسے لوگوں کے لئے بھی ضروری ہے جن کا تعلق بنی اسرائیل سے نہیں اگرچہ غیر قوموں کو حزقی ایل کے مجوزہ مقدس شہر کے نقشہ میں شامل نہیں کیا جاتا لیکن انہیں اسرائیل کی محبت کے دائرہ میں سماجی انصاف کے سایہ میں ضرور رکھا جائے۔

چونکہ معبد کی یاد جلاوطنی میں ایک نصب لعین بن گئی تھی چنانچہ کاہنوں کو ایک نیا وقار مل گیا۔

Hzqi ایل اور P دونوں ہی اسرائیلی برادری میں مذہبی پیشوائیت کے کردار پر زور دیتے رہے۔ لیکن اسرائیل میں ابتدائی طور پر کاھن یا پروہت کی کوئی ذات اور جماعت نہیں تھی۔ لیکن معبد میں عبادت اور رسم سرانجام دینے اور قوانین کی وضاحت کی ذمہ داری بترا تھی لاوی قبیلہ کو سونپ دی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ بیان نور دی کے دوران تابوت یہواہ کو اٹھانے کی ذمہ داری اس قبیلہ کے سپرد تھی۔ Hzqi ایل نے کاھن کے کردار کو اور بھی کم کر دیا کیونکہ لا دیوں نے معبدوں میں بت پرتی کو جائز بنادیا تھا۔ چنانچہ Hzqi ایل نے انہیں معزول کر کے ایک ضمنی سا کردار تفویض کر دیا۔ اب انہیں نئے معبد میں معمولی فرائض سرانجام دینا تھے جن میں قربانی کے جانوروں کی تیاری، مذہبی گیت گانا اور دربانی شامل تھی۔ صرف وہ کاھن جو صدقہ کی اولاد میں سے تھے ان کو معبد کی عمارتوں میں داخل ہونے اور مذہبی رسم ادا کریںکی اجازت دی گئی۔ (27) یہ امتیازی حکم یو شلم میں مستقبل کے نزاع کا سبب بن سکتا تھا کیونکہ اسرائیل کی مستند مذہبی رسم کو صدقہ کی اولاد کے سپرد کیا جا رہا تھا جو خود ایک بیوسی تھا۔ کاھن کے منصب کو استثنائی نویعت دینا خدا کی بڑھتی ہوئی ماورائیت کی عکاسی کرتا ہے جس کا تقدس نا اتفاقوں اور غافلوں کے لئے ماضی کے مقابلے میں زیادہ خطرناک تھا۔

P اور Hzqi ایل دونوں ہی یہواہ کے معبد میں کاہنوں کے طرز عمل کا تعین تفصیل سے کرتے ہیں۔ مثلاً جب وہ ہیکل میں داخل ہوں تو اپنے کپڑے تبدیل کر لیں کیونکہ انہیں ایسے مقدس ترین مقام سے گزرنا ہے جو اعلیٰ ترین پاکیزگی کا تقاضا کرتا ہے۔ صرف کاہن اعظم کو خانہ اقدس (دیور) میں داخل ہونے کی اجازت ہوگی اور وہ بھی سال میں صرف ایک دفعہ ایسا کرنے کا مجاز ہوگا۔ (28) نئے ضابطوں نے اسرائیلیوں کی نظر میں یہواہ کے تقدس کو مزید بڑھا دیا۔ یہواہ ایک ایسی حقیقت تھا جو تمام انسانوں سے برتر اور ان کے تصورات سے ماوراء تھا۔

حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جس وقت مقدس معبد کے بارے میں اتنی تفصیلی ہدایات دی جا رہی تھیں اس وقت ان کو زیر عمل لانے کی نہ تو صورت موجود تھی اور نہ کوئی امید تھی۔ یو شلم کا معبد کہنڈر بن چکا تھا لیکن تخلیقی ذہن رکھنے والے جلاوطن پیروکار اس کو پوری طرح فعال ادارہ تصور کر رہے تھے۔ انہوں نے قانون ساز افراد کی ایک پیچیدہ مجلس بھی تشکیل دے دی تھی جو مذکورہ ہدایات کو باقاعدگی دے سکے۔ ہم اس کتاب کے آٹھویں باب میں دیکھیں گے کہ ریبوں (یہودی پروہتوں یا پادریوں) نے یہی کچھ کیا یہودی کتابیں، مقدس مقام اور یو شلم کی تقدیس کے حوالے سے جس صورت حال کا ذکر کرتی ہیں، تحریر کے وقت وہ موجود ہی نہیں تھی۔ جلاوطن اسرائیلیوں کے لئے یو شلم، اب ایک داخلی کیفیت تھی۔ یہ نجات کا ایک تصور تھا جو

ریاست یہوداہ میں اجڑے ہوئے شہر سے عملًا کوسوں دور بیٹھ کر تشكیل دیا جا سکتا تھا اور روحانی نجات حاصل کی جاسکتی تھی۔ تقریباً اسی زمانے میں ہندوستان کے سدھار تھے گومن نے جسے لوگ بدھا کے نام سے جانتے ہیں، یہی نزوان حاصل کیا کہ حقیقت میں داخل ہونا ممکن ہے اور اس کا ذریعہ استغراق اور جذبہ ترجم ہے۔ ضروری نہیں کہ یہ بلند تر جہت حاصل کرنے کے لئے کسی مندر، معبد یا مقدس مقام میں ذاتی طور پر پہنچا جائے۔ محوری دور کی روحانیت میں بعض اوقات پہ ممکن ہوتا تھا کہ مذہبی نشانات اور اشیاء کا سہارا لئے بغیر اپنی ذات کی گہرائیوں میں خدا سے رابطہ یا اس کی موجودگی کا تجربہ کر لیا جائے۔ ہمیں کچھ اندازہ نہیں کہ حزقی ایل اور P کی تحریروں کو ان کے ہم عصر کس طرح سمجھے ہوں گے۔ بلاشبہ انہیں امید تھی کہ ایک دن معبد پھر سے تعمیر ہو گا اور یروشلم ان کے اختیار میں دے دیا جائے گا لیکن یہ حقیقت اپنی جگہ موجود رہتی ہے کہ جب بالآخر انہیں یروشلم واپس جانے کا موقعہ ملا تو زیادہ تر جلاوطنوں نے بابل ہی میں ٹھہر نے کو ترجیح دی۔ انہیں اس بات نے پریشان نہ کیا کہ یروشلم میں ان کی جسمانی موجودگی ضروری ہے۔ دراصل اب انہوں نے صیہونی اقدار کو ایک نئے انداز میں بھانا سیکھ لیا تھا۔ یہودیت کے نام سے جس مذہب کو ہم جانتے ہیں اس کا جنم یہودیہ یا ریاست یہوداہ میں نہیں ہوا تھا بلکہ جلاوطنی کے دوران بابل میں ہوا اور اسے نجیاہ، عزر اور یوایل جیسے فرستادہ مقدس سرزمیں پر لائے۔

حزقی ایل اور P دونوں اس قابل تھے کہ اپنے مذہب کی ارضی علامتوں سے آگے دامنی حقیقت کو دیکھ سکیں، چنانچہ انہوں نے اس کی نشاندہی بھی کی۔ انہوں نے مستقبل کے لئے اپنی رویا میں یروشلم کا ذکر براہ راست نہیں کیا۔ P تو اپنا بیان ارض موعودہ کی دہلیز پر ختم کر دیتا ہے۔ ان کے خواب یقیناً یوپیاً تھے اور غالباً انہیں توقع نہیں تھی کہ یہ خواب ان کے اپنے زمانے میں شرمندہ تعبیر ہو سکیں گے۔ یروشلم کے لئے ان کا رویہ آج کل عید فتح کے اجتماعات میں اس کے ذکر سے مشابہہ ہو سکتا ہے۔ جس میں ”اگلے برس یروشلم“ کے الفاظ ہمیشہ مستقبل کے مسیحی دور کے لئے استعمال ہوتے ہیں، زمینی شہر کے لئے نہیں۔ جب حزقی ایل نے صیہون کو مراجعت کا تصور پیش کیا تو اس نے ایک نئی روحانی قلب ماہیت کو پیش نظر کھا۔ یہواہ اپنے لوگوں کو ”ایک نیادل“ اور ”ایک نئی روح“ دے گا۔ اسی طرح یرمیاہ نبی نے پیش گوئی کی تھی کہ ”ایک دن ایسا آئے گا کہ احکام خداوندی پھروں کی تختیوں پر نہیں لوگوں کے دلوں پر کندہ کئے جائیں گے۔“ (29) اگر انہوں نے کسی نجات کو پیش نظر کھا ہوتا تو یہودیت کو تشكیل دینے والے اس بات میں یقین نہ رکھتے کہ اس کی تکمیل محض سیاسی پروگرام سے ممکن ہے۔ وہ اچھی طرح سمجھتے تھے کہ نجات کا مطلب صرف نیا معبد اور نیا شہر نہیں ہے۔ البتہ یہ آزادی کی علامتوں بن سکتے ہیں۔

پھر اچانک انہیں محسوس ہوا کہ سیاسی نجات تو سامنے ہے۔ یقیناً یہوداہ کے جلاوطنوں کے لئے بہت جلد ممکن ہوگا کہ وہ اپنے آباوجدادی سر زمین کو لوٹ جائیں اور یروشلم کو پھر سے تعمیر کر لیں۔ بابل کے لوگ جو نبوکد نظر کے جانشین بیٹھے شاہ نابونیدس کی حکمرانی سے چھٹکارا پانا چاہتے تھے وہ فارس کے نوجوان بادشاہ سائرس دوم کی معزکہ آرائیوں کو انتہائی دلچسپی سے دیکھ رہے تھے۔ 550 قم میں میدیا کو فتح کرنے کے بعد وہ اپنے لئے ایک وسیع تر سلطنت تشکیل دے رہا تھا۔ 541 قم میں بابل پوری طرح سائرس کے مقبوضہ علاقوں میں محصور ہو گیا۔ مردک کے پروہت سائرس کے پر اپکینڈہ سے متاثر ہو رہے تھے۔ وہ سمجھتے تھے۔ کہ نابونیدس نے ان کے مذہب کو نظر انداز کر رکھا ہے۔ دوسری طرف سائرس وعدہ کر رہا تھا کہ وہ سلطنت کے تمام معبدوں کو بحال کر دے گا اور دیوتاؤں کا احترام کرے گا۔ وہ بتاہ شدہ شہروں کو پھر سے تعمیر کرے گا اور اپنی سلطنت میں ایک عالمی امن بحال کرے گا۔ یہ پیغام گمنام یہودی بنی کو بھی متاثر کر گیا۔ اس بنی کو یسیعاہ ثانی کہتے تھے۔ یسیعاہ ثانی نے سائرس کو مسیحا قرار دے دیا اور کہا ”اسے یہوا نے یروشلم اور معبد کی تعمیر نو کے خصوصی کام کے لئے مأمور کیا ہے۔“ یسیعاہ ثانی جبی طور پر صیہون کی پرانی دیومالا اور طریق عبادت کی طرف راغب ہوا۔ اپنے آله کار، سائرس کے ذریعے، یہواہ ایک نئی تخلیق اور ایک نیا خروج ظہور میں لانے والا تھا۔ وہ اسرائیل کے موجودہ دشمنوں پر اسی طرح غالب آئے گا جس طرح وہ لویاتاں اور رہاب پر غالب آیا تھا۔ پھر جلاوطن یہودی اس صحراء بور کر کے صیہون میں داخل ہوں گے جو اپنی شیطانی قوت کھو چکا ہے۔⁽³⁰⁾

یہ مراجعت تمام بنی نوع انسان کے لئے نتیجہ خیز ہو گی۔ واپس آنے والے جلاوطن ایک نئے عالمی نظام کے بانی ہوں گے۔ جب وہ ایک دفعہ یروشلم میں واپس آجائیں گے تو فوراً معبد تعمیر کر لیں گے اور یہواہ کا جلال اس کے مقدس پہاڑ پر واپس آجائے گا۔ اس کی تخت تشنی اس کے شہر میں ”تمام قوموں کی موجودگی میں“ ہو گی۔⁽³¹⁾ یروشلم کے مذہب میں طویل عرصہ پہلے دعویٰ کیا گیا تھا کہ یہواہ محض اسرائیل کا بادشاہ نہیں پوری دنیا کا بادشاہ ہے۔ اب سائرس کی وجہ سے یہ تصور عملی حقیقت میں تبدیل ہونے والا تھا۔ دیگر دیوتا خوف سے لرز رہے تھے۔ بابل کے اہم ترین دیوتائیل اور بنوجھک تھے۔ ”ان کے بت جانوروں اور چوپايوں پر لدے ہیں۔ جو چیزیں تم اٹھائے پھرتے تھے، تھکے ہوئے چوپايوں پر لدی ہیں۔“⁽³²⁾ (یسیعاہ=46:1) دیگر دیوتا جو یہواہ سے بر تر محسوس ہوتے تھے۔ اب دنیا کی تمام قومیں اسرائیل کی اطاعت پر مجبوری کر دی جائیں گی انہیں زنجیروں میں جکڑ کر یروشلم کی طرف لا یا جائے گا۔ پھر وہ مجبور ہو کر تسلیم کر دیں گی کہ:

” تمہارے ساتھ خدا ہے جس کا کوئی حریف نہیں
اس کے سوا کوئی معبود نہیں ” (33) (یسیعہ = 45:14)

صیہونی مذہب نے ہمیشہ یہی دعویٰ کیا تھا کہ یہوا اکتوتا خدا ہے۔ اب یسیعہ ثانی کی بصیرت نے توحید کو نئے انداز میں روشناس کرایا تھا۔ اس عالمی فتح کے حصول کے ساتھ یو شلم کی شان و شوکت ماضی کے مقابلے میں کئی گنازیادہ ہو جائے گی۔ اس میں قیمتی پھر جگہ میں گے ۔۔۔۔۔

۔۔۔۔۔ اور تیری بنیاد نیلم سے ڈالوں گا۔
میں ترے کنگروں کو لولوں اور تیرے بچاٹکوں
کوشب چراغ اور تیری فصیلوں کو پیش قیمت
پھروں سے بناؤں گا۔ (34)

(یسیعہ 12-13:54)

539 قم کے موسم خزاں میں یہ امید یہیں برآئے کا امکان ایک قدم اور قریب آگیا جب سائرس نے بابلیوں کو دریائے دجلہ کے کنارے آبیں کے مقام پر شکست دی۔ ایک ماہ بعد سائرس بابل میں داخل ہو گیا۔ مردک کے نمائندے کی حیثیت سے اس کی تخت نشینی کی رسم ادا کی گئی۔ یہ رسم ایسا غالہ کے معبد میں سرانجام پاتی۔ پھر اس نے وہ سب کچھ کر دکھایا جس کا وہ وعدہ کرتا رہا تھا۔ اگست اور ستمبر 538 قم کے دوران آشوریوں کی دیوتاؤں کے وہ سب بت ان شہروں کو واپس بھیج دیئے گئے جنہیں بابلی اپنی فتوحات کے دوران اٹھا لائے تھے۔ ان شہروں میں دیوتاؤں کے معبد پھر سے تعمیر کر دیئے گئے۔ اس کے ساتھ ہی سائرس نے ایک فرمان جاری کیا کہ یو شلم کا معبد دوبارہ تعمیر کیا جائے گا اور اس کا نہ ہی ساز و سامان اور فرنچیپ واپس کر دیا جائے گا۔ سائرس کی فارسی سلطنت آشوریوں اور بابلیوں سے مختلف انداز میں چلائی گئی۔ سائرس نے اپنے مفتوحہ علاقوں کو ایک مخصوص دائرے میں خود محترمی دے دی۔ یہ انداز حکمرانی آسان اور موثر تھا اس طرح بغاوتوں اور سرکشی کا خطرہ کم ہو گیا۔ دیوتاؤں کے معبدوں کی تعمیر کسی بادشاہ کے بنیادی فرائض میں شامل تھی جاتی تھی۔ اس طرح سائرس غالباً یہ سمجھتا تھا کہ ملکوم قو میں اس کی احسان مند اور شکر گذار ہو جائیں گی اور اسے دیوتاؤں کی خوشنودی بھی حاصل ہو جائے گی۔

اپنے وعدہ کے مطابق بابل میں تخت نشینی کے چند ماہ بعد سائرس نے سونے چاندی کے وہ تمام

برتن اور قیمتی اشیاء جو نبوک دن پر یروشنم سے لوٹ لایا تھا یہوداہ کے ایک امیر شیس بضر کے حوالے کر دیں۔ اسرائیل اور یہوداہ کے 42360 اسیروں کو ان کے غلاموں اور دوسروں کے ساتھ یروشنم کی طرف روانہ کیا۔ (35) اگر جلاوطنی سے واپس آنے والے اسیروں کے کانوں میں یسوعاہ ثانی کی پیش گوئیاں گونج رہی تھیں تو یہوداہ میں واپس آ کر انہیں سخت مایوسی ہوتی۔ ان میں اکثریت ایسے افراد کی تھی جو جلاوطنی میں پیدا ہوئے تھے۔ اور بابلیوں کی شان و شوکت اور اعلیٰ طرز حیات میں پروان چڑھے تھے۔ انہیں یہوداہ کا علاقہ اور وہاں کی زندگی بے کیف اور اجنبی محسوس ہوتی۔ سب سے پہلے تو واپس آنے والے جلاوطنوں کو اجر جسے شہر بسانا تھے۔ چنانچہ نئے معبد کی تعمیر کا سوال ابھی بہت دور تھا۔ کچھ لوگ تو واقعی یروشنم میں مقیم ہو گئے جو ابھی تک کھنڈ رہتا۔ باقیہ لوگوں کی اکثریت یہوداہ اور سامرینہ کے آرام دہ علاقوں میں آباد ہو گئی۔ یروشنم میں لوگ زیادہ تر جنوب کے مضائقاً علاقے میں آباد ہوئے جو 586 ق م تک بے آباد تھا۔ صرف چند ایک نے پرانے شہر کا انتخاب کیا۔

جلاوطنوں کے بارے میں فارس کے بادشاہ دارا کے دوسرے سال یعنی 520 ق م تک مزید کچھ سننے کو نہیں ملتا۔ یہوداہ میں اب شیس بضر واپس آنے والے جلاوطنوں کا نگران نہیں تھا۔ اس کے ساتھ کیا ہوا، تاریخ کچھ نہیں بتاتی۔ تعمیراتی کام رک چکا تھا۔ لیکن یہ جوش و خروش دارا کی تخت نشینی کے کچھ عرصہ بعد پھر سے زندہ ہو گیا۔ شاہ یہوا کی بن کا پوتا زربابل یروشنم میں آگیا۔ اس کے ساتھ یروشنم کے معبد کے آخری کاٹھن کا پوتا یشواع بھی بابل سے واپس آیا۔ زربابل کو ریاست یہوداہ میں دارا کی طرف سے ناطم مقرر کیا گیا۔ وہ دارا کا نمائندہ اور داؤ دخاند ان کا رکن تھا۔ اس کی شخصیت نے لوگوں میں نئی روح پھونک دی۔ تمام مہاجرین یروشنم میں جمع ہو گئے۔ اور قربان گاہ کو اس کی پرانی جگہ پر تعمیر کیا گیا۔ جب یہ مکمل ہو گئی تو وہاں قربانی پیش کی جانے لگی اور روایتی تہوار منعقد کئے جانے لگے۔ لیکن عمارت بن جانے کے باوجود یروشنم میں زندگی ابھی تک ایک جدوجہد سے کم نہ تھی۔ فصلیں اچھی نہیں تھیں۔ معيشت ناگفتہ بہتی تھی۔ چنانچہ بھوکے پیٹ معبد کی تعمیر کے لئے جوش و جذبہ سر درہا۔ اگست 520 ق م میں نبی حجی نے لوگوں کو بتایا کہ ان کی ترجیحات بالکل غلط ہیں۔ فصلیں اس وقت تک بار آؤ نہیں ہوں گی جب تک مکمل معبد تعمیر نہیں ہو جاتا۔ یہواہ کا گھر ارض موعودہ کی زرخیزی کا ذریعہ ہے۔ اپنے لئے گھروں کی تعمیر اس وقت تک کوئی معنی نہیں رکھتی جب تک یہواہ کا گھر نہیں بنادیا جاتا۔ (36) چنانچہ مہاجرین ایک بار پھر یروشنم کے معبد کی تعمیر کے لئے سرگرم ہو گئے۔

520 ق م کے موسم خزاں میں دوسرے معبد کی بنیاد میں رکھ دی گئیں سکوتوہ کے تہوار پر ضیافت

کے دوران خصوصی حلف اٹھایا گیا۔ کاہنوں نے مقدس علاقے میں جلوس نکالا۔ لاوی ان کے پیچھے تھے اور مقدس گیت گارہے تھے اور جھانجے بخارے تھے۔ ان میں سے کچھ بوڑھے تھے اور انہیں معبد سلیمانی کی شان و شوکت یاد تھی۔ جب انہوں نے معبد کے مقام کو چھیل میدان کی صورت میں دیکھا تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ (37)

MAP (نقشہ)

تعمیراتی کام شروع ہوا لیکن یہ کام آغاز ہی سے مایوس کن تھا۔ بہت سے لوگ ہمت ہار بیٹھے جو نے ان کی ہمت بندھانے کی کوشش کی۔ اس نے انہیں یقین دلایا کہ نیا معبد پرانے معبد سے اعلیٰ تر ہو گا۔ بہت جلد یہواہ یہاں سے ساری دنیا پر حکمرانی کرے گا۔ یسوعاہ ثانی نے جس نے طرح بتایا تھا۔ سب کچھ اسی طرح ہو گا۔ زربابل مسیح بنے گا۔ وہ یہواہ کی طرف سے گوم لیعنی ساری دنیا پر حکومت کرے گا۔ (38) جو کاساتھی ذکر یا بھی اسی بات کی تائید کرتا تھا۔ وہ بھی اس دن کی پیشین گوئی کر رہا تھا جب یہواہ صیہون پر رہنے کے لئے آئے گا۔ اور اپنے دو مسیحاوں کے ذریعے اپنی بادشاہت قائم کرے گا۔ ذکر یا کا کہنا تھا کہ یہواہ کے مسیحا زربابل بادشاہ اور یشوع کا حصہ ہیں۔

تعمیر نو کے ضمن میں ضروری تھا کہ یروشلم کی دیواریں دوبارہ نئے تعمیر کی جائیں تاکہ شہر ان لوگوں کو اپنی آغوش میں لے سکے جو بہت جلد جو ق در جو ق وہاں آنے والے تھے۔ (39) لیکن سب لوگ کھلے شہر کے حق میں نہیں تھے۔ ادھر سامرینہ (اسرائیل کی پرانی ریاست) کے لوگوں نے جب سنا کہ یہواہ کے نئے معبد کی تعمیر کا کام پوری سنجیدگی سے جاری ہے تو وہ زربابل کے پاس آئے اور اپنی خدمات پیش کیں۔ بابل کے مولفین ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ لوگ ان بیرونی آباد کاروں کی اولاد تھے جنہیں آشوریوں نے 722 ق م میں وہاں آباد کیا تھا۔ ان میں سے کچھ واقعی بنی اسرائیل سے بھی تعلق رکھتے ہوں گے اور بارہ قبیلوں میں سے ہوں گے اور بقیہ وہ یہودی ہوں گے جن کے باپ دادا 586 ق م کے بعد بھی وہیں آباد تھے۔ فطری بات ہے کہ یہواہ کے یہ عقیدت مند صیہون کی تعمیر نو میں دلچسپی رکھتے تھے۔ لیکن زربابل نے سختی کے ساتھ ان کی پیش کش مسترد کر دی (40) اور کہا کہ ”مہاجرین خود ہی“، ”حقیقی اسرائیل“، تعمیر کریں گے۔ شاہ سائرس (بابل اسے خورس کے نام سے یاد کرتی ہے) کی طرف سے تعمیر نو کی ذمہ داری صرف انہیں سونپی گئی ہے۔

چنانچہ بعد میں یہواہ کے مذکورہ عقیدت مند، بھائی نہیں بلکہ دشمن قرار دیئے گئے۔ ان سب کو ”ملک کے لوگ“ کہا گیا۔ بابل میں حرقی ایل اور P کی نظر میں بنی اسرائیل کے بارہ قبائل ایک خاندان اور مقدس لوگ تھے۔ صرف غیر یہودی اور غیر خدا پرستوں کو اجنبی قومیں قرار دیا گیا تھا اور نئے معبد اور نئے شہر کے نقشہ میں انہیں سب سے الگ اور باہر رکھا گیا تھا۔ لیکن واپس آنے والے جلاوطنوں نے تنگ نظری کا مظاہرہ کیا اور ملک کے لوگوں کو اجنبی قرار دے کر انہیں اپنا دشمن بنالیا۔ چنانچہ ملک کو امن اور ہم آہنگی ملنے کی بجائے یو شلم ارض مقدس میں ایک تنازعہ معاملہ بن گیا۔ بابل کے مصنفوں ہمیں بتاتے ہیں کہ ”ملک کے لوگوں“ نے یہوداہ کے لوگوں کی مخالفت شروع کر دی اور تعمیراتی کام میں رکاوٹیں ڈالنے لگے۔ (41) انہوں نے فارس کے حکام کی ہمدردیاں حاصل کرنے کی کوشش کی اور 486 قم میں انہوں نے فارس کے بادشاہ اخسوسیریں (Xerxes) کو شکایت کی کہ یہودی، یو شلم شہر کی دیواریں اجازت کے بغیر تعمیر کر رہے ہیں۔ قدیم دنیا میں شہر کی دیواریں تعمیر کرنے کا مطلب شہنشاہ وقت کے خلاف بغاوت کا اقدام ہوتا تھا۔ ملک کے لوگوں نے سامرینہ کے حاکم کے ذریعے بادشاہ اخسوسیریں کو لکھا:

اگر یہ شہر بن جائے اور فضیل تیار ہو جائے تو
وہ خراج چنگی یا محصول نہیں دیں گے اور آخر
بادشاہوں کو نقصان ہو گا۔۔۔۔۔

(عزرا 4-14)

بادشاہ نے فوراً کام روکا دیا۔ اور پھر یہ کام اس وقت تک رکارہا جب تک اختتام کے محل (بابل کے تاریخی کتب خانے) سے شاہ خورس (سامرس) کا وہ حکم نامہ نہ مل گیا جس کے تحت یو شلم شہر اور معبد کی تعمیر کی اجازت دی گئی تھی۔

اگرچہ دوسرے یعنی نئے معبد کی تعمیر بتدربن جاری رہی۔ لیکن ملک کے لوگوں سے مخاصمت کے بعد زر بابل کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چلتا۔ غالباً جو اور ذکر کیا کی طرف اس اسے ”مسیح“، قرار دیئے جانے کی باقتوں نے اہل فارس کو چونکا دیا ہو گا۔ ممکن ہے جب شاہ فارس، دارا 519 میں اس ملک سے گزر رہ تو اس نے زر بابل کو معزول کر دیا۔ اس کے بعد خاندان داؤد کے کسی اور رکن کو یہوداہ کا ناظم نہ بنایا گیا۔ مسیح کا خواب پورا نہ ہونے کے باوجود مہاجرین 23 مارچ 515 قم کے معبد مکمل کرنے میں کامیاب رہے۔ اسے معبد سلیمانی کے مقام پر ہی بنایا گیا تھا تاکہ مقدس مقام کی روایت برقرار رہے۔ یہ پرانے نقشے کے

مطابق تین حصوں یعنی علام (ڈیوڑھی) ہیکل اور دیور (خانہ اقدس) پر مشتمل تھا۔ البتہ اب اسے ایک پتھر میں دیوار کے ذریعے شہر سے الگ کر دیا گیا۔ بچاٹک سے بیرونی صحن تک دو رویہ راہداری تھی۔ صحن کے ارد گرد دفاتر، گودام اور کاہنوں کے گھر تھے۔ ایک اور دیوار صحن کو اندر ورنی حصے سے الگ کرتی تھی جہاں قربان گاہ بنائی گئی تھی۔ اس دفعہ صیہون پر کوئی محل نہ بنا�ا گیا کیونکہ یہوداہ کا کوئی بادشاہ نہ تھا ایک اور اہم فرق یہ تھا کہ اب دیور (خانہ اقدس) خالی تھا۔ تابوت یہواہ غائب ہو چکا تھا اور اس کا کوئی سراغ نہ مل سکا تھا۔ لیکن یہ خلابے معنی نہیں تھا اور یہواہ کی ماورائیت کی علامت تھا۔ اب لوگ جان چکے تھے کہ یہواہ کو کسی زمینی علامت اور انسانی تصور میں پیش نہیں کیا جاسکتا۔ لیکن کچھ لوگ اس عدم موجودگی کو منفی انداز میں دیکھتے تھے۔ یسیعاہ ثانی کی پرشکوہ امید میں پوری نہ ہو سکیں۔ اگر یہواہ کا جلال یہاں ظہور کرتا ہے اور خانہ اقدس میں رہائش اختیار کر لیتا ہے تو کسی کو خبر ہی نہ ہوگی۔ اب غیر خدا پرست لوگوں کے بارے میں کوئی ڈرامائی الہام نہیں تھا چنانچہ غیر قوموں کو پابrezنجیر لائے جانے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ اب خدا اور دنیا کے درمیان ایک وسیع فاصلے کا نیا تصور راجح ہو گیا اور نئے معبد کی تعمیر کے ابتدائی برسوں میں کسی ماورائی قوت کا یہاں آنا ایک مضخلہ خیز بات محسوس ہوتی تھی۔

یہواہ کہتا ہے

آسمان میرا تخت ہے

اور زمین میرے پاؤں کی چوکی

تم میرے لئے کیسا گھر بناوے گے

اور کون سی جگہ میری آرام گاہ ہوگی؟ (42)

(یسیعاہ 1-2:66)

سبھی لوگ صرف امید ہی کر سکتے تھے کہ کسی روز یہواہ آسمانوں سے اتر آئے گا اور ان سے ملاقات کرے گا۔ ماضی میں پرشکوہ معبدوں کے طرف کھنپے چلے آئے کے برعکس اب یہواہ سادگی اور حزن و ملال کی نضا کا رسیا تھا۔ (43) پرانے معبد میں عبادت پر شور، مسرت انگیز اور ہنگامہ پرور ہوا کرتی تھی۔ لیکن نئے معبد میں خاموشی اور سنبھیگی غالب آگئی۔ جلاوطنی کے دوران مہاجریوں میں احساس جرم پیدا ہو چکا تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ یروشلم کی تباہی کے ذمہ داروں خود ہیں چنانچہ نئے معبد میں عبادت کا انداز دل شکستگی اور ندامت کا مظہر تھا۔ اس کا اظہار خاص طور پر یوم کفارہ کو دیکھنے میں آتا جب کاھن اعظم علامتی انداز میں

لوگوں کے گناہ ایک بکری پر ڈال دیتا پھر اسے صحرائیں دھکیل دیا جاتا۔ لیکن اس عمل نے ایک بار پھر اسرائیلیوں کو روح القدس سے رابطہ کے قابل بنادیا۔ یوم کبریا یوم کفارہ سال میں ایک دن تھا جب کاہن اعظم لوگوں کا نمائندہ بن کر دیور میں داخل ہوتا۔ کفارے کا غصہ معبد کے صحن میں روزانہ پیش کی جانے والی قربانیوں میں بھی شامل تھا۔ لوگ اپنے گناہوں کے کفارے کے لئے اپنی استطاعت کے مطابق بیل، بھیڑیں، بکریاں یا کبوتر لاتے اور معبد میں قربانی کے لئے پیش کرتے۔ وہ اپنا ہاتھ جانور کے سر پر رکھتے جس کا مطلب تھا کہ وہ اسے یہواہ کی نذر کر رہے ہیں۔ جب جانور کو ہلاک کر دیا جاتا تو اس کے جسم کے کچھ حصے قربانی پیش کرنے والے فرد کو دیئے جاتے اور پھر قربانی پیش کرنے والا فرد (مرد یا عورت) انہیں اپنے گھر والوں یا دوستوں کے ساتھ مل کر استعمال میں لاسکتا تھا۔ اجتماعی ضیافت زمین پر آسمانی ہم آہنگی کا عکس ہوتی تھی۔

لیکن جس طرح یسوعاہ ثانی نے پیشین گوئی کی تھی۔۔۔ یہواہ کبھی صیہون پر نہ آیا۔ لوگ مسلسل اس دن کا خواب دیکھتے رہے جب وہ یروشلم میں ”ایک نئی جنت اور ایک نئی دنیا“ تخلیق کرے گا۔ پرانی امیدوں نے دم توڑا اور یروشلم آخری نجات کی علامت میں واپسی پر ہوگا۔ یروشلم تمام شہروں سے مختلف ہوگا جہاں ہر فرد ایک طویل اور آسودہ زندگی بسر کر سکے گا۔ ہر فرد اپنی متعین جگہ پر ہوگا۔ تب شہر میں کوئی گرینہیں ہوگا اور ماضی کے تمام مصادب بھلا دیئے جائیں گے۔ غیر قومیں اس شہر کے امن پر حیرت کریں گی کیونکہ یہاں ایسی زندگی ہوگی جو جنت میں ہو سکتی ہے۔ (44) لیکن دوسرے لوگ کچھ زیادہ ہی پر اگنده خیال تھے۔ شہر میں سماجی مسائل تھے۔ بہت سے لوگ کافروں کی رسوم ادا کر رہے تھے۔ انبیاء اس غلط روؤش کی نشاندہ ہی کر رہے تھے۔ (45) مہاجریوں کے طرز عمل سے الجھنیں پیدا ہو رہی تھیں۔ سوال یہ تھا کہ کیا ”خدا کا شہر“ سب کے لئے کھلانہیں ہونا چاہیے۔ زکریا نے تو یہی کہا تھا۔ ”یروشلم کے دروازے اجنیبوں، اچھوتوں اور بیجڑوں کے لئے بھی کھلنے چاہیں جنہیں کاہن ”نپاک لوگ“ قرار دیتے تھے۔ یہواہ نے اعلان کیا تھا کہ۔۔۔ میرا گھر سب لوگوں کے لئے عبادت کا گھر ہوگا۔۔۔ ”ایک دن وہ باہر کے لوگوں کو شہر میں لائے گا اور انہیں کوہ صیہون پر قربانی پیش کرنے کی اجازت دے گا۔“ (46)

پانچویں صدی قبل مسیح میں یروشلم یہودیوں یا غیروں کے لئے مکمل طور پر مذہبی مرکز بن سکا۔ شہر میں ابھی تک کھنڈروں اور بے آباد کانوں کی اکثریت تھی۔ 458 قبل مسیح میں فارس کے شاہ اخسوسیریں کی معزولی کے موقع پر سلطنت فارس میں پیدا ہونے والے خلفشار نے یروشلم کو بھی متاثر کیا۔ 445 قم میں شہر کی حالت زار کی خبریں فارس کے دار الحکومت سوسا (سوں) میں پہنچیں تو وہاں رہنے والی یہودی برادری کو سخت صدمہ ہوا۔ یہودی برادری کا ایک داشمند نجیماہ فارس کے با دشہ ارتختشتا اول کا ساقی تھا۔ یروشلم کی بری حالت کی خبر سن کروہ بہت دل گرفتہ ہوا اور کئی دن تک اپنی قوم

اور لوگوں کے گناہوں پر کڑھتا اور روتار ہا پھر اس نے شاہ فارس سے درخواست کی کہ اسے یہوداہ جانے اور اپنے آبادا جداد کا شہر تعمیر کرنے کی اجازت دی جائے۔ بادشاہ نے اجازت دے دی اور نجیاہ کو یہوداہ کا نظام مقرر کر دیا۔ اس کی مدد و اعانت کے لئے علاقے کے دوسرے حکام اور گورنروں کو خطوط ارسال کر دیئے۔ (47) ارتختشاہ کا خیال تھا کہ نجیاہ یہوداہ میں استحکام لانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ چنانچہ مصر کے اس قدر قریب فارس کا لائق اعتماد ”برج“ سلطنت کے تحفظ میں اضافہ کرے گا۔

عزرا اور نجیاہ کی کتابیں متحده غیر متعلقہ با توں پر مشتمل میں جنہیں مولف نے ایک دوسرے سے مربوط کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کا خیال ہے کہ عزرا اور نجیاہ ہم عصر تھے۔ اس نے عزرا کے آمد یروشلم میں نجیاہ سے پہلے دکھادی ہے۔ لیکن ایسے ٹھوس شواہد موجود ہیں جو بتاتے ہیں کہ عزرا بہت بعد میں اور 398 ق م میں بادشاہ ارتختشاہ دوم کے زمانے میں یروشلم میں آیا۔ (48) جب کہ نجیاہ اس سے نصف صدی پہلے 445 ق م میں فارس میں دارالحکومت سو سن سے روانہ ہوا۔ مولف نے نجیاہ کے منصف کو مذہبی نوعیت دی ہے کیونکہ اس زمانے میں مشرق قریب میں شہر کے قلعہ بندی جیسا تعمیراتی کام مقدس فریضہ سمجھا جاتا تھا۔ جب نجیاہ یروشلم پہنچا تو پہلے تین دن تک مضافاتی بستی میں ٹھہرا اور پھر ایک رات خاموشی سے شہر کی دیواروں کی خستہ حالی کا ذکر کرتا ہے۔ مثلاً وہ ٹوٹی ہوئی دیواروں اور جلنے پہاڑوں کا ذکر کرتا ہے۔ وہ اس دوران گھوڑے پر سوار تھا اور ایک مقام پر اسے آگے بڑھنے کے لئے راستہ نہ ملا۔ (49) اگلے روز وہ قوم کے بزرگوں سے ملا اور انہیں شہر کی شرمناک حالت کو ختم کرنے اور صورت حال بہتر بنانے کا مشورہ دیا۔ پورے شہر نے اس کام میں شرکت کے لئے خود کو پیش کر دیا۔ کاھن اور عام آدمی سب شانہ بشانہ کام کرنے لگے اور مخف 52 دنوں میں شہر کی نئی دیواریں ایسٹاڈہ ہو گئیں۔ یہ ایک خطرناک کام تھا۔ اس دفعہ ”ملک کے لوگوں“ (ایم۔ ھا۔ آرز) سے تعلقات میں مزید خرابی آئی۔ نجیاہ کو مسلسل مقامی حکام کی فتنہ پروازیوں کا مقابلہ کرنا پڑا۔ ان میں سامرنیہ کا گورنر سعبلط، اس کے افسروں میں سے ایک طوبیاہ اور ادوم کا گورنر ششم عربی شامل تھے۔ صورت حال اتنی کشیدہ تھی کہ معماروں کو ہر وقت دشمنوں کے حملہ کا خطرہ رہتا تھا۔ لوگوں نے اس طرح کام کیا کہ مسلسل ایک ہاتھ میں تلوار یا ہتھیار سنبھالے رکھا۔ معمار اپنے پاس ہی تلوار رکھتے۔ (50) مغربی پہاڑی پر مشنہ محلہ (مضافاتی بستی) کو مستحکم اور قلعہ بند کرنے کی کوشش نہ کی گئی۔ نجیاہ نے (حضرت) داؤد کے وقت کے شہر کو ہی دوبارہ تعمیر کیا۔ جو اوپیل کی پہاڑی اور دادی پر آباد تھا۔ باہل بتاتی ہے کہ شہر کی مغربی دیوار کے ساتھ بازار بنایا گیا اور شہر کو کس انداز میں مرتب کیا گیا۔ کاھن اور معبد کے خادم معبد کے پاس ہی پرانے اوپیل قلعے کے مقام پر بسائے گئے۔ دستکار اور ہنرمند جنوب مشرقی حصہ میں مقیم تھے جب کہ سپاہ کو شماں علاقے میں رکھا گیا۔ کیونکہ یہ سب سے زیادہ خطرے کی زد میں رہتی تھی۔ نجیاہ نے ایک شہر پناہ یا گڑھی بھی تعمیر کروائی۔ غالباً یہ معبد کے شمال مشرق میں بنائی گئی۔

25 عیل (ابتدائی ستمبر) 445 ق م کوئی دیواریں مکمل ہوئیں۔ چنانچہ شہر پناہ کی تقدیس کی رسم ادا کی گئی۔ قرب و جوار کے دیہات سے تعلق رکھنے والے لادیوں اور بھجن منڈلیوں، کو دو بڑے گروہوں میں تقسیم کیا گیا جو شہر کی دیواروں کے باہر مختلف سمتیوں سے مذہبی گیت گاتے ہوئے جلوس کی صورت میں معبد کے صحن میں پہنچے۔ مذہبی گیتوں اور خوشی کے نعروں کی آوازیں میلیوں دور سنی گئیں۔

نحیانہ یروشلم کے لئے ایک نئی امید لے کر آیا تھا۔ لیکن ابھی شہر کے لوگوں کی توجہ کا مرکز نہ بن سکا تھا۔ وہاں نئے خاندان نہیں

آرہے تھے دراصل لوگ ابھی شہر میں ہونے سے بچکار ہے تھے۔ کیونکہ شہر پر ”ملک کے لوگوں“ (ایم۔ ھا۔ آرز) کے حملہ کا خطہ برقرار تھا۔

(نقشہ) MAP

جو لوگ شہر میں مقیم تھے انہیں نئے پھانکوں (دوازوں) پر مسلسل پھرے کے لئے انتظام کرنا پڑا۔ کچھ عرصہ بعد نحیانہ نئے لوگوں کو شہر میں لانے میں بالآخر کامیاب ہو گیا۔ اس نے قرمع کے ذریعے ہر دسویں آدمی کو شہر میں مقیم ہونے کی اجازت دی۔ اور دس ہزار نئے افراد کو شہر میں آباد کیا۔ (51) یہ سب لوگ بنی اسرائیل کے مختلف قبیلوں سے تعلق رکھتے تھے۔ یروشلم نحیانہ کے بارہ برسوں کے دوران صوبے کے دارالحکومت مصفاہ سے بڑا ہو گیا۔ چنانچہ یروشلم میں صوبے کے حاکم کی رہائش گاہ تعمیر کی گئی۔ بتدریج یہ شہر یا سٹی یہوداہ کے لوگوں کا مرکز بن گیا۔ لیکن خود یروشلم کے اندر اقتدار کی کشمکش چل رہی تھی۔ کچھ کاہنوں کے ذاتی مراسم ”ملک کے لوگوں“ کے ساتھ تھے جن میں سنباط شامل تھا۔ وہ نحیانہ کے خطرناک ترین مخالفوں میں سرفہرست تھا۔ نحیانہ کو شہر کے دولت مند افراد کے حرص و طمع کو بھی دبانا پڑا جو غریبوں کے کھیتوں اور باغوں کے ساتھ ساتھ ان کے بیٹے اور بیٹیوں کو بھی خرید لیتے تھے۔ جب لئے گئے قرضے اور ان کا سود نہ ادا کر پاتے تو دولت مند لوگ ان کی املاک اور اولاد پر تصرف میں لے لیتے۔ نحیانہ نے عوامی حمایت کے ساتھ کام اور سرداروں کو ایک حلف کے ذریعے مجبور کیا کہ وہ سود لینا چھوڑ دیں۔ (52) یہ اقدام یروشلم کو غریبوں کی پناہ گاہ بنانے کی کوشش تھی۔ لیکن اس کوشش نے اشرافیہ کو نالاں کر دیا۔ طبقہ اشرافیہ نے پڑوسی شہروں اور دیہات کے سرداروں کو اپنا حلیف بنانا شروع کر دیا۔ پورے علاقے میں زبردست کشیدگی ابھر آئی۔ سنباط، طوبیا اور جسم کا موقف تھا کہ شہر کی قلعہ بندی کے پیچھے سیاسی عزم اور ذاتی اقتدار کی منصوبہ بندی کا فرماتھی۔

اپنے منصب کے دوسرے دور میں جو 432 ق م میں شروع ہوا۔ نحیانہ نے ایسے قوانین نافذ کئے جن کے تحت

یہودیوں کو مقامی لوگوں کی بیٹیوں سے شادی کرنے سے روک دیا گیا۔ اس نے الیاس ب کا حسن کے بیٹے یویدع کو یہودی برادری سے خارج کر دیا کیونکہ وہ سنبھل کا داما د تھا۔ الیاس ب کا حسن نے سامریہ میں پناہ لے لی جہاں اس نے دوسرے ناراض لوگوں سے اتحاد کر لیا۔ مخلوط شادیوں کا سوال یہوشلم میں سنگین مسئلہ بن گیا۔ نجمیاہ کی اس قانون سازی کے پچھے نسلی تطہیر کا کوئی جدید تصور نہیں تھا بلکہ اس نے مقدس جغرافیہ کی تشکیل تھی جس کا تصور جلاوطنی کے دورانِ حرثی ایل نے پیش کیا تھا۔

” خدا کے مقدس لوگوں کو دوسرے لوگوں سے الگ رہنا چاہئے۔“ (53)

جلاوطنی کے دورانِ بابل میں یہوداہ کے لوگوں کے پیش نظر اسرائیل میں یہواہ کی موجودگی میں اپنی الگ شناخت کا تحفظ تھا۔ یہی تناؤ ان کی سماجی زندگی میں بھی نظر آتا ہے۔ توریت انہیں اپنے خاندان سے باہر شادی کی اجازت تو دیتی تھی لیکن بہتر یہی سمجھا گیا تھا کہ ایسے لوگوں میں شادیاں کی جائیں جو قریبی عزیز ہوں۔ خاندان کے اندر شادی کو پسندیدہ جب کہ اجنبیوں سے شادیوں کے بندھن کو ناپسندیدہ قرار دے دیا گیا تھا۔ خاندان سے باہر شادی کا مطلب اپنے آپ کو اس مقدس حلقہ سے خارج کر دینے کے مترادف تھا جو خدا سے تعلق رکھتا تھا۔ یہ حلقہ سایہ خداوندی سے محروم وہ بیابان تھا جس میں یوم کفارہ کو گناہوں سے لدے جانور کو دھکیل دیا جاتا تھا۔ نجمیاہ کا یہ قانون بنی اسرائیل کو پاک اور دوسری قوموں سے مختلف بنانے کا اقدام تھا۔ اس طرح اجنبی لوگوں کو دور رکھ کر یہودی شناخت کی تکمیل کی جاسکتی تھی۔ لیکن یہوداہ میں مہاجرین کو کہا جا رہا تھا کہ وہ ایسے لوگوں کو مسترد کر دیں جو بھی اسرائیلی خاندانوں کے رکن تھے۔ اب انہیں اجنبیوں اور دشمنوں کا کردار دیا جا رہا تھا۔

پانچویں صدی قبل مسیح کے دورانِ بابل میں یہودی جلاوطن ایک اہم مذہبی

اصلاح میں مصروف تھے جو یہوشلم کے مذہب کی صورت میں سامنے آئی۔ ان دنوں بھی شناخت کا مسئلہ در پیش تھا۔ جلاطنوں نے اپنے بچوں کو بابلیوں کے نام دینے کی بجائے اپنے روایتی اور خاندانی ناموں کی طرف رجوع کر لیا۔ توریت کے تکمیل کے دوران نیا کردار ادا کرنا شروع کر دیا اور لوگوں کی نظر میں معبد کی جگہ اپنا مقام بنالیا۔ توریت کے احکام اور قوانین پر عمل درآمد کر کے بابل کے یہودی اپنے آپ کو ایک مقدس برادری بناسکتے تھے جو زمین پر مصدقہ خدا کے نظام کی پناہ میں تھے۔ لیکن اس کا مطلب یہ تھا کہ عام یہودیوں کی مذہبی پیچیدگیاں سمجھنے کے لئے علماء کی ضرورت تھی۔ ان علماء میں سے ایک عزر اتھا۔ اس نے اپنے آپ کو یہواہ کے قوانین سمجھنے کے لئے وقف کر دیا تھا تا کہ بنی اسرائیل کو اس کے مذہبی قوانین اور آداب سکھا سکے۔ (54)

398 قم میں شاہ ارخششاہ دوم نے یہوداہ میں خصوصی مشن کے تحت بھیجا تھا۔ اس کو اپنے ساتھ یہودیوں کی طرف سے یروشلم کے معبد کے لئے تھا اف بھی لے جانا تھے۔ یروشلم پہنچنے پر اسے ایک انکواڑی کرنا تھی جس کا مقصد یہوداہ اور یروشلم میں ان کے خدا کے قوانین کی بنیاد پر صورت حال کا تجزیہ اور پھر یہاں کے یہودیوں کو خدا کے قوانین کے مطابق ہدایات دینا تھیں۔ (55) سلطنت فارس کی دیگر حکوم قوموں کے قوانین بھی اس وقت زیر غور تھے۔ ارخششاہ یہودی معبد کے طرز عبادت کا حامی تھا۔ اسے یقین دلایا گیا تھا کہ یہ مذہب اس کی سلطنت کے مفادات اور سلامتی کو یقینی بناسکتا ہے۔ بابل میں ایک قانونی ماہر کی حیثیت سے عزرا نے توریت اور فارس کے قانونی نظام کے درمیان کوئی ارتباط پیدا کر لیا ہوگا اور ارخششاہ کی خواہش ہوگی کہ اسے یہوداہ میں نافذ کر کے اس کے عملی صورت دیکھ لی جائے۔ عزرا نے یروشلم میں توریت کے قوانین کا نفاذ کرنا تھا۔ اور اسے ملک کا قانون بنانا تھا۔ (56)

بانبل کے مصنفین کی نظر میں عزر را کامشن اس کی قوم کی تاریخ میں ایک اہم موڑ ثابت ہوا۔ یہوداہ کی طرف عزرا کے سفر کو ایک نیا خروج اور قانون دہندہ کے طور پر اسے نیا مسوی بنادیا گیا۔ وہ ایک فاتح کی حیثیت سے یروشلم میں آیا لیکن ان باتوں کو دیکھ کر خوف زده ہو گیا جو کاہنوں اور لاڈیوں کی مقامی لوگوں کے ساتھ چاقلاش کی صورت میں اور یہودیوں کی طرف سے اجنبی قوموں میں شادیوں کی صورت میں اس کے سامنے آئیں۔ یروشلم کے لوگوں نے دیکھا کہ بادشاہ کا نمائندہ اپنے بال نوج کر کسی ماتم گسار کی طرح سارا دن گلی میں بیٹھا رہا۔ پھر اس نے مہاجرلوں کے تمام ارکان کو ایک بڑے اجلاس میں طلب کیا۔ ”جو یہودی اس اجلاس میں شرکت نہیں کرے گا اسے برادری سے خارج کر دیا جائے گا اور اس کی جائیداد ضبط کر لی جائے گی۔“ نئے سال کے دن عزر اور توریت اٹھائے ”پانی کے چھالک“ پر پہنچا اور لکڑی کے ایک منبر پر کھڑا ہو گیا۔ اس کے ارد گرد شہر کے ممتاز لوگ تھے۔ اس نے اجتماع کے سامنے قوانین پڑھے اور ان کی وضاحت کی۔ (57) ہم ٹھیک طور پر کچھ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے لوگوں کے سامنے کیا پڑھا۔ محض چند ایک قوانین یا پوری کتاب توریت، لیکن اس نے جو کچھ بھی لوگوں کو سنایا، ان کے لئے حیران کن تھا کیونکہ انہوں نے یہ سب کچھ پہلے کبھی نہیں سناتھا۔ وہ اس قدر ملول اور افسر دہ ہوئے کہ عزر اکو نہیں یاد دلانا پڑا کہ آج تھوار کا دن ہے۔ اس نے لوگوں کو بتایا کہ توریت حکم دیتی ہے کہ سکوت ہے کہ جھونپڑیوں میں رہا کریں اور اپنے اجداد کی چالیس برس تک بیابان نور دی کو یاد کریں۔

”---- اور اپنے سب شہروں میں اور یروشلم میں یہ اعلان اور منادی کرائیں کہ پہاڑ پر جا کر زیتون کی ڈالیاں اور جنگلی زیتون کی ڈالیاں اور مہندی کی ڈالیاں اور کھجور کی ڈالیاں اور کھجور کی شاخیں اور گھنے درختوں کی ڈالیاں جھونپڑیاں بنانے کو لاو جیسا لکھا ہے۔

سولوگ جا جا کر ان کو لائے اور ہر ایک نے اپنے گھر کی حچت پر
اور اپنے احاطہ میں اور پانی پھاٹک کے میدان میں اپنے لئے
(نجمیاہ 16:8-17)

اس نے تہوار نے بوسیوں کے قدیم سکوٹھ کے میلے کی جگہ لے لی۔ اب اس تہوار کو جس انداز میں منایا گیا وہ
خروج کی یاد دلاتا تھا۔ اگلے سات روز تک شہر میں میلے کا سماں رہا۔ ہر شام کو لوگ اکھٹے ہو کر عزرا کی تفسیر سنتے۔
اگلا اجتماع زیادہ ملوں کر دینے والا ثابت ہوا۔ (58) یہ معبد کے سامنے چوک میں منعقد ہوا۔ ”مہینہ نواں تھا اور
اسی کی بیسویں تاریخ تھی اور سب لوگ اس معاملہ اور بڑی بارش کے سبب سے خدا کے گھر کے سامنے کے میدان میں بیٹھے
کانپ رہے تھے۔ تب عزرا کا ہن کھڑا ہوا اور ان سے کہنے لگا کہ تم نے خطا کی ہے اور اسرائیل کا گناہ بڑھانے کو اجنبی
عورتیں بیاہ لی ہیں۔ عزرا نے لوگوں کو حکم دیا کہ وہ اپنی اجنبی بیویوں کو واپس بھیج دیں۔ ہر فرد کے معاملے کو جانچنے کے لئے
خصوصی کمیٹیاں تشکیل دی گئیں۔ عورتوں اور بچوں کو مہاجرین کے گھروں سے نکال کر ”ملک کے لوگوں“ کے پاس واپس بھیج
دیا گیا۔ اب بنی اسرائیل کی رکنیت صرف اور صرف ان افراد تک محدود کر دی گئی جو با بل کو جلاوطن ہونے والے افراد کی اولاد
تھے یا پھر ان افراد کو خانوادہ اسرائیل میں شامل ہونے کی اجازت دی گئی جو توریت کی اطاعت پر تیار تھے۔ توریت اب
یو شلم کا سرکاری قانون بنادی گئی۔ جو لوگ برادری سے خارج کر دیئے گئے۔ ان کی گریزی زاری کتاب یسوعیاہ میں ہمارے
لئے محفوظ کر دی گئی۔

ابراهام ہمیں قبول نہیں کرتا
اور اسرائیل ہمیں پہچانتا نہیں
لیکن اے یہوا، اے خداوند
تو ہمارا باب ہے
ہم عرصہ دراز سے ان لوگوں کی طرح ہیں
جن پر تو نے کبھی حکومت نہیں کی
ہم ایسے لوگ ہیں جو تمہارے نام کی نسبت نہیں رکھتے (59)

(یسوعیاہ 19:63-17)

MAP (نقشہ)

”اسرائیل ہمیں تسلیم نہیں کرتا۔“ یروشلم سے نکالے گئے یہودی فرقہ ایم ہار عارز (ملک کے لوگوں) نے کوہ گرزیم پر اپنا معبد تعمیر کر لیا یہ لوگ ایک مختلف قسم کی یہودیت پر عمل پیرا ہیں۔

”اجنبی لوگوں،“ کونکال باہر کرنے کی بے رحم پالیسی یروشلم کی تاریخ کا نمایاں حصہ بن گئی۔ اگرچہ یہ اسرائیل کی انتہائی اہم روایات کے برعکس اور منافی تھی لیکن زیر عمل رہی۔ بہت سے لوگوں نے اس طرز عمل کی مخالفت کی۔ وہ اس تصور کے ہی خلاف تھے۔ وہ سامرینہ اور ارد گرد کے علاقوں کے لوگوں سے قطع تعلق نہیں کرنا چاہتے تھے۔ انہیں خوف تھا کہ اس طرح یروشلم الگ تھلگ اور تہائی کاشکار ہو جائے گا اور اسے زبردست اقتصادی نقصان پہنچے گا۔ لیکن بقیہ لوگوں نے اس نئے قانون کا پروجہ خیر مقدم کیا اور پوری مذہبی عقیدت کے ساتھ اس پر عمل درآمد کیا۔ عزرا کے بعد یروشلم میں آنے والی نسلوں کے بارے میں ہم بہت کم معلومات رکھتے ہیں۔ لیکن یہ جانتے ہیں کہ اگلی آٹھ نسلوں میں یہ قانون معبد کی طرح مرکزی حیثیت اختیار کئے رہا۔ یہوداہ کے لوگوں نے اسے پوری مذہبی تکریم کے ساتھ اپہنانے رکھا۔ جب یہ دونوں مقدس اقدار خطرے میں پڑیں تو یروشلم میں بحران آگیا جس نے شہر کی نئی یہودی شناخت کو دھنڈ لادیا۔

**Virtual Home
for Real People**

www.HallaGulla.com

حوالہ جات

4:23-26	یرمیاہ	-1
74:3-7	زبور	-2
137:9	زبور	-3
79:4	زبور	-4
41:4-6	یرمیاہ	-5
4:5-10	نوح	-6
1:8-9	نوح	-7
25:27-30	سلطین	-2
2	عزرا	-9

10. ELIAS J. BICKERMANN, The Jews in the Greek age.
(CAMBRIDGE, MASS & LONDON, 1988), PP.47-48.
11. JONATHAN Z. SMITH, Earth & Gods, pp. 119.

137:4 زبور -12

13. BICKERMAN-The Jews in the Greek age-pp.241-242
- | | | |
|--------------------|--------|------|
| 1:26-28 | حزقیاہ | - 14 |
| 43:1-6 | حزقیاہ | - 15 |
| 31:34-36 | حزقیاہ | - 16 |
| 40:2, 48:35 | حزقیاہ | - 17 |
| 47:11-12 | حزقیاہ | - 18 |
| 41:4, 40:48 | حزقیاہ | - 19 |
| 40:28-31, 40:17-19 | حزقیاہ | - 20 |
| 47:13-23 | حزقیاہ | - 21 |
| 48:9-29 | حزقیاہ | - 22 |
| 43:11 | حزقیاہ | - 23 |
24. MARYDOUGLAS, Purity and Danger (LONDON,1966).
- | | | |
|-------------------------|--------|------|
| 19:11-18 | احباد | - 25 |
| 19:33-34 | احباد | - 26 |
| 44:11-16 | حزقیاہ | - 27 |
| 44:16-31 | حزقیاہ | - 28 |
| 36:27-27 31:31-34 | یسیعah | - 29 |
| 40:3-4, 44:20, 41:19-20 | یسیعah | - 30 |
| 52:10 | یسیعah | - 31 |
| 46:1 | یسیعah | - 32 |
| 45:14 | یسیعah | - 33 |
| 54:13-15 | یسیعah | - 34 |
| 2:64 | عزرا | - 35 |
| 2:6-9 | جی | - 36 |
| 3:12-13 | عزرا | - 37 |

20:3, 2:6-9	حجی	-38
8:3, 4:14, 2:9	زکریا	-39
4:1-3	عزرا	-40
4:4	عزرا	-41
66:1	یسیعہ	-42
66:2	یسیعہ	-43
65:16-25	یسیعہ	-44
65:1-10, 56:9-12	یسیعہ	-45
56:7	یسیعہ	-46
2:8, 1:3	نحیمیاہ	-47

-48۔ نحیمیاہ، یروشلم کے تمام سابقہ گورزوں کی مذمت کرتا ہے۔ لیکن یہ بات
ناقابل فہم ہے کیونکہ ان میں عزرا بھی شامل ہے۔ جب عزرا شہر میں
آیا تو یہ خوب آسودہ اور گنجان آباد تھا۔

2:3	نحیمیاہ	-49
4:11-12	نحیمیاہ	-50
7:4-5	نحیمیاہ	-51
5	نحیمیاہ	-52

53. SETH KUNIN, Judaism, in Jean Holm with John Bowker, eds, Saered places (LONDON 1994) pp. 121-22.

7:6	عزرا	-54
	عزرا	-55
(JEWS in Greek Age, P. 154) ' 7:21	عزرا	-56
8	نحیمیاہ	-57
10	عزرا	-58
63:10-19	یسیعہ	-59



چھٹا باب

انطا کیہ



333 قبل مسیح میں جب مقدونیہ کے سکندر نے فارس کے شاہ دار اسوم کو دریائے اسوس کے کنارے شکست دی تو یروشلم کے یہودیوں کو خت صدمہ ہوا کیونکہ وہ گزشتہ دوسرا سال سے فارس کے وفادار غلام تھے۔ پہلی صدی عیسوی کا یہودی مورخ جوزیفس فلاویس بتاتا ہے کہ ابتداء میں کا ہن عظم نے سکندر کی اطاعت کرنے سے انکار کر دیا۔ کیونکہ اس نے آخری شاہ فارس کے ساتھ وفاداری کا عہد کیا ہوا تھا لیکن ایک روایا اور پھر سکندر کے وعدہ کے بعد کہ اس کی تمام تر سلطنت میں یہودیوں پر ان کے اپنے قوانین کے مطابق حکومت کی جائے گی، کا ہن عظم نے اطاعت قبول کر لی۔ (1) لیکن حقیقت یہ ہے کہ سکندر کبھی بھی یروشلم میں نہیں آیا۔ پہلے پہل یونانیوں کے تسلط نے یہوداہ کے لوگوں کی زندگی کو بہت کم متاثر کیا۔ توریت ہی ان کے صوبے کا سرکاری قانون رہی اور انتظامیہ بھی وہی رہی جو فارس کی حکومت کے دوران کام کر رہی تھی، لیکن پھر یہودی یونانی تہذیب سے متاثر ہونے لگے۔ کا ہن عظم کے ساتھ سکندر کے طرز عمل کی داستانیں زبان زد خاص و عام ہیں۔ کچھ یہودی فطری طور پر یونانیوں کی ثقافت سے گریزاں رہے۔ وہ اپنے مذہبی رسم رواج سے وابستہ رہنا چاہتے تھے۔ لیکن بقیہ لوگوں کو یونانی تہذیب نے مسحور کر لیا اور یہ انہیں اپنی روایات کے قریب محسوس ہوئی۔ ان دونوں

گروہوں کے درمیان کشکاش پیدا ہو گئی جو اگلے تین سو برسوں تک یروشلم کی تاریخ میں نمایاں رہی۔

یونانی تہذیب سکندر کی فتوحات سے کئی عشرے پہلے مشرق قریب میں بذریعہ داخل ہو رہی تھی۔ علاقے کی پرانی ثقافتیں دم توڑ رہی تھیں اور ان کی جگہ لینے والی ثقافتوں میں یونانی اثرات غالب تھے۔ لیکن یروشلم کے یہودیوں کا غالباً یونانیوں کے ساتھ براہ راست کوئی رابطہ نہیں تھا۔ یونانی تہذیب کے جو عناصر ان تک پہنچے تھے وہ فونیقیا کے ساحل پر واقع شہروں کے توسط سے پہنچ پائے تھے۔ یروشلم ایک بار پھر دور افتادہ مقام بن گیا۔ اس کے حیثیت بند کھاڑی جیسی ہو گئی۔ یہ کسی بھی مرکزی تجارتی شاہراہ پر واقع نہیں تھا جو تجارتی قالے قریبی شہروں غزہ اور پتیرہ میں ٹھہر تھے انہیں یروشلم میں کبھی کوئی کشش محسوس نہ ہوئی۔ دراصل یہ ایک غریب شہر تھا اور پھر یہاں سے کوئی خام مال بھی دستیاب نہیں تھا جو کسی صنعت کے کام آسکے۔ اپنے آپ میں مگر اس شہر کی زندگی معبد اور قدیم توریت کے گرد گھومتی تھی۔ یروشلم نے کبھی بین الاقوامی سیاست میں دلچسپی نہیں لی تھی اور علاقے میں مغرب سے آنے والی جدیدیت سے بے نیاز خود کو اپنے مااضی میں گم کر کھا تھا۔

یہ سب کچھ اس وقت بدلتا گیا جب 13 جون 323ق م کو سکندر بابل میں موت سے شکست کھا گیا۔ اس کا مکملہ وارث بہت چھوٹا بچہ تھا۔ چنانچہ سکندر کی موت کے فوراً بعد سلطنت پر قبضہ کرنیکے لیے جریلوں کے درمیان تصادم شروع ہو گیا۔ اگلے دو عشروں تک سکندر کے مفتوحہ علاقوں میں اس کے چھ جانشینوں کی لڑائیوں کے وجہ سے کھلبی مچی رہی۔ اہم درمیانی علاقہ ہونے کی وجہ سے یہودیہ (ریاست یہوداہ) پر مسلسل ان فوجوں کے حملے ہوتے رہے جو ایشیائے کوچک یا شام سے مصر کا رخ کرتی رہیں۔ ان کے ساتھ ساز و سامان اسلحہ، بیویاں اور غلام ہوتے تھے۔ یروشلم ان برسوں کے دوران کم از کم چھ مرتبہ مفتوح ہوا۔ اس کے باشندوں کو شدت کے ساتھ احساس ہوا کہ امن و سکون کی تہائی کا دورختم ہو چکا ہے۔ یروشلم کو پہلی دفعہ یونانیوں سے ایک بتا کن، تشدد پسند اور جنگجو قوم کی حیثیت سے واسطہ پڑا۔ مقدونی جانشین پورے کنعان میں آتش نشاں کی طرح پھٹ پڑے، انہیں مقامی لوگوں کی قطعاً کوئی پرواہی نہیں تھی۔ ان کی تاخت و تاراج سے صرف وہ لوگ محفوظ رہے جو ان کے کام آسکتے تھے۔ یونانی فلسفی، آرٹ، ادب اور جمہوریت جس نے مغربی دنیا کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا تھا، ابتلا کے ان برسوں میں یروشلم کے لوگوں کو قطعاً متأثر نہ کر سکے۔ وہ بھی یقیناً ہندوستانی دانشوروں کی طرح یہ رائے رکھتے تھے کہ ”یونانی طاقتوں مگر بد طینت ہیں۔“

301 قبل مسیح میں یہودیہ، امریہ، فونیقیہ اور پورا ساحلی علاقہ سکندر کے جانشین بطیموس اول ساٹر نے اپنے قبضہ میں لے لیا۔ اس نے مصر کو اپنی قوت و اقتدار کا مرکز بنایا۔ اگلے ایک سو برس تک یروشلم بطیموسیوں کی گرفت میں رہا۔ انہوں نے شام کے صوبہ کو شمال سے ہونے والے حملوں کی راہ میں ایک رکاوٹ کے طور پر استعمال کیا۔

زیادہ تر قدیم حکمرانوں کی طرح بطیموسیوں نے بھی مقامی امور میں زیادہ دخل نہ دیا۔ انہوں نے ایک چکدار لیکن موثر سیاسی نظام متعارف کرایا تاکہ سلطنت کے مختلف حصوں سے وہاں کی ضرورت کے مطابق مختلف انداز میں نمٹا

جائے۔ صوبے کے کچھ علاقوں شاہی جاگیریں تھیں اور یہ براہ راست شاہی خاندان کے تصرف میں تھیں۔

یونانیوں نے روم کے ساحل پر نئی بندرگاہیں تعمیر کیں جن میں یافا اور ”مینارسترتیو“ شامل ہیں۔ بیت شان، فلوتیرہ اور پیلا میں نئی چھاؤنیاں بھی بنائی گئیں۔ بقیہ تمام صہبہ اپنے معاملات میں خود مختار بنادیا گیا۔ الصور، صیدا، تریپولی اور بلوس کے فونقی شہروں سعیج تر آزادی اور مراعات سے نوازے گئے۔ یونانی آباد کارشام میں آئے اور انہوں نے یہاں یونانی طرز کی شہری جمہوریتیں قائم کیں۔ غزہ، سیکم، مریسہ اور عمان جیسے شہروں کو بالآخر آزاد مقامی حکومتوں میں تبدیل کر دیا گیا۔ یونانی سپاہی، تاجر اور مہم جو مشرق سے حاصل ہونے والے مفادات کو براہ راست حاصل کرنے کے لیے ان شہروں میں سیالب کی طرح اٹھائے۔ جن مقامی لوگوں نے یونانی زبان بولنا اور لکھنا سیکھ لیا انہیں ہمیں قرار دے کر فوج اور انتظامیہ کے کمتر مناسب پروفائز ہونے کی اجازت دے دی گئی۔

یونان کی سیاسی اور جمہوری ”اکائیاں“، اس علاقے کی قدیم اور گہری جڑیں رکھنے والی روایات کے لیے بالکل نئی اور جذبی تھیں۔ یونانی ثقافت سیکولر تھی۔ یہ ایک ایسے روشن خیال طبقہ پر انحصار کرتی تھی جو مذہب اور سیاست دونوں سے آزاد تھا۔ یہ لوگ نہ تو کسی معبد کے زیر اثر ہوتے تھے اور نہ محل کے مفادات کو خاطر میں لاتے تھے۔ خدا یا کسی ماورائی قوت کے مقرر کردہ حکمران یا کاہنوں کی اشرافیہ کے کسی فرد کی مطلق العنانیت کی بجائے یونانی جمہوریائیں حکومت کو مذہب سے بالکل الگ رکھتی تھیں۔ نئے یونانی شہروں میں جمنازیم بھی بنائے گئے جن میں نوجوانوں کو یونانی نظریات کے مطابق ڈھنی اور جسمانی تربیت دی جاتی۔ یہاں نوجوان یونانی ادب پڑھتے اور سخت فتنم کی عسکری اور جسمانی تربیت سے گزرتے۔ ان تربیت گاہوں کو جنبازہ یا جمناسٹک گھر کہا جاتا تھا۔ یہ ایک ایسا ادارہ تھا جو یونانیوں کو اپنی وسیع تر سلطنت کے دورافتادہ مقامات سے مربوط رکھتا۔ اس ادارے کے اپنے مذہبی نظریات تھے۔ اولمپیک کھیلوں کی طرح نوجوانوں کے درمیان اتحدیٹک مقابلے ایک مذہبی فریضہ سمجھے جاتے تھے۔ لیکن یہ ہر کوئی اور ہیر میں جیسے دیوتاؤں کی یاد میں منعقد کئے جاتے تھے۔ عام طور پر مقامی لوگوں کو جمناسٹک گھروں میں داخلے کی اجازت نہیں تھی۔ یہاں ہونے والی سرگرمیاں صرف مراعات یافتہ لوگوں تک محدود تھیں اور یہ لوگ ظاہر ہے صرف یونانی لنسیل ہوا کرتے تھے۔ لیکن بظیموسی حکمران ”دوسرا لوگوں“ کو بھی قبول کر لیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ سکندر یہ کے یہودیوں کو یہاں کے جمناسٹک گھروں میں تربیت دی جاتی تھی اور وہ یونانی اور یہودی ثقافت کا ایک خوبصورت امترانج اپنانے میں کامیاب ہو گئے۔ یونانی مادہ پرست تھے چنانچہ بعض اوقات پریشان کن ثابت ہوتے تھے لیکن بہت سے مقامی لوگوں کو اس نئی ثقافت میں تسلیم کی۔ کچھ لوگوں کے لئے یہ ثقافت اسی طرح ناقابل مزاحمت تھی جس طرح آج ترقی پذیر ممالک کے لوگوں کے لیے مغربی ثقافت ہے۔ یہ پرکشش بھی تھی اور پسندیدہ بھی۔ اس نے بہت سی ممنوعات کو ختم کر دیا۔ اور اسی وجہ سے بہت سے لوگوں کے لیے یہ پسندیدہ اور آزادی سے ہمکنار کرنے والی تھی۔

آغاز میں یروشلم ان نئے تصورات سے متاثر نہ ہوا۔ یہ یونانیوں کی جمہوری نہیں تھی۔ یروشلم کے بہت سے شہری اس بات سے خوف زدہ تھے کہ یہواہ کے شہر میں ہیر میس کو تو قیر دی جا رہی ہے اور نوجوان بے لباس ہو کر ورزشیں کرتے ہیں۔ بطیموسیوں کو یہودیہ میں کچھ زیادہ دلچسپی نہیں تھی۔ یہودی خود کو ایک ممتاز قوم سمجھتے تھے جن کی عنان حکومت گیروزیا ”بزرگوں کی ایک مجلس“ کے پاس تھی۔ یہ مجلس یروشلم میں بیٹھ کر امور مملکت چلاتی تھی۔ توریت بدستور اس قوم کا سرکاری قانون تھی۔ یہ صورت حال وہی تھی جو اہل فارس کے اقتدار کے دنوں میں پائی جاتی تھی۔ اس کو یوں بھی کہا جا سکتا تھا کہ یہودیہ ایک معبد کی ریاست تھی جس پر کاہنوں کی حکومت تھی۔ بطیموسی یہاں کسی مقامی اجنبی (اویکونوموس) کو اپنا نامہ مندہ مقرر کر دیتے تھے جو یہودیہ کے معاملات پر نظر رکھتا، یہ انتظام خاص طور پر جنگ کے دنوں میں ہوتا تھا۔ تب سپاہیوں کی ایک نفری بھی شہر میں متعین کر دی جاتی لیکن ریاست کے دیگر علاقوں میں یہودیوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جاتا تھا۔ بطیموسیوں یا یونانیوں کی مصری حکومت کے ساتھ یہودیہ کا واحد رابطہ ہر سال بیس ٹینٹ (یونانیوں اور رومیوں کا زر حساب) خراج کی ادائیگی کی صورت میں ہوتا تھا۔

لیکن یروشلم کا بالآخر یونانی دنیا میں دھکیل دیا جانا ناگزیر تھا۔ پورا علاقہ یونانی اثرات کی لپیٹ میں آرہا تھا چنانچہ یروشلم کب تک خود کو مغلول رکھ سکتا تھا۔ یونانی حکمران بطیموس دوم (246-282 قم) کے دور اقتدار میں یروشلم کا ایک شہری جوزف (یوسف) حکومت کی طرف سے پورے صوبہ شام کے محاصل کی وصولی کے لیے منصب دار بننے میں کامیاب ہو گیا۔ بیس سال سے زیادہ عرصہ تک وہ ملک کا طاقتوترین فرد تھا۔ جوزف کا تعلق طوبیاں قبیلہ سے تھا۔ یہ ایس طوبیاں منصب دار کی اولاد تھا جس نے خمیاہ کے لیے مسائل پیدا کئے تھے۔ طوبیون نے اپنی زندگیاں توریت کی حدود میں رکھنے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ اب بھی غیر ملکیوں سے رابطوں کو پسند کرتے تھے اور یروشلم کی ”مزہبی اشرافیہ“ کے سامنے سرجھ کانے سے گریزاں تھے۔ ماورائے اردن میں عمان کی طوبیائی جا گیر بطیموسیوں کی ایک اہم عسکری کالونی تھی۔ جوزف یونانی دنیا میں خود کو تو ان محسوس کرتا تھا۔ اس نے یروشلم میں یونانیوں کا اقتصادی اور مالیائی نظام متعارف کرایا اور پہلا یہودی ساہوکار یا بنکار بن گیا۔ بہت سے یہودی جوزف کی کامیابی پر نازاں تھے۔ مورخ جوزیفس کا کہنا ہے کہ جوزف ایک عیار، حیلہ ساز اور ماہر سا ہو کا رہتا۔ (2) لیکن وہ اس کی تعریف کرتے ہوئے بتاتا ہے کہ اس نے اپنی قوم کو غربت سے نکالا اور اسے اس معاشی آسودگی کا حصہ دار بنانے میں کامیاب ہوا جو یونانی یہاں لائے تھے۔

طوبیاہ قبیلے کے لوگ یروشلم میں یونانی تہذیب و تمدن کے باñی بن گئے۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کا شہر ان قدیم روایات سے جان چھڑا لے جو ترقی کی راہ میں

رکاوٹ اور محدود مذہبی دائرے میں لوگوں کو باندھے ہوئے تھیں۔ اس معاملے میں وہ اکیدہ نہیں تھے۔ یونانی سلطنت کے مختلف حصوں میں لوگ آبا اجادا کے رسم و رواج سے چھٹکارا پانے کی خواہش رکھتے تھے۔ انہیں یہ رسم و رواج اب اچانک

ظالمانہ نظر آنے لگے تھے۔ انہیں اپنی دنیا ایک ایسے حصار میں پسند نہیں تھی جو انکی شناخت کی حدود و قیود کا تعین کرے۔ اب وہ نئے افق اور نئی وسعتیں چاہتے تھے۔ اب لوگوں کو جمہوریاً میں بھی مدد و دنیا میں محسوس ہو رہی تھیں۔ خود یونانی بھی اپنے آپ کو بین الاقوامی شہری سمجھتے تھے۔ اپنی مادر وطن کو مقدس ترین سر زمین سمجھ کر وہاں رہنے کی بجائے یونانی استعمار پسند اور عالمی سیاح بن گئے تھے۔ سکندر کی فتوحات نے ان پر دنیا کے دروازے کھول دیئے تھے۔ چنانچہ شہری جمہوریاً میں یا سیاسی اکائیاں انہیں ناکافی اور محدود گئی تھیں۔ اپنی جغرافیائی حدود سے انکنا یونانیوں کے اجداد کو انتشار و افتراق میں اترنا محسوس ہوتا تھا لیکن اب انہی یونانیوں کی اولاد کو عمل آزاد فضاؤں اور نئی دنیاوں کا راستہ دکھاتا تھا۔ یونانی سلطنت میں یہودی بھی ایک جگہ بندھے رہنے کو پسند نہیں کرتے تھے اور چاہتے تھے کہ بنی نوع انسان کے رکن بنیں اور عالمی شہریت اختیار کریں۔ اب انہیں ایسی منتخب قوم کے ارکان بننے رہنا قبول نہیں تھا جسے ایک فرسودہ اور استبدادی قانون بھیڑوں کی طرح ہنکار رہا تھا۔ تیسرا صدی قبل مسیح کے اختتام پر متعدد یہودی یونانی زبان سیکھ چکے تھے اور اپنے بچوں کو یونانی نام دے رہے تھے۔

لیکن اب بھی بہت سے یہودیوں کو یہ سب کچھ انہائی خطرناک دکھائی دے رہا تھا۔ وہ مسلسل اپنی روایات سے بندھے ہوئے تھے جن کا مرکز و منبع معبد تھا۔ بالخصوص نچلے طبقات جوئی خوشحالی کے حصہ دار نہیں بن سکتے تھے وہ ماضی کے مقابلے میں زیادہ جوش و خروش کے ساتھ مذہبی قوانین کی پابندی کر رہے تھے۔ یہ مذہبی قوانین سکھاتے تھے کہ ہر چیز اپنی متعین جگہ پر رہنی چاہیے۔ سماجی نظام اسی وقت تک برقرار رہ سکتا ہے جب تک لوگ اور چیزیں ان مقامات پر اور ان حدود و قیود میں رہیں جن سے ان کا تعلق ہے۔ قدامت پسند یہودی فطری طور پر کاہنوں کی طرف کھنچے چلے گئے کیونکہ یہ توریت اور معبد کے محافظ تھے۔ ان کے قائدین اونائی تھے جو صدقہ کا ہن اعظم کی اولاد میں سے تھے۔ اونائی بذات خود یونانی نظریات کے گرویدہ ہو رہے تھے۔ ان میں سے کئی ایک کے نام یونانی تھے۔ لیکن وہ قدیم نظریات و روایات کو چھوڑنہیں سکتے تھے کیونکہ انہی کی وجہ سے وہ قوت و اختیار اور مراعات و استحقاق کے مالک تھے۔

صدی کے اختتام کے قریب حالات کا رخ بتا رہا تھا کہ شام کا صوبہ بطیموسیوں کی گرفت سے نکل کر سیلوکس بادشاہوں کی جھوٹی میں گرنے والا ہے۔ سکندر کی موت کے بعد اس کے ایک سپہ سالار بطیموس نے مصر پر قبضہ کر لیا تھا جبکہ دوسرے سپہ سالار سیلوکس نے قدیم ایرانی سلطنت کا انتظام سنبحا اور میسو پوٹیمیا کا اپنا مرکز بنایا۔ 219 قبل مسیح میں نوجوان مہم جو سیلوک بادشاہ انطیوکس سوم نے سامرینہ اور فونقی ساحل کے شہروں پر یلغار کر دی۔ وہ چار برس تک اس علاقے کو اپنی تحولی میں رکھنے میں کامیاب رہا۔ اگرچہ اسے چوتھے بطیموسی، فیلو پیٹر نے پسپائی پر مجبور کر دیا لیکن صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ پھر واپس آئے گا۔ چونکہ طوبیائی قبیلہ جوزف کی منصب داری کی وجہ سے بطیموسیوں کا وفادار تھا چنانچہ یہود شلم کے قدامت پسند یہودی، سیلوکس حکمرانوں کے لیے اپنے دلوں میں نرم گوشہ رکھتے تھے۔ وہ خواہش اور توقع رکھتے تھے کہ انطیوکس ضرور واپس آئے گا۔ طوبیائی اچانک خاندانی تنازعے میں الجھ گئے چنانچہ اونائی قبیلہ کا ہن اعظم سامن دوم شہر

میں اثر و رسوخ حاصل کر گیا اور سیلوکس حکمرانوں کی راہ ہموار کرنے لگا۔ جب 203 قبل مسیح میں انطیوکس نے اس علاقے پر حملہ کیا تو اس کے حامی یہودی بھر پورا نداز میں سرگرم ہو گئے۔ ان کی مدد سے انطیوکس نے یروشلم کی شہر پناہ پر قبضہ کر لیا۔ اگرچہ اگلے برس اس کے سپاہیوں کو شہر سے باہر دھکیل دیا گیا لیکن 200 قبل مسیح میں انطیوکس نے ایک بار پھر شہر کا محاصرہ کر لیا۔ طویل محاصرے اور شدید نقصان کے بعد بالآخر وہ شہر پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔

اس دفعہ سیلوکسی فوجیں پورے علاقے کو زیر کرنے میں کامیاب ہو گئیں۔ سیلوکسی اسے جوف شام اور فونیقیا کا صوبہ کہتے تھے۔ مختلف سیاسی اکائیوں کے لیے ایک بار پھر مختلف قسم کے انتظامات کئے گئے۔ فونیشین اور یونانی شہروں، چھاؤں اور شاہی جاگیروں کا انتظام از سر نو کیا گیا۔ یہودی محروروں کی مدد سے انطیوکس نے یہودیہ کے لیے ایک خصوصی ضابطہ تشکیل دیا اور ایک معاهدہ کے تحت معبد کے اخراجات کی ذمہ داری اٹھانے کے علاوہ اپنے حامیوں کو یروشلم میں مرادعاً ت سے نوازا۔ سائمن دوم کو یہودیہ کی مذہبی اشرافیہ کا سربراہ بنایا گیا۔ اب قدامت پسند کا ہنوں کی جماعت کو یونان کے حامی طوبیائی قبیلہ پر بالادستی حاصل ہو گئی۔ توریت کو مسلسل سرکاری قانون کا درجہ حاصل رہا۔ یہودی بزرگوں کی مجلس گیروزیا مقتدرہ رہی۔ نئے ضابطہ کے تحت معبد کے لیے بھی نئے انتظامات متعارف ہوئے۔ اسے نجیاہ اور عزرا کے دور سے زیادہ اہمیت اور مرکزیت دی گئی۔ معبد کے لقدس کو تحفظ دینے کے لیے یروشلم شہر کو ہر طرح کی آلات سے اور بجاست سے پاک کر دیا گیا۔ شہر کے دروازوں پر یہ حکم آؤیزاں کر دیا گیا کہ ناپاک جانوروں کی پرورش اور قربانی ممنوع ہے۔ یہودی مردوں کو معبد کے داخلی صحن میں جانے کی اجازت نہیں تھی جہاں قربانیاں پیش کی جاتی تھیں۔ مردوں کو اس صورت میں داخلے کی اجازت تھی کہ وہ انہی پابندیوں کا احترام کریں اور مذہبی طہارت حاصل کریں جن کی پابندی کا ہن کرتے ہیں۔ ”کافروں“ کو بھی داخلی صحن میں جانے کی اجازت نہیں تھی۔ یہ ایک اختراع تھی جس کی بنیاد توریت میں موجود نہیں تھی۔ اس طرح کی پابندیاں دراصل قدامت پسند یہودیوں کی غیر یہودیوں کی غیر یہودی دنیا کے لیے نفرت کا اظہار تھیں۔ علاوہ ازیں یہ قدغن شہر میں آنے والے یونانی سیاحوں کو ایک زبردست تاثر دیتی تھی۔ قدیم مذاہب میں معبد غیر مقلدین کے لیے ایک ممنوع علاقہ ہوا کرتا تھا۔ چنانچہ یہودیوں کو بھی یہ بات فطری محسوس ہوتی تھی کہ اغیار کو معبد میں نہ داخل ہونے دیا جائے۔ یونان میں البتہ آزاد فضائی وہاں کوئی بھی فرد کسی مندر یا معبد میں جا سکتا تھا۔ اسے صرف طہارت کا مرحلہ طے کرنا ہوتا تھا۔ اب یروشلم میں آنے والے یونانیوں کو داخلی صحن کے باہر وک دیا جاتا تھا ان کے ساتھ ساتھ عورتیں اور عام یہودی بھی داخل ہونے کے مجاز نہیں ہوتے تھے جو مذہبی طہارت کے حامل نہیں ہوتے تھے۔ یہ سب چونکہ توریت کی نظر میں ”ناپاک“ تھے چنانچہ ان کو مقدس مقام سے دور رکھنا ضروری تھا۔

جو یہودی مذہبی تقاضے پورے کرتے تھے وہ معبد کے زائرین میں شامل تھے اور خدا سے رابطہ کے تجربے و احسا

س کے بعد ایک نئی قسم کی پاکیزگی اور

آسودگی سے ہمکنار ہوتے تھے۔ بن سراح ایک محترم اور مورخ تھا۔ وہ ابتدائی سیلوکسی دور میں یروشلم میں موجود تھا اور واقعہ نگاری کر رہا تھا۔ اس کی تحریر یہ ہمیں اس دور کی مذہبی صورت حال سے آگاہ کرتی ہے۔ اس نے سامنے کی مذہبی سرگرمیوں اور یوم کفارہ کی رسوم کے بارے میں تفصیل سے بتایا ہے۔ یہی ایک دن ایسا ہوا کرتا تھا جب تمام خدا پرستوں کی نمائندگی کرتے ہوئے کا ہن عظم کو دیور (خانہ اقدس) میں داخل ہونے کی اجازت ہوتی تھی۔ بن سراح ایک یوم کفارہ کا احوال بتاتے ہوئے لکھتا ہے کہ ”جب کا ہن عظم خانہ اقدس سے اس کی تقدیس اور جلال لے کر نمودار ہوا تو ایسے جگہ گارہ تھا۔ جیسے سورج کی کرنوں میں معبد کی سنہری چھپت ضوفشاں ہوتی ہے۔ جیسے چمکدار بادلوں میں قوس قزح ہوتی ہے۔“

وہ ایک ایسا زیتون کا پیڑ انظر آ رہا تھا جو پھل سے لدا ہوا ہوا اور ایک ایسا سرو تھا جو آسمانوں کی طرف بلند ہو رہا تھا۔ (3) حقیقت مطلق سر بلند اور اس کا ادراک وجود انگیز تھا۔ سامنے کے دور میں کا ہن عظم کا منصب ایک نیا درجہ حاصل کر چکا تھا۔ یہ یہودیت کی یک جنتی کی علامت تھا اور یروشلم کی سیاست میں اہم ترین کردار ادا کر رہا تھا۔ بن سراح کا خیال ہے کہ صرف کا ہن عظم کو یہ اختیار حاصل تھا کہ توریت کی جنتی تفسیر و ترجمانی کر سکے۔ (4) وہ تسلسل کی علامت بھی تھا کیونکہ (حضرت) داؤ دکا خاندان صرف چند پیشتوں تک بر سر افتخار رہا تھا لیکن (حضرت) ہارون کی اولاد میں کا ہن کا منصب ہمیشہ کے لیے تھا۔ (5) اس دور میں یہواہ کا تصور لوگوں کے ذہنوں میں اتنا مقدس اور ماورائے ادراک ہو چکا تھا کہ اس کا نام لینا بھی بے حرمتی اور تو ہیں کے مترا دف تھا۔ توریت کے متن میں عبرانی لفظ یہواہ اب یہودیوں کے نزدیک ”آقا“ اور ”برترو بالا“ کے مترا دف تھا۔ صرف کا ہن عظم خدا کا نام اپنی زبان پر لاسکتا تھا اور صرف اور صرف سال میں ایک دن، یوم کفارہ کے موقع پر ایسا کر سکتا تھا۔ بن سراح نے یروشلم میں تعمیراتی کام کے لیے بھی سامنے کی بہت تعریف کی ہے۔ اس نے شہر کی دیواروں اور معبد کی ڈیوبھیوں کی بھی مرمت کی جو 200 قبل مسیح میں محاصرہ کے دوران ٹوٹ پھوٹ کی شکار ہو چکی تھیں۔ اس نے ایک ”تالاب“ بھی بنایا جو معبد کے شمال میں تھا اور ایک ”سمندر“ دکھائی دیتا تھا۔ اس کو بیت حمد ایعنی رحم کے گھر کا تالاب کہا گیا۔ روایتی طور پر عمارتیں تعمیر کرنا ایک بادشاہ کا فریضہ ہوا کرتا تھا لیکن انطیوکس نے تعمیر و مرمت کے کاموں کے لیے شاہی خزانے سے کچھ بھی دینے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ سامنے نے از خود بادشاہ اور کا ہن کے فرائض سنبھالتے ہوئے یروشلم میں ضروری تعمیراتی کام کمکمل کروائے۔ (6)

بن سراح قدامت پسند تھا۔ وہ اس مادہ پرستی کی مذمت کرتا ہے جواب شہر کے لوگوں میں سر انتیت کر رہی تھی اور اس کی وجہ سے بہت سے لوگ یونانیوں جیسی تاجر انہ سوچ اپنارے تھے۔ یونانی اس کا الزام بحر روم کے ساحلی مکینوں کی زر پرستی کو دیتے تھے حالانکہ وہ اس قباحت کو خود مخرب سے یہاں لائے تھے۔ ابتدائی دنوں میں صیہونی عقائد کا اصرار تھا کہ یروشلم غریبوں کے لیے پناہ گاہ ہے لیکن اب بن سراح متاسف تھا کہ یروشلم کے شہری غربت کو ذلت سمجھتے ہیں اور غریب کو

دولت کی دوڑ میں بے رحمی کے ساتھ کچلا جا رہا ہے۔ (7) اگرچہ بن سراح ایسے یہودیوں کو ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھتا ہے جو یونانی ثقافت کو اپنارہے ہیں لیکن وہ خود بھی یونانیوں کی تہذیبی چمک دک سے محفوظ رہ سکا۔ سوال یہ تھا کہ آخر یہودی نوجوان (حضرت) موسیٰ کی تعلیمات کا اس طرح مطالعہ کیوں نہیں کرتے جس طرح یونانی نوجوان جمناسٹک گھروں میں ہومر کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ایک انقلابی تجویز سامنے آئی۔ چنانچہ طے ہو گیا کہ اب عام آدمی توریت کے کچھ حصے بہر طور حفظ کرے گا، لیکن ان کی تلاوت برسر عام اور از خود نہیں کرے گا۔ کیونکہ قوانین کی توضیح و تفسیر صرف کا ہنوں کا کام تھا لیکن بن سراح پر وہت یا کا ہن نہیں تھا۔ وہ ایک یہودی دانشور تھا۔ اس کا ایمان تھا کہ توریت تمام مرد یہودیوں کے لیے آزادانہ تعلیم کی بنیاد فراہم کر سکتی ہے۔ پچاس سال بعد بن سراح کے پوتے نے توریت کا ترجمہ یونانی میں کیا۔ (8) اب اسے ہر کوئی پڑھ سکتا تھا۔ اب پورے مشرق قریب میں پرانے مذاہب جو یونانی تہذیب کے مخالف تھے، اب یونانیوں سے ربط و ضبط کی وجہ سے تبدیلیوں سے گزر رہے تھے۔ یہی حال یہودیت کا تھا۔ بن سراح جیسے یہودیوں نے بہت پہلے سے یونانی تعلیمی نظریات کو اپنی روایت میں مدغم کرنا شروع کر دیا تھا چنانچہ اب ربانوی یاربی یہودیت کی بنیاد میں استوار ہو چکی تھیں۔ یہودیوں میں ربی کا منصب خالصتاً یونانی تصور تھا۔ بعد میں سوال و جواب کا جو طریقہ کار رہیوں نے اپنایا وہ بھی سفر اس کے اثرات کا نتیجہ تھا۔

کچھ یہودی مزید آگے بڑھنا چاہتے تھے۔ ان کی خواہش تھی کہ مکمل یونانی تعلیم حاصل کریں۔ وہ نہیں سمجھتے تھے کہ یہ سب کچھ یہودیت سے ہم آہنگ نہیں ہو گا۔ بہت جلد یروشلم میں ان کا تصادم قدامت پسندوں سے ہو گیا۔ کشاکش کے ابتدائی آثار 180 قم میں نمودار ہوئے، جب سائمن دوم کے پوتے کا ہن اعظم اونیاں سوم پر الزام عائد کیا گیا کہ اس نے معبد کے خزانے میں ایک خطیر رقم جمع کر رکھی ہے۔ بادشاہ سیلوکس چہارم نے فوراً اپنا وزیر بیلیو ڈورس انطا کیہ سے یروشلم روانہ کیا۔ سیلوکس کا حکم تھا کہ کا ہن نے جو دولت معبد میں جمع کر رکھی ہے وہ سیلوکی سلطنت کی ملکیت ہے چنانچہ اسے فوراً ضبط کر کے شاہی خزانے میں لاایا جائے۔ اس واقعہ کے بعد سیلوکی حکمرانوں کے لیے یروشلم میں اطاعت و اعانت کا جذبہ سرد پڑ گیا۔ دراصل 192 قم میں انطیوکس سوم کو پیش قدمی کرتی ہوئی رومن فوجوں کے ہاتھوں شرم ناک شکست کی ذلت اٹھانا پڑی تھی۔ رومنوں نے یونان اور اناطولیہ کا بہت بڑا حصہ اپنی سلطنت میں شامل کر لیا تھا۔ انطیوکس سوم کو ایک شرط پر اپنا تخت برقرار رکھنے کی اجازت دی گئی تھی کہ وہ بھاری تاوان ادا کرنے کے بعد ہر سال ایک بڑی رقم خراج میں ادا کیا کرے گا، چنانچہ اس کے جانشینوں کو خراج ادا کرنے کے لیے ہمیشہ ہی شاہی خزانے میں دولت کی کمی کا مسئلہ در پیش رہتا تھا۔ سیلوکس چہارم غالباً یہ سمجھتا کہ چونکہ یہودیوں سے ہونے والے معاهدہ کے مطابق معبد کے مذہبی اور انتظامی اخراجات شاہی خزانے سے ادا کئے جاتے ہیں چنانچہ معبد کی آمدی پر بادشاہ کا پورا پورا حق ہے۔ لیکن اس نے معبد کے بارے میں یہودیوں کی حساب سیت کو مدنظر نہ رکھا۔ اس کا اندازہ بھی غالباً اسے پہلی بار ہوا۔ جب بیلیو ڈور لیس یروشلم میں پہنچا اور معبد کا خزانہ ضبط کرنے پر

ایک شہر تین مذاہب

اصرار کیا تو لوگ دہشت زدہ ہو گئے۔ معبد کے خزانے کو تحویل میں لینا ان کے نزدیک معبد کے قدس کو مجرور کرنا تھا۔ اونیاس کے چہرے پر موت کی زردی چھا گئی۔ وہ رعشہ زدہ مریض کی طرح کاپنے لگا۔ عورتیں ٹاٹ کے کپڑے پہن کر گلیوں میں آگئیں۔ نوجوان لڑکیاں گھروں کی کھڑکیاں کھول کر خدا سے مدد کی فریاد کرنے لگیں۔ پھر ایک مجھزے نے معبد کے قدس کو بچالیا۔ جو نہیں بیلیو ڈور لیں معبد کے خزانے میں پہنچا، اس پر اچانک فالج کا حملہ ہوا اور وہ فرش پر اوندھے منہ گر گیا۔ بعد میں اس نے قصدِ حق کی کہ اس نے اپنی آنکھوں سے یہودیوں کے خدا کو وہاں دیکھا تھا۔

یہ واقعہ ایک نیا سنگ میل تھا۔ اب معبد کی حرمت پر ہونے والا کوئی حملہ یروشلم میں فسادات کا باعث بن سکتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ معبد یہودیوں کی روح کا اظہار بن گیا تھا۔ یہ یہودیوں کی جذباتی دنیا کا مرکزی مقام اور ان کی شناخت کا ذریعہ تھا۔ اسے وہ قوم کا مرکزہ سمجھتے تھے جو ان کی زندگی تخلیقی امور اور بقا کا سرچشمہ تھا۔ یروشلم کا معبد ابھی تک ان یہودیوں کے لیے مرکزی کشش کا حامل تھا جو توریت کو سرچشمہ ہدایت سمجھتے تھے۔ یہاں تک کہ وطن سے دور یہودی عبادت کے وقت اپنارخ یروشلم کی طرف کر لیتے تھے اور مذہبی تہواروں کے موقعہ پر معبد پہ حاضری کے لیے یروشلم کے لیے رخت سفر باندھ لیا کرتے تھے۔ زبور کے گیت، دعائیں اور مذہبی تحریریں یروشلم کو جنت ارضی قرار دیتی تھیں، جہاں خود خدا را بلطے کے لیے موجود تھا۔ دنیا یہودیوں کو جذب کرنے پر مائل تھی اس میں اپنی شاخت اور بقا کی جدوجہد ضروری تھی۔ معبد اور اس کا شہر انہیں ایک حیات بخش تحفظ مہیا کر رہا تھا۔ چنانچہ کافروں کو معبد کی کسی عمارت کے قریب پھٹکنے کی اجازت نہیں تھی۔ اس مقدس فاصلے کو ختم کرنے کی کوشش بے حرمتی کا ایسا اقدام تھا جسے یہودی غیر یہودیوں کی طرف سے زنا کے مترادف سمجھتے تھے۔ یہ عقل و استدلال کی بات نہیں، مذہبی جذباتیت اور جعلی ر عمل کا بے ساختہ اظہار تھا۔

180 قم میں بیلیو ڈورس کے واقعہ کے ساتھ یونانی تہذیب کے حامیوں اور مخالفوں کے درمیان کشمکش ختم نہ ہو سکی۔ سرگوشیاں جاری تھیں کہ بیلیو ڈورس کی بیماری میں اونیاس کا کوئی حرہ ضرور موجود ہے چنانچہ اسے سیلوکسی دربار میں جا کا کرنا پنی برأت کا اظہار کرنا تھا۔ لیکن وہ بڑی سادگی سے دشمنوں کے ہاتھوں میں کھیل گیا۔ جب وہ انطا کیہ پہنچا تو اس کے طالع آزمابھائی جو شوایا جیسیں (اے خود یہ نام پسند تھا) نے سازش کرتے ہوئے بادشاہ کو ایک خطیر رقم رشوت میں دی اور کاہن اعظم کے منصب کے لیے بادشاہ سے حکم نامہ حاصل کر لیا۔ اس حکم نامے کا مطلب تھا کہ اونیاس کو مجرم سمجھ لیا گیا ہے۔ اونیاس کو دربار سے فرار ہونا پڑا۔ لیکن بعد میں اسے گرفتار کر کے قتل کر دیا گیا۔ جیسیں اپنے بھائی کی طرح قدامت پسند نہیں تھا۔ اس کے نزدیک توریت ایک بے معنی چیز تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ لوگ یونانی طرز حیات اپنا کر آزادانہ زندگی بسر کریں۔ لیکن ابھی اس نے کاہن اعظم کا منصب سنبھالا ہی تھا کہ شاہ سیلوکس بھی اپنے بھائی انطیوکس اپی فینیس کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ جیسیں نے نئے بادشاہ کو مزید رشوت کی پیش کش کی اور 200 قم کا معاهده منسوخ کرنے کی درخواست کی تاکہ شہر خود مختار ہو سکے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ یہودیہ ایک قدیم اور فرسودہ معبد سے وابستہ پسماندہ ریاست بنی رہے۔ وہ یروشلم کو یونان

ایک شہر تین مذاہب

کی شہری ریاست جیسا بنا نا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے شاہی سر پرستوں کی نسبت سے اس کا نام بھی انطا کیہ تجویز کیا۔ دولت کا ضرورت مندان طیوں کس فوراً راضی ہو گیا۔ اس نے جیسن کا پروگرام قبول کر لیا۔ انطیو کس کا خیال تھا کہ یہ اقدام یہودیہ میں اس کے اقتدار کو استحکام مہیا کرے گا۔

یروشلم راتوں رات یونانی شہری ریاست نہیں بن سکتا تھا۔ شہر کا مزاج صدیوں سے ایک مخصوص ڈھانچے میں ڈھل چکا تھا۔ اب شہریوں کی ایک بہت بڑی تعداد کو یونانی معاشرت سے منوس کر کے ہی وہاں جمہوری نظریات نافذ کئے جاسکتے تھے۔ عبوری اقدام کے طور پر جیسن کو شاہ پرستوں (انطیو کیوں) کا ایک طبقہ منظم کرنا پڑا جو شہر کو یونان کے رنگ روپ میں ڈھانے کا عزم رکھتے تھے۔ ایک جمنیزیم بالخصوص اشتعال انگیزانہ از میں معبد کے پاس بنایا گیا جس میں نوجوان یہودی ہو ہر کا مطالعہ کرتے، یونانی فلسفہ سمجھتے، موسیقی سیکھتے اور یونانی روایت کے مطابق بے لباس ہو کر کھیلوں کے مقابلوں میں حصہ لیتے۔ لیکن جب تک یروشلم مکمل طور پر ایک شہری جمہوری ریاست نہ بن جاتا، تب تک توریت ہی سرز میں کا قانونی ضابطہ تھی، چنانچہ جمنیزیم میں ہیرمیس اور ہر کولیس سے عقیدت مندی کا اظہار نہ کیا جاسکا۔ پہلے مرحلے میں جیسن کو خوب عوامی تعاون ملا۔ باقبال ہیمس جمنیزیم کی مخالفت کے بارے میں کچھ نہیں بتاتی۔ جو نہی اتحادیک ورزشوں کے لیے گانگ بجتا کا ہن تیزی سے معبد کے پہاڑ سے اترتے اور ان ورزشوں میں شریک ہو جاتے۔ کا ہن، زمیندار، تاجر اور ہنرمند سمجھی یونانی آداب و رسوم میں کشش محسوس کرتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ طرز حیات یروشلم میں آزاد معاشرے اور بہتر معيشت کا ذریعہ ہے۔ اب خمیاہ اور عزرا کی الگ تھلگ رہنے کی پالیسیوں کی مخالفت تو انا ہو گئی۔ یروشلم کے زیادہ تر یہودی عالمی شہریت کے یونانی تصور کے قائل ہو چکے تھے۔ اب انہیں اس بات کی پروانہیں تھیں کہ یہودیت یونانی دنیا سے مطابقت رکھتی ہے یا نہیں۔ اب (حضرت) موسیٰ کو لا ای کر گس جیسا قانون دہندہ سمجھا جانے لگا۔ توریت کو بھی اب مقدس درجہ نہیں دیا جا رہا ہے۔ ”اب رہم نے بھی تواحکام الہی کی پابندی نہیں کی تھی۔ اور کیا اس نے مرے میں خدا کی دعوت کے دوران گوشت اور دودھ ایک ساتھ استعمال نہیں کیا تھا۔“ نوجوان کھلਮ کھلا کہتے تھے کہ یہودیوں کو غیر یہودیوں سے جنونیوں کی طرح الگ رہنے کی ضرورت نہیں۔ اپنے پڑوی ممالک سے دوستی کر کے اور ان سے ثقا فتی اور معاشری روابط رکھ کر یہودی اس ابتدائی اتحاد کی طرف جاسکتے تھے جو بابل کا مینار بننے کے بعد اور بنی نوع انسان کے مختلف قبیلوں اور مذاہب میں تقسیم ہونے سے پہلے موجود تھا۔ جب شاہ انطیو کس اپنی فینیس نے 173 قم میں یروشلم کا دورہ کیا تو اس کا زبردست استقبال کیا گیا۔ جیسن نے یروشلم کے لوگوں کی قیادت کرتے ہوئے ان کے نئے آقا کی پذیرائی کے لیے گلیوں میں مشعل برادر جلوں نکالا۔ غالباً یہ پہلا موقع تھا جب یروشلم رسمی طور پر شہری جمہوریہ کے روپ میں سامنے آیا۔ یہ ایسی پیش رفت تھی جس پر زیادہ تر مقامی لوگ بہت خوش تھے۔

لیکن یونانی کروفر سے متاثر یہودی گروہ اور چھے ہتھکنڈوں پر اتر آیا۔ 172 قم میں جیسن نے وعدہ کے مطابق

انطیوکس کو خراج ادا کرنے کے لیے اپنا ایک ساتھی کا ہن مینیلاس انطا کیہ بھجوایا۔ مینیلاس نے بھی وہی کچھ کیا جو جیسے نے اونیاس کے ساتھ کیا تھا۔ مینیلاس نے شاہ انطیوکس کو ایک بھاری رقم کے وعدہ پر جیسے کو معزول کروا کر اس کی جگہ اپنی تقریری حکم نامہ لے لیا۔ مینیلاس کا ہن عظم بن کر یروشلم واپس آیا۔ جیسے کو جان بچانے کے لیے فرار ہونا پڑا۔ اس نے اردن کے پار عنان کے قریب طوبیاہ قبلے کی ایک چاگیر میں پناہ لے لی۔ لیکن یروشلم کے لوگوں نے مینیلاس کو کا ہن عظم کی حیثیت سے قبول نہ کیا۔ وہ اگرچہ ایک کا ہن خاندان سے تعلق رکھتا تھا لیکن صدقہ کا ہنکی اولاد میں سے نہیں تھا۔ چنانچہ لوگوں کی نظر میں وہ اس منصب کے لاٹن نہیں تھا۔ مینیلاس نے شاہ انطیوکس کو معاہدہ کے مطابق رقم ادا کرنے کے لیے معبد کا خزانہ ہٹپ کر لیا۔ یونانی سحر میں گرفتار بہت سے لوگوں کی آنکھیں کھل گئیں۔ یہ شاہ پرست طبقہ ان گنتی کے چند افراد تک محدود ہو گیا۔ ظاہر ہے ان کا انحصار سیلوکس بادشاہ کی اعانت و سرپرستی پر تھا۔

انطا کیہ نواز عناصر نے کئی گھٹیا قسم کی حرکتیں کیں جو بتا کن ثابت ہوئیں۔ وہ یونان جیسی اچھی اور ترقی آسان زندگی چاہتے تھے۔ ان میں سے کچھ پورے خلوص کے ساتھ نسبتاً نرم یہودیت کے خواہش مند تھے۔ خود ہمارے زمانے میں یہودیوں نے جدیدیت اپنانے کے لیے اپنی روایات میں اصلاحات لانے کی کوشش کی ہے جسے بہت سے یہودیوں نے خوش دلی سے قبول کر لیا ہے۔ لیکن اس دور میں

انطا کیہ نواز مصلحین کی بڑی غلطیوں میں سے ایک یہ تھی کہ انہوں نے انطیوکس کو یروشلم کے لوگوں کی سوچ سے آگاہ نہ کیا۔ چنانچہ اسے بروقت علم ہی نہ ہوسکا کہ یروشلم کو یونانی شہر بنانے کا منصوبہ غیر مقبول ہو چکا ہے۔ مینیلاس بادشاہ کو یقین دلاتا رہا کہ یروشلم یونانی شہر بن رہا ہے۔ چنانچہ اس نے یروشلم کا نیا نام یہودی انطا کیہ (اصل الفاظ: یہودیہ میں انطا کیہ) رکھ دیا۔ وہ جمنیزیم جیسے دیگر اداروں کی حوصلہ افزائی کرتا رہا۔ ان میں اپنی بیت (نو جوانوں کو عسکری تربیت اور لفاقتی آداب سے روشناس کرانے والا ادارہ) اور یونانی کھلیوں کا اہتمام کرنے والا ادارہ بھی شامل تھے لیکن ان کو ششوں کو 170 قم میں شدید

دھچکا پہنچا جب

افواہ پھیل گئی کہ رومنوں کے ساتھ لڑائی کے دوران انطیوکس مصر میں مارا گیا ہے۔ اس افواہ کے پھیلتے ہی جیسے نے علم بغوا و تبلند کر دیا۔ وہ شہر میں داخل ہو گیا اور مینیلاس اور دوسرے یونان نواز عناصر کو شہر پناہ میں دھکیل دیا۔ لیکن انطیوکس زندہ تھا۔ اس نے مشتعل ہو کر فوراً یروشلم پر دھاوا بول دیا اور جیسے کو ایک بار پھر را فرار اختیار کرنا پڑی۔ انطیوکس نے با غیوں کا ساتھ دینے پر یروشلم کو سزا دیتے ہوئے معبد کو لوٹ لیا۔ اس نے معبد کے خزانے، سونے کی قربان گاہ، شمع دان، خانہ اقدس کا پردہ، سونے چاندی کے برتن اور جو کچھ ہاتھ لگا سمیٹ لیا۔ مقدس مقام کی بے حرمتی اور لوٹ مار کو لوگ نظر انداز نہ کر سکے اور اس واقعہ کے بعد یونانیوں اور انطا کیہ نواز یہودیوں کو کھلا دشمن سمجھا جانے لگا۔ یروشلم اب شہری ریاست کی بجائے ایک چھا ونی میں تبدیل ہو گیا۔ اس پر مینیلاس کی حکومت برقرار رکھی گئی جس کے تحفظ کے لیے شامی سپاہیوں کا ایک رسالہ موجود رہتا

تھا لیکن شہر میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے یہ انتظام کافی نہ تھا۔ اگلے برس انطیوکس کو ایک اور جمنٹ وہاں بھیجنا پڑی جس نے سبت کے دن یروشلم پر حملہ کیا اور شہر کی دیواروں کو شدید نقصان پہنچایا۔ اب شامیوں نے ایک نیا قلعہ تعمیر کیا جو معبد کے ملحقات سے فاصلہ پر تھا۔ اسے عکرہ کا نام دیا گیا۔ عکرہ یروشلم میں سیلوکسی حاکموں کا صدر دفتر بن گیا۔ دراصل عکرہ ایک الگ آبادی یا بستی تھی جس میں غیر خدا پرست سپاہی اور انصار کیہ نواز یہودی رہتے تھے یہاں یونانی دیوتاؤں کی عبادت بھی ہوتی تھی۔

MAP (نقشه)

دیوار گریہ کے سائے میں موجود صومعہ صحائف توریت کے نئے جزدان کی رسم تبریک کا منظر۔

لیکن بات یہیں پر ختم نہ ہوئی۔ غالباً مینیلاس اور ان کے انشاہ پر انطیوکس نے ایک فرمان جاری کیا جس نے یہودیوں کی اکثریت کو برہم کر دیا اور ان کے لیے اب کافر لوگوں کے ساتھ رہنا ممکن بنادیا۔ اس فرمان کے تحت 200 ق م کا معاهدہ منسون کر کے یہودیہ میں یہودیت پر پابندی نافذ کر دی گئی۔ تاریخ میں یہ سب سے پہلا مذہبی جبر اور اذیت رسانی کا اقدام تھا۔ معبد میں مذہبی رسوم کی ادائیگی سبت کے دن کا احترام، ختنہ اور طہارت غیر قانونی قرار دے دیئے گئے۔ جو شخص اس فرمان کی خلاف ورزی کرتا اسے موت کی سزا دی جاتی۔ جو عورتیں اپنے بیٹوں کا ختنہ کرواتیں انہیں شہر کے گرد چکر لگانے کا حکم دیا جاتا اور ان کے بچوں کو شہر کی دیوار سے نیچے واڈی میں پھینک دیا جاتا۔ ایک ماں کو اپنے سات بچے موت کے گھاث اترتے ہوئے دیکھنا پڑے۔ اپنے مذہبی جوش و خروش میں اس نے ہر بچے کو خوشی کے ساتھ موت کے حوالے کیا اور پھر خود پھانسی کے پھندے پر جھول گئی۔ ایک نو سالہ بوڑھے ایلی زیر نے سور کا گوشت کھانے کی بجائے مرنے کو ترجیح دی۔ جب لوگوں نے توریت کے لیے مرننا شروع کر دیا تو یہ کتاب ان کے لیے لقدس کے ایک نئے روپ میں ڈھل گئی۔

انطیوکس کے فرمان کے نتیجہ میں معبد کو بھی تختہ مشق بنایا گیا۔ وہ دروازے اور دیواریں مسماڑ کر دی گئیں جو مقدس مقام کو بقیہ شہر سے الگ کرتی تھیں۔ توریت کی ممانعت کی قصداً خلاف ورزی کرتے ہوئے مقدس مقام پر درخت لگا کر اسے یونانی طرز کا مقدس کنج بنادیا گیا۔ معبد کی دیگر عمارتیں جنہیں دوسال پہلے انطیوکس کے سپاہیوں نے لوٹ مار کا نشانہ بنائیں۔

یا تھا، مسلسل خالی اور ویران پڑی تھیں۔ 25 کسلیف (Desember) 167 ق م کو قدامت پرست یہودی یہ سن کر دہشت زدہ ہو گئے کہ معبد میں قربان گاہ کے مقام پر ایک پتھر ایستادہ کیا جا رہا ہے۔ اس طرح کے پتھر "بت پرست کافر" اپنے مقدس مقامات کی نشاندہی کے لیے نصب کیا کرتے تھے۔ اب کھلی قربان گاہ اور درختوں کے جھنڈا سے قدیم "باما" بنار ہے تھے۔ اس طرح کے معبداب بھی مرے اور کوہ کارمل پر پائے جاتے تھے لیکن یہودی انہیں غیر شرعی عبادت گاہیں قرار دیتے تھے۔ یہ شلم میں صیہون کے معبد کو اب یونانی دیوتا زیوس اور پنکس سے منسوب کر دیا گیا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہودیوں کو یونانی دیوتا کی عبادت کے لیے بھی مجبور کیا جاتا تھا۔ اور پنکس مقدونیہ کے ایک پہاڑ کا نام ہے جہاں یونانیوں کے اساطیر کے مطابق تمام دیوی دیوتا رہتے تھے۔ اس کا مطلب مجاز آرعش الٰہی یا بہتشت بھی تھا۔ جنت کا دیوتا زیوس تھا اور یہ خطاب یہواہ جیسے کسی اعلیٰ و برتر معبود کے لیے استعمال ہو سکتا تھا۔

انطا کیہ نواز یہودی سمجھ رہے تھے کہ اس طرح وہ (حضرت) ابراہیم کے سادہ ترین مذہب کی طرف پلٹ رہے ہیں جو حضرت موسیٰ کی توریت کی پیچیدگیاں آنے سے پہلے موجود تھا اور مرے اور کوہ کارمل پر موجود معبدوں میں خدا کی عبادت کا ذریعہ تھا۔ (10) ہم اگلے ابواب میں دیکھیں گے کہ دیگر تو حید پرستوں نے بھی یہ شلم میں اسی ابتدائی مذہب کو بحال کرنے کے منصوبے بنائے۔ اپنے آسمانی خدا کی عبادت کرتے ہوئے وہ چاہتے تھے کہ ایسی مذہبی رسوم تخلیق کریں جو عقل و شعور پر منی ہوں اور خیر سگالی کا جذبہ رکھنے والے تمام انسانوں کو اپنی طرف راغب کر سکیں۔۔۔ جن میں عکرہ کے یونانی اور انطا کیہ نواز یہودی سمجھی شامل ہوں۔ یہ پروگرام اٹھارویں صدی کے فرانسیسی فلاسفروں کے اس پروگرام سے مختلف نہیں تھا جو یورپ میں وقتی بیداری کے لیے مرتب کیا گیا تھا لیکن یہ تصورات یہودیوں کی اکثریت کے لیے ناقابل قبول تھے۔ تاریخ میں پہلی مرتبہ یہودیت میں ایک الہامی خدا پرستی داخل ہوئی جس کا مطحظ نظر انعام کا راست بازی کی حتمی فتح تھا۔ بعد میں دنیا کے تینوں توحید پرست مذاہب کی روایات میں اسی قسم کا عقیدہ ابھرا جو انطیوکس اپی فینیس کے دور میں یہ شلم میں نمودار ہوا تھا لیکن اس وقت یونانیوں کے سیلوں نظام جیسی عقایل پسندی کو اپنانے کی بجائے الہامی مصنفوں نے قدیم دیو مالائی اقدار پر زور دیا۔ جب کاہن مایوس دھماکی دیتے تھے تب بہت سے یہودی ایک کامیاب مستقبل کے تصور سے بہت مطمئن تھے۔ نئی "الہامی پیشین گوئیوں" کو مستند بنانے کے لیے انہیں ماضی کے روحانی بزرگوں سے منسوب کر دیا گیا جن میں پنجمبر دنیا اور حنون (اور لیں) شامل تھے جنہیں ان کی زندگی کے اختتام پر آسمانوں پہ اٹھا لیا گیا۔

آخری دنوں کا منظر جس طرح یہ لوگ پیش کرتے تھے وہ سب کے ہاں ایک جیسا ہی تھا۔ مثلاً خدا بھی اسرائیل کے بارہ قبیلوں کو مختلف جگہوں سے لا کر ایک جگہ اکٹھا کرے گا اور یہ مقام یہ شلم ہو گا۔ پھر وہ ایک خوفناک جنگ میں ان کی قیادت کرے گا۔ تخلیق کائنات کے وقت سے جاری برائی اور شیطنت کے خلاف جدوجہد اس جنگ کی صورت میں کامل ہو گی۔ بنی اسرائیل اپنے تمام دشمنوں کو نابود کر دیں گے۔ ان دشمنوں نے انتشار اور تباہی کے عفریتوں کو اپنا معبود بنار کھا

ہے۔ چنانچہ کامیاب جنگ کے بعد دنیا جنت بن جائے گی۔ البتہ کچھ یہودی کہتے تھے کہ مذکوری جنگ کے بعد تمام کافر دنیا یہواہ کا دین اپنالے گی۔ نجات کا حتمی مرحلہ سب کی نظر میں یو شلم میں طے ہونا تھا۔ اب چونکہ مقدس کوہ صیہون کو کافروں اور مرتد یہودیوں نے ناپاک کر دیا تھا چنانچہ دنیا، اور لیں اور مراجعت کی کتابوں کے مصنفوں کے اس تصویراتی مستقبل کا انتحصار تھا جس میں شہر کو پاک کیا جائے گا اور خدا ایک نیا معبد تعمیر کرے گا۔ تب کوئی مقامی بادشاہ یونانی سلطنت میں موجود نہیں ہو گا، تب یہودی مسیحا آئے گا اور انہیں آخری فتح سے ہمکnar کرے گا۔ یہ مفروضے یا تصویرات ایک ایسے وقت میں کئے جا رہے تھے جب یہودیت پوری طرح خطرات میں گھری ہوئی تھی چنانچہ مخالفین کے نزدیک اس طرح کے دعے اشتعال انگیزی تھی۔ دراصل یہ بتیں مایوس کن حالات میں یہودیوں کا ایمان متزلزل ہونے سے بچانے کے لیے تھیں۔ الہامی پیشین گوئیوں نے دوسری اور پہلی صدی قبل مسیح میں بہت سی مذہبی تحریکوں کو جنم دیا اور کئی سنبھیڈہ قسم کے یہودی دانشمندوں مثلاً بن سراح اور انقلابیوں کو منتشر کیا۔ مستقبل کے تصویرات میں صرف یہودی ہی مگن نہیں تھے بلکہ یونانی بھی مصری پروہتوں کے صوفیانہ دعووں سے متاثر تھے۔ اس طرح کی ب تیں ہندوستان کے بہمن اور ایران کے مجوسی بھی کر رہے تھے۔ ان بالتوں نے مشرق قریب کے محکوم عوام کو ایک حوصلہ اور خود پسندی مہیا کر رکھے تھے۔ یونانی یقیناً بہت عیار تھے۔ ان کی گفتگو مغض تکبر اور رعونت تھی۔ وہ کھوکھلے تصویرات تراشنے میں ماہرا اور دلائل وضع کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ انہوں نے اپنے انداز میں مستقبل پر گرفت کا تصور بنارکھا تھا لیکن حقیقت میں یونانی فلسفہ مغض لفظوں کی گھن گرج تھی۔ ان کی مقامی روایات کے یہ دعوے برخود غلط فاتحین کو آپ سے باہر ہونے سے بچانے کے لیے تھے۔ (11)

اس طرح کے خواب دیکھنے والوں میں سے کچھ خود کو آسمان کی بلندیوں میں اڑتا ہوا دیکھتے تھے۔ کسی معبد میں خدا کے رہنے کا تصور مشرق قریب کے کئی حصوں میں اب اپنی طاقت کھور ہاتھا۔ مصر اور ایران میں دوسری اور پہلی صدی قبل مسیح کے تخیل پرست اب ارضی دیوتاؤں کو ترک کر کے آسمانی خداوں پر ایمان لارہے تھے۔ یہ صوفیانہ سفر اپنے وقت کی سطحیت کا مظہر تھا۔

اب روحانیت کی جڑیں زمین میں نہیں تھیں۔ چنانچہ کوئی مخصوص مقام ماورائی قوت کا بسیر انہیں تھا۔ کچھ لوگ۔۔۔ بوجوہ سب نہیں۔۔۔ ایک ایسی آزادی کے متلاشی تھے جو اس دنیا میں پائی جاتی تھی اور ایک مختلف قسم کا روحانی اظہار تھی۔ یہودی صوفیانے بھی یہ تصویراتی پروازیں شروع کر دی تھیں۔ لفظ الہام یا کشف کا مطلب تھا بے نقاب ہونا یا ظاہر ہونا۔ پیغمبروں کی طرح یہ تخیل پرست دعویٰ کرتے تھے کہ انہوں نے وہ کچھ دیکھا ہے جو خانہ اقدس کے پردے کے پیچے ہے۔ عاموں، یسیعاہ اور حزقي ایل کی طرح ان کی رویت خدا یو شلم کے مذہبی عقائد کا بھر پور عکس تھی۔ خانہ اقدس میں ایک زمانہ میں تابوت یہواہ یعنی عہد نامے کا صندوق رکھا گیا تھا جو زمین پر خدا کا تخت تھا۔ اب دوسری صدی قبل مسیح میں تخیل پرست آسمان کی طرف دیکھتے تھے۔ جو خدا کا ازالی وابدی محل تھا اور جس میں وہ اپنے ملکوتوں تخت پر جلوہ افروز تھا۔ ان ابتدائی خوابوں

ایک شہر تین مذاہب

میں سے ایک کا ذکر ”ادریس کی پہلی کتاب“ (150 قبل مسیح) میں موجود ہے۔ اس نے رویداد یکھنے کے لیے یہودیت کے معبد میں جانے کی بجائے تصور کیا کہ ”وہ ہواں میں اڑ رہا ہے۔ ہوا میں اسے اٹھا کر جنت میں خدا کے مرمریں محل میں لے گئیں جس کے ارد گرد آگ کے شعلے اور فرشتے نگہبانی کر رہے تھے۔“ تخلیل کی انوکھی پروازیں نہیں تھیں۔ بعد میں یہودی صوفیا اپنے آپ کو اس طرح کے روحانی سفر کے لیے باقاعدہ تربیت کے تحت تیار کیا کرتے تھے۔ یہ تربیت یوگا کی ورزشوں جیسی ہوا کرتی تھی۔ یہ ورزشیں وقت کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں پھیل گئیں۔ یہودی صوفیا اس تربیت کے لیے روزہ رکھتے۔ اپنا سر دنوں زانوں کے درمیان رکھ کر دھیمی آواز میں خدا کی حمد و شنا کرتے۔ یہ انداز یوگیوں کے منظر الاپنے جیسا ہوتا تھا۔ ان مذہبی ورزشوں کے نتیجہ میں صوفی اپنے دل کے نہاں خانوں میں جھانکنے کی صلاحیت حاصل کر لیتا تھا اور یہ عمل خدا کے محل (کے سات درجوں) میں جھانکنے کے مترادف تھا۔ صوفی اپنی آنکھوں سے محل میں ساتوں درجے دیکھ لیتا تھا۔ (12) حقیقی استخراج یا گیان و ہدیان کی طرح یہ ”داخلی معراج“ ہوتا تھا۔

اگرچہ تخلیل پرست محسوس کرتا تھا کہ وہ خدا کے نقی زینی محل سے پہلو تھی کر سکتا ہے لیکن یہ محل (معبد) ابھی تک اس انداز پر غالب تھا جس میں تخلیل پرست خدا سے رابطہ کرتا تھا۔ یہ بات ثابت کرتی تھی کہ معبد کی عمارت لوگوں کے نزدیک ایک روحانی حقیقت رہ چکی ہے۔ اس نے ان کی داخلی دنیا کی تجھیم کی تھی اور اپنی بر بادی کے بعد بھی وہ ایک عرصہ تک لوگوں کی یہ ضرورت پوری کرتا رہا تھا۔ جس طرح عبادت گزار یہودیت میں تقدس کے مختلف درجوں سے گزر کر خدا سے رابطہ کر سکتا تھا۔ اسی طرح حضرت ادریس کو خدا سے رابطہ کے لیے آسمانی محل کے مختلف درجوں سے احتیاط کے ساتھ آگے بڑھنا تھا۔ سب سے پہلے انہیں اس بخش اور ناپاک دنیا کو چھوڑنا تھا اور پھر مقدس کردہ میں داخل ہونا تھا۔ بالکل اسی طرح جس طرح یہودیت کے زائرین کو معبد کے حصہ میں داخل ہونا پڑتا تھا۔ بہت سی ذی روحول کو وہاں رک جانا پڑتا تھا لیکن حضرت ادریس اپنے آپ کو روحانی کامہن اعلیٰ سمجھتے تھے۔ پہلے انہیں ایک ایسے گھر میں لے جایا گیا جو ہیکل کی مانند تھا۔ اس میں فرشتے جمع تھے۔ پھر ان کو ایک اگلے بالاتر درجے کے محل میں لے جایا گیا جو تقدیس کے لحاظ سے دیور (خانہ اقدس) کے مساوی تھا وہاں انہوں نے تخت اور اس پر موجود عظیم جلال کو جلوہ افروز دیکھا۔ جس کے ارد گرد نور ہوں کی طرح بل کھا رہا تھا۔ (13) یہاں (حضرت) ادریس کو خدا نے اپنے لوگوں

کے لیے ایک پیغام دیا اور پھر جس طرح یوم کفارہ کو کامہن عظم خانہ اقدس سے لوٹ کر آتا تھا اسی طرح (حضرت) ادریس خدا کی مسندگاہ سے واپس آئے تا کہ خدا کی تقدیس یہودی پیروکاروں تک پہنچائیں۔ اس قسم کا مکاشفہ اور تصور یہودی صوفیا میں قرون وسطیٰ تک جاری رہا اور پھر قبلاہ کی باطنی تعلیم کی ریاضت میں تحلیل ہو گیا۔

کچھ یہودیوں نے یونانیوں کا مقابلہ ان ہی خوابوں اور مکاشفہ سے کیا جبکہ بقیہ یہودیوں نے تلوار کا سہارا لیا۔ جب سیلوکسی سپا ہی اپنی رہائش عکرہ میں لے گئے اور معبد کو پاماں کر دیا گیا تو رائخ العقیدہ یہودیوں کی بہت بڑی تعداد نے محسوس کیا کہ اب وہ

یروشلم میں مزید قیام نہیں کر سکتے۔ اب ان کا یہاں رہائش اختیار کئے رکھنا بے معنی ہے۔ چنانچہ یہودی وہاں سے بھرت کرنے لگے۔ ان بھرت کرنے والوں میں حسمونی خاندان بھی شامل تھا۔ یہ خاندان معمرا ہن متحا تھیاس اور اس کے پانچ بیٹوں پر مشتمل تھا۔ انہوں نے پہلے تو مدائی کے گاؤں میں تحکامہ بنایا لیکن جب شاہی حکام آسمانی خدا کے نئے عقلیت پسند مذہب کے قیام کے لیے وہاں پہنچے تو متحا تھیاس اور اس کے بیٹے پہاڑوں میں جا چھپے۔ ان کی تقیید میں کئی اور پارسا یہودی اپنے گھر بارچھوڑ کر پہاڑوں میں چلے آئے۔ اب وہ وہاں جانوروں کی طرح رہ رہے تھے۔ (14) انہوں نے دشمنوں سے بچنے کے لیے جنگی جڑی بوٹیوں اور گھاس پھونس کو خوارک بنالیا تاکہ باہر کی دنیا سے رابطہ کی ضرورت نہ رہے۔ کچھ عرصہ کے بعد ان کی تعداد میں اضافہ ہو گیا تو انہوں نے ان یہودیوں کے خلاف تصادم کی راہ اپنالی جوان طیوکس کے احکامات پر سرسليم خم کرنے تھے۔ انہوں نے یونانیوں کی نئی قربان گاہیں مسما رکنا شروع کر دیں اور زبردستی لڑکوں کے ختنے کرنے لگے۔ جب متحا تھیاس 166 قم میں مراتواس کے بیٹے یہودا نے اپنے باپ کی تحریک کی قیادت سنہجال لی۔ یہودا کا لقب میقا بیس (ہتھوڑے کے نزواں) تھا۔ اس نے یونانی اور شامی سپاہیوں پر حملہ شروع کر دیئے۔ ان دنوں سیلوکسی، میسو پوٹیسیا میں الجھے ہوئے تھے۔ وہاں پارچھی انہیں علاقے سے باہر ڈھلینے کی کوشش کر رہے تھے۔ چنانچہ یہودا کو غیر متوقع طور پر جلد ہی کامیابی حاصل ہو گئی۔ (15)

قم میں انطیوکس کو اپنابد نام زمانہ فرمان واپس لینا پڑا۔ یہودا نے یروشلم پر قبضہ کر لیا۔ تا ہم وہ عکرہ سے یونانیوں اور یونان نواز یہودیوں کو نہ نکال سکا۔

جب یہودا میقا بیس اور اس کے ساتھیوں نے کوہ صیہون پر معبد کے جلے ہوئے دروازے اور مقدس کنج دیکھے تو وہ صدمے سے نڈھاں ہو گئے۔ انہوں نے سوگ منانے کے لیے اپنے کپڑے پھاڑ دیئے اور خاک بہ سر بیٹھ گئے۔ پھر انہوں نے معبد کی عمارتوں کو پاک صاف کیا۔ شمعیں روشن کیں اور ہیکل کو مزین کیا۔ ماہ کسلیف کی 25 تاریخ کو جب ٹھیک اسی روز تین سال پہلے سیلوکسی سپاہیوں نے مقدس مقام کی بے حرمتی کی تھی، تقدیس کی رسم سرانجام دی گئی۔ (16) عبادت گزار جلوں کی شکل میں کھجور اور زیتون کی ڈالیاں اٹھائے ہوئے معبد کے صحن میں داخل ہوئے۔ آخر میں اعلان کیا گیا کہ اب ہر سال تمام یہودی تقدیس کا تھوا رمنایا کریں گے۔

میقا بیوں کی بغاوت اس لیے کامیاب ہوئی تھی کہ سیلوکسی صفوں میں انتشار پھیلا ہوا تھا اور سمجھی سردار اقتدار کی جنگ میں الجھے ہوئے تھے۔ اقتدار کے دعویداروں کو ایک دوسرے کے خلاف استعمال کر کے یہودا اور اس کے جانشین استحکام حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ 161 قم میں یہودا میقا بیس نے روم کے ساتھ اتحاد کر لیا۔ اس اتحاد نے بلا شبہ یہودا کے ہاتھ مضبوط کئے۔ (16) بالآخر 152 قم میں حسمونی تحریک کو سیلوکسی حکام نے سلسیم کر لیا۔ سیلوکسی سلطنت کے ایک دعویدار نے یہودا کے بھائی اور جانشین، جونا تھن کو علاقے کا گورنر مقرر کر دیا۔ دوسرے سیلوکسی حریف نے جونا تھن

ایک شہر تین مذاہب

کو کا ہن عظم بنانے کا اعلان کر دیا۔ 152 قم میں سکوتھ کے تہوار کے موقعہ پر جونا تھن نے پہلی مرتبہ مقدس پوشاک پہنی۔ لوگ اس حیران کن انحراف پردم بخود رہ گئے۔ (18) قبل ازیں زرق برق چونے یروشلم کے کا ہن استعمال نہیں کیا کرتے تھے وہ سوتی، سادہ اور مختصر لباس پہنتے تھے۔ لیکن جونا تھن اپنی من مانیاں کرتا رہا۔ 143 قم میں سیلوکسی تخت کے ایک نئے دعویدار نے جونا تھن کواغوا کر کے قتل کر دیا۔ جونا تھن کا بھائی شمعون حسمونی و راشت کا جائز دعویدار تھا چنانچہ اس نے خود کو نئے سیلوکسی بادشاہ سبیطہ دوم کے توسط سے علاقے کا خود مختار حاکم بنوالیا۔ اب یہودیہ، یونانی سلطنت سے آزاد ہو گئی اور ان صدیوں میں پہلی مرتبہ یہودیہ کے لوگ کافروں کے سامنے باہر نکل آئے۔ اگلے برس عکرہ میں موجود یونانیوں اور انطا کیہ نواز یہودیوں نے شمعون کے آگے ہتھیار ڈال دیئے۔ شہر پناہ کو زمین بوس کر دیا گیا۔

مورخ جوزیفس کے مطابق اس کام میں تین سال لگے۔ اس کی تحریر کی سا لگرہ قومی تہوار کے طور پر منعقد کی گئی۔ (19)

حسمونی انقلاب ایک عوامی بغاوت کی صورت میں نمودار ہوا۔ یہ بغاوت سامراجی طاقت اور یونانی ثقاافت کے خلاف عوامی جذبات کا اظہار تھی لیکن شمعون اور اس کے جانشینوں کی قیادت میں معرض وجود میں آنے والی ریاست کے خدو خال وہی تھے جن کے خلاف بغاوت منظم ہوئی تھی۔ جب مینیلاس نے کا ہن عظم کا منصب حاصل کیا تھا تو لوگوں نے اسے اس لیے قبول نہیں کیا تھا کہ وہ صدقہ کا ہن عظم کی اولاد میں سے نہیں تھا۔ اب حسمونی حکمران کا ہن عظم بن رہے تھے۔ یہ اگرچہ کا ہن خاندان سے تعلق رکھتے تھے لیکن صدقہ کی اولاد نہ تھے۔ ان یہودیوں کے اقتدار اور کافروں کے اقتدار میں فرق بھی بہت کم تھا۔ البتہ اس بات کو ترجیح دی جاسکتی تھی کہ حسمونی اچھے سپاہی اور چالاک سفارت کار تھے اور پھر یہ کافر نہیں تھے۔ شمعون کو اس کے اپنے بیٹوں نے قتل کر دیا لیکن صدیوں کی ذلت اور تاریکی کے بعد زیادہ تر یہودی مسلمان اور حسمونیوں کی کامیابیوں پر نزاں تھے۔ جب شمعون کے بیٹے جان ہر کانس (104-134 قم) نے مسافات کے علاقے فتح کرنا شروع کئے تو ایسا محسوس ہونے لگا کہ بادشاہ داؤ دکا پر شکوہ دور واپس آ رہا ہے لیکن 125 قم کے قریب سیلوکسی اپنے داخلی انتشار اور پارٹھیوں کے ساتھ آئے دن کی لڑائیوں سے اتنے کمزور ہو چکے تھے کہ ہر کانس کو سامریہ پر قبضہ کرنے میں کوئی دشواری پیش نہ آئی۔ اس نے پہلا قدم یہ اٹھایا کہ سیکم کے قریب کوہ گرزیم پر یہواہ کے لیے بنایا گیا معبد مسماਰ کیا۔ ہر کانس نے اپنی سرحدیں اودوم تک پھیلایا اور وہاں کے باشندوں کو یہودیت قبول کرنے اور لڑکوں کے ختنے کرانے پر مجبور کیا۔ جس طرح متعدد انقلابوں میں ہوتا ہے یہاں بھی ہوا اور بغاوت کر کے اقتدار میں آنے والوں کا طرز عمل سابقہ حکمرانوں جیسا ہو گیا۔ سیلوکسیوں کی

طرح حسمونی بھی سامراجی انداز میں اپنے مکملوں کے مذہب کو جبرا کے ساتھ ختم کرنے پر اتر آئے۔

یہودیہ کی ریاست بھی بقسمتی سے یونانی ریاست میں تبدیل ہونے لگی۔ ہر کانس کے دور میں یروشلم کو معبد کے پہاڑ سے آگے مغربی پہاڑی تک وسیع کر دیا گیا۔ یہ حصہ دولت مند اشرافیہ اور کا ہن خاندانوں کا مسکن بن گیا جو زیریں علاقہ

کے پرانے غریب باشندوں کے بر عکس پر تھیں زندگی گزار رہے تھے۔ شہر کا مغربی علاقہ ایک یونانی شہر بنتا چلا گیا۔ حسمونی دور کے آثار بہت کم دریافت ہوئے ہیں لیکن یہ بات یقینی ہے کہ وہاں ایک اگورا (متمول بازار) موجود تھا جو مغربی پہاڑی کے ارد گرد تعمیر کیا گیا تھا۔ حسمونیوں نے جیسیں کام جمنیزیم بند کر دیا۔ لیکن شہر کے مغربی حصہ میں ”زشاس“ موجود رہا۔ یہ ایک چوگوشہ میدان تھا جس کو یونانی شہری ریاست کی روایت کے مطابق اتحدیٹک مقابلوں کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ لیکن یروشلم میں اس کا مصرف عوامی اجتماعات تھا۔

عمارتوں کی باقیات میں سے ایک وادی قدر وون میں بن حاضر کا ہن خاندان کا مقبرہ موجود ہے جو یونانی اور مقامی طرز تعمیر کا ایک دلچسپ امترانج تھا۔ مغربی پہاڑی کی مشرقی ڈھلوان پر حسمونیوں نے اپنے لیے ایک شاندار محل تعمیر کیا۔ (20) وادی ال وعد پر ایک پل بنائی جس کو مسجد کو آپس میں مربوط کر دیا گیا۔

شہر کے یونانی خدوخال کے باوجود معبد اب تک روحانی، سیاسی اور طبعی طور پر غالب حیثیت رکھتا تھا۔ مصر کے یونانی حکمران بادشاہ بطیموس دوم کے دور کا ایک مورخ یروشلم کے معبد سے بہت متاثر تھا۔ آرستیاس نامی یہ مورخ لکھتا ہے کہ معبد کوہ صیہون کی چوٹی پر ایسنا دہ ہے۔

MAP (نقشہ)

اس کے نیچے گھر اور گلیاں اس طرح بے ترتیبی سے بنی ہوئی نظر آتی ہیں جس طرح بیضوی تھیڑ میں نشستیں۔ ہیکل کے مدخل پر کھنچے ہوئے بڑے بڑے پردوں کے منظر نے اسے بہت مسحور کیا۔ ”یہ مدخل ہر طرح سے ایک دروازے کی مشابہت رکھتا ہے لیکن جب ان پردوں کے نیچے سے ہوا گزرتی ہے تو یہ چوٹی تک اس طرح سرسراتے ہوئے ہلتے ہیں کہ منظر بیان نہیں کیا جاسکتا۔“ (21) آرستیاس نے معبد کے ملحقات کی پگڈنڈیوں کے نیچے پانی کے نظام کی بھی بہت تعریف کی ہے۔ جس کے ذریعے قربانی کے جانوروں کا خون صاف کیا جاتا ہے۔ اس نے زمین کے ساتھ کان لگا کر نیچے بہتے ہوئے پانی کی آواز سنی اور بہت حیران ہوا۔ کاہنوں کے برتاؤ اور مہارت سے آرستیاس بہت زیادہ متاثر نظر آتا ہے۔ وہ مسلسل اور انہک مخت کے ساتھ ایک کے بعد دوسرا جانور قربان کرتے ہیں لیکن بے زاری یا عدم تو جہی کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ انہیں یقیناً بہت زیادہ جسمانی طاقت کی ضرورت رہتی تھی (22) کیونکہ انہیں ذیحوں کے بھاری بھر کم جسم ایک ہاتھ سے اٹھا کر کافی دیریک ہوا میں معلق رکھنا پڑتے تھے۔ پھر ذیحوں کے ٹکڑے کرنا ہوتے تھے۔ ان کا زیادہ تر کام ناخوشنگوار ہوتا تھا۔ پورا کام انہنہی خاموشی سے سرانجام دیا جاتا۔ معبد کے صحنوں میں بھی سکوت طاری رہتا تھا، خاموشی اتنی

گھری ہوتی تھی کہ لگتا تھا معبد میں کوئی ذی روح موجود نہیں۔ آرستیاس لکھتا ہے کہ اگرچہ کاہنوں کی تعداد سات سو کے قریب تھی اور قربانی کے جانور لانے والے بھی بہت زیادہ ہوتے تھے لیکن سب کام انہائی وقار، احترام اور خاموشی سے کئے جاتے تھے۔ (23)

لیکن یہودیہ کے سمجھی یہودی اس توصیف میں شامل نہیں تھے۔ اگرچہ وہ سب جذباتی طور پر معبد سے وابستہ تھے لیکن ان کی ایک بڑی تعداد محسوس کرتی تھی کہ حسمونیوں نے یک جھٹی کو فضان پہنچایا ہے۔ ان تکلیف دہ برسوں میں

یہودیہ میں تین فرقے ابھر آئے۔ وہ اگرچہ مجموعی آبادی کا انہائی معمولی تناسب تھے لیکن زبردست اثرات کے حامل تھے۔ ان کے بغایانہ خیالات کے مطابق مستقبل میں یہودیہ کے یہودیوں کے لیے یہ بات تقریباً ناممکن ہو گئی کہ اپنے خارجی دشمن کے مقابلے میں متحدرہ سکیں۔ لیکن ہم اگلے باب میں دیکھیں گے کہ ایک معاملہ ایسا تھا جو انہیں فوراً متحدر کر سکتا تھا اور یہ معبد کے قدس کو درپیش کوئی بھی خطرہ ہو سکتا تھا۔ صدو قی حسمونیوں کے حامی تھے۔ یہ فرقہ قیامت میں روحوں کے وجود اور سنت قدیمہ کی پابندی کا قائل نہیں تھا۔ صدو قی مغربی پہاڑی پر واقع بالائی شہر میں رہنے والے دولت مند اور کاہن طبقات سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ قدیم صدقہ کا ہن کی اولاد نہیں تھے بلکہ یونانی اثرات سے مخلوب تھے اور کافر پڑوئی ریاستوں سے اچھے تعلقات کے خواہش مند تھے۔ البتہ وہ اپنی قوم کی قدیم شناخت یعنی بادشاہ، معبد اور مذہب کی رسوم سے بھی وابستہ رہنا چاہتے تھے۔ مشرق قریب میں اس وقت کی قومی تحریکوں کی طرح یہودیت بھی قدامت پسندی کا میلان رکھتی تھی۔ تصوراتی ماضی سے پیوٹنی نے یونانی جوش و خروش کو اپنی روایت کے ساتھ نہیں کرنے کا ایک طریقہ تھا۔ صدو قی تحریری توریت میں کسی طرح کا رد و بدل قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ حسمونی بادشاہ داؤد جیسے ہیں جس نے مذہبی پیشوایت اور بادشاہت کو ایک دوسرے میں غم کر دیا تھا۔ لیکن دوسرے یہودی حسمونیوں سے اتنے خوفزدہ تھے کہ انہوں نے بیانوں کی طرف نئے خروج کے لیے خود کو یہودی سماج سے نکال لیا تھا۔ ان کا قائد

”راستبازی کا استاد“ کہلاتا تھا۔ ممکن ہے یہ وہی کاہن اعظم ہو جسے جونا تھن کے تقریکے وقت منصب سے معزول کر دیا گیا تھا۔ یہ اعلیٰ منصب صرف صدقہ کا ہن اعظم کی اولاد کا حق تھا، چنانچہ جونا تھن کے تقریرنے معبد کی تقدیس کو مجرور کر دیا تھا۔ مزکورہ فرقے کے کچھ پیروکاروں کو صوفیا کہا جاتا تھا، یک نسلی معاشرے کی صورت میں یہ لوگ بحردار کے قریب قمران میں رہتے تھے۔

اسی فرقہ کے بقیہ لوگ کم انہیا پسند تھے۔ یہ لوگ یہودیہ کے شہروں اور قصبوں میں رہتے تھے اور معبد میں عبادت بھی کرتے تھے لیکن انکا ایمان تھا کہ اسے بری طرح ناپاک کر دیا گیا ہے۔ صوفیا مکاشفہ کے تصورات کو سینے سے لگائے ہوئے تھے اور یقین رکھتے تھے کہ ایک دن حتمی نجات کا دور شروع ہو گا اور پھر خدا مقدس شہر کو نئے سرے سے پاک صاف کر کے ان کے

لیے نیا معبد تعمیر کرے گا۔ جان ہر کالنس کے دور میں اس فرقے کو خوب فروغ ملا اور ان کی تعداد چار ہزار تک پہنچ گئی۔ یروشلم میں بھی ”صوفیا برادری“، نشوونما پانے لگی۔

تیسرا گروہ فریسیوں کا تھا جو سب سے زیادہ با اثر تھا۔ یہ لوگ توریت کے احکام پر سختی سے عمل کرنے کے قائل تھے۔ ان کا موقف تھا کہ حسمونی حکمرانوں کو کا ہن اعظم کا منصب اپنے پاس نہیں رکھنا چاہیے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ان برے یہودیوں کی بجائے غیر ملکی حکمرانوں کے اقتدار میں لوگ زیادہ خوشحال رہتے تھے۔ فریسی فرقہ ہی غالباً اس بغاوت کے پس پرداہ تھا جو یروشلم میں جان ہر کالنس کے ابتدائی دور میں پھوٹ پڑی تھی لیکن اس بغاوت کو سختی سے کچل دیا گیا تھا۔ (24) انہوں نے ہر کالنس کے بیٹھے سکندر جنایوس (76-105ق م) کے اقتدار کی بھی مخالفت کی تھی۔ سکوتھ کے تھوار کے ایک موقعہ پر معبد میں بادشاہ پر حملہ کیا گیا۔ اس حملے میں بھی غالباً یہ لوگ شامل تھے۔ جلوس میں اپنے ساتھ لائے گئے ترش پھلوں کی انہوں نے بادشاہ پر بوچھاڑ کر دی۔ اس واقعہ کے فوراً بعد سکندر نے انتقامی کارروائی میں چھ ہزار افراد کو قتل کر دیا۔ (25)

اس نے یروشلم میں آٹھ سو باغیوں کو مصلوب اور ان کے سامنے ان کی بیویوں اور بچوں کو بے رحمی سے ذبح کروایا۔ باغی صلیبوں پر لٹکے ہوئے تھے، ان کے بیوی بچوں کو ذبح کیا جا رہا تھا اور سکندر وہاں ایک چبوترے پر اپنی داشتا ڈل کے جلو میں میں نوشی میں مصروف تھا۔ (26) اس خوفناک واقعہ نے لوگوں کو یقین دلا دیا کہ اپنی بادشاہت جس سے انہوں نے حیات بخش امیدیں وابستہ کر رکھی تھیں یونانی طرز کے استبداد کے سوا کچھ نہیں۔

سکندر جنایوس نے نئے علاقوں کو تسخیر کرنے کا عمل جاری رکھا اور دریائے اردن کے دونوں طرف ایک وسیع سلطنت کا حکمران بن گیا۔ جب اس نے نئے علاقے فتح کئے تو غیر یہودی باشندوں کو اختیار دیا گیا کہ وہ یہودیت کو قبول کر لیں۔ جن لوگوں نے ایسا کرنے سے انکار کیا انہیں ملک بدر کر دیا گیا۔ سکندر کو علم تھا کہ اس کا اقتدار ہمہ گیر مقبولیت نہیں رکھتا۔ چنانچہ بستر مرگ پر اس نے اپنی بیوی سلومنی کو وصیت کی کہ حکومت فریسیوں کو دے دی جائے۔ وہ ان کے اثرات سے آگاہ تھا اور سمجھتا تھا کہ فریسی ہی اس کی جانشین یعنی اس کی بیوی کو قوم کی پشت پناہی دلا سکتے ہیں۔ (27) سلومنی۔ ایسا ہی کیا لیکن یہ اقدام حسمونی خاندان کے اقتدار کو نہ بچا سکا۔ سلومنی کی موت (67ق م) کے بعد اس کے دونوں بیٹے ہر کالنس دوم اور آریستو بوس دوم بادشاہت اور کا ہن اعظم کے مناسب کے لیے مختلف بیرونی طاقتوں کی مدد سے خون ریز خانہ جنگی میں الجھ گئے۔ ان کے بیرونی حلیفوں میں سب سے اہم ادومیہ کا اینٹی پیٹر تھا جو سکندر جنایوس کے زمانے میں علاقے کا گورنر ہے چکا تھا اور اب ہر کالنس دوم کا حامی تھا۔ ہر کالنس اور آریستو بوس دونوں نے رومی جرنیل پوپیٹ سے مدد کی درخواست کی۔ پوپیٹ 64ق م میں انطا کیہ میں داخل ہوا۔

MAP (نقشہ)

اس نے آخری سیلوکسی بادشاہ کو معزول کر کے انطا کیہ کرو من سلطنت میں شامل کر لیا۔ فریسیوں نے بھی ایک وفد پومپی کے پاس بھجوایا اور درخواست کی کہ ان کے ملک سے بھی بادشاہت ختم کر دی جائے کیونکہ یہ ان کی مذہبی تعلیمات کے منافی ہے۔

MAP (نقشہ)

نئے یہودی سال کے موقعہ پر ایک ربی دیوار گریہ کے سامنے میں ناقوس بجارتا ہے۔
قدیم معبد کی یہ رسم اب نجات کا دورلانے کے لئے ادا کی جاتی ہے۔

یو شلم متحارب گروہوں کا میدان جنگ بن گیا۔ آریستوبولس اور اس کے

حامیوں نے خود کو معبد میں جمعی کر کے ناکہ بندی کر دی۔ انہوں نے وادی ال وعد کے اوپر بننے پل کو جلا دیا۔ ہر کانس اور اینٹی پٹر کے قبضہ میں بالائی شہر تھا۔ انہوں نے رومن فوج کو اپنی مدد کے لیے بلا لیا۔ رومی سپاہی حسمونی محل میں متعین کردیئے گئے خود پومپی نے معبد کے پہاڑ کے شمال میں اس جگہ اپنا خیمه نصب کر دیا جو شہر کا سب سے غیر محفوظ مقام سمجھا جاتا تھا۔ آریستوبولس تین ماہ تک ڈھارہا۔ مورخ جوزیفس بتاتا ہے کہ رومن جرنیل معبد کے کاہنوں کی عقیدت پر انگشت بدندال تھا جو معبد کے صحن میں برستے ہوئے پتھروں اور تیروں کی ذرہ برابر پروا کئے بغیر قربانی کے جانور لے کر صحن میں سے گزرتے۔ کاہنوں نے اپنے مذہبی فرائض ادا کرنے میں اس وقت بھی کوئی دقیقتہ فروغ نہ کیا جب رومن سپاہی تمام دفاعی رکاوٹیں توڑتے ہوئے ستمبر 63 ق میں ہر کانس کے سپاہیوں کے ساتھ معبد کے صحن میں داخل ہو گئے۔ (28) اس موقع پر شہر میں بارہ ہزار یہودیوں کا قتل عام کیا گیا۔ لیکن یہودی اس وقت ششدہ رہ گئے جب پومپی معبد کی عمارتوں میں داخل ہوا اور پھر پہلی میں سے گزرتا ہوا خانہ اقدس کی تاریکی کا مشاہدہ کرنے لاگا۔ پھر اس نے پلٹ کر اعلان کیا کہ معبد سے سپاہیوں اور غیر متعلقہ لوگوں کو فوراً انکال دیا جائے اور اس کی طہارت اور تقدیس کا انتظام کیا جائے۔ یہ اعلان غالباً لوگوں کو خوش کرنے کے لیے تھا۔ لیکن ملک پر رومنوں کا تسلط بھی عدم اطمینان کا سبب بنا۔ رومن اس ملک کو فلسطینیہ کہتے تھے۔ انہوں نے فلسطینیہ اور معبد کے قدس کو پاماں کرنا شروع کر دیا۔ یہودی بے بُسی کے ساتھ اپنے نئے آقاوں کے ہاتھوں ایک بار پھر

معبد کی بے حرمتی دیکھنے پر مجبور تھے۔

=====

حوالہ جات

=====

1. JOSEPHUS, Antiquities of the Jews 11:7.
2. IBID 12: 175-85

بن سیرا 50:5-12 -3

بن سیرا 45:17 -4

بن سیرا 45:17 -5

بن سیرا 50:1-4 -6

بن سیرا 13:20-27 -7

بن سیرا تعارف 12 V. -8

کتاب دانیال میں ممنوعات سے متعلق استعمال کی گئی اصطلاحیں بعل اور

شمیش دیوتاؤں کے حوالے سے راجح تھیں۔

10. HARTIN HENGEL, Judaism and Hellenism, Studies in their encounter in Palestien During the Early Hellenistic Period (London) 1974- pp. 294-300.
 - BICKERMAN, From Ezra to the Last of The Maccabees (New York- 1962) pp.286-89.
 - The Jews in Greek Age- pp. 294-96.

11. CORPUS HERMETICUM 16: 12.
LA Revelatio d'Hermes Trismegiste (Paris - 1954) 1: 26
12. HAI GAON (939- 1038)
- The Jewish Mystics (Jerusalem 1076, London 1990).

اینچ 4	- 13
میکاپر 5:27	- 1 - 14
میکاپر 2:44-48	- 1 - 15
میکاپر 4:36-61	- 1 - 16
میکاپر 8:17-32	- 1 - 17
میکاپر 10:17-21	- 1 - 18
میکاپر 13:49-53	- 1 - 19
جوزیفس 2:190	- 1 - 20

21. Historia de Legis Divinae (London- 1895, New York- 1971)
22. Ibid- p. 3.
23. Ibid- p.4

جوزیفس، دی جیوش وار 1:67-69	- 24
جوزیفس، اپنسیلیپر 13:372	- 25
جوزیفس، اپنسیلیپر 13:38 ' جیوش وار 1:97	- 26
جوزیفس، اپنسیلیپر 13:401	- 27
جوزیفس، جیوش وار 1:148	- 28

29. LATINIZATION OF pHILISTIAN.

=====

ساتواں باب

تباءٰ ہی

پومپئی نے اپنی فتح کے بعد شکست خورده حسمونی ریاست پر کڑی شرائط عائد کر دیں۔ یہودیوں کو یہودیہ، ادو میہ، بیسر اور گلیلی پر حکومت کرنے کی اجازت دی گئی جبکہ سامریہ کے یہواہ پرستوں اور ساحلی علاقوں کے بت پرستوں کو اپنے علاقوں میں نیم خود منتری دے دی گئی۔ اسی طرح یونانی شہروں (فونیشین ساحل کے شہروں) کو اپنے معاملات خود نہ مٹانے کے لیے کہہ دیا گیا۔ جن لوگوں کو یہودیت قبول نہ کرنے کی پاداش میں علاقہ بدر کر دیا گیا تھا انہیں اب واپس آنے کی اجازت مل گئی۔ آریستوبولس کو زنجیروں میں جکڑ کر روم بھجوادیا گا۔ رومیوں کے حلیفوں کو مناصب مل گئے۔ پومپئی نے اینٹی پیٹر کوفونج کا سربراہ بنانے کے ساتھ ساتھ یہودیہ کا حکمران بنایا لیکن اسے دمشق میں رومی لیگیٹ (گورنر) کو اپنی سرگرمیوں سے آگاہ کرنے کا پابند بنادیا گیا۔ ہر کالس دوم کو کاہن اعظم کا منصب ملا۔ اس تقرر سے وہ لوگ مطمئن ہو گئے جو ابھی تک حسمونی اقتدار کے حامی تھے۔ لکھیں اب یو شلم سیاسی اہمیت سے محروم ہو گیا۔ پومپئی نے اس کی دیواریں زین بوس کر دیں۔ اب یہ محدود سے ذیلی صوبے کا دارالحکومت تھا۔ اور صوبہ گلیلی سے انتظامی طور پر کاٹ دیئے جانے والے اس علاقے میں شامل تھا جس میں سامریہ کے لوگ اور بت پرست رہتے تھے جنہیں اپنے یہودی پڑوسیوں سے کسی قسم کی کوئی ہمدردی نہیں تھی۔

حسمونیوں نے ایک دفعہ پھر اپنی طاقت منظم کرنے کی کوشش کی۔ ایک مرحلہ ایسا بھی آیا کہ آریستوبولس روم سے فرار ہو کر یو شلم پہنچ گیا اور اپنا اقتدار بحال کرنے میں ایک حد تک کامیاب ہو گیا۔ اس نے شہر کی دیواروں کی تعمیر شروع کر دی۔ 57 قبل مسیح میں شام کے رومی لیگیٹ نے حسمونیوں کی بظاہوت کچل دی۔ آریستوبولس اور اس کے بیٹے سکندر کو قید کر کے پھر روم پہنچا دیا گیا لیکن فلسطین رومیوں کے لیے عسکری ضرورت کے تحت بہت زیادہ اہمیت رکھتا تھا۔ چنانچہ وہ اپنی

یہودی رعیت کو غیر ضروری طور پر برہم نہیں کرنا چاہتے تھے۔ آریستو بولس کے دوسرا بچوں کو فلسطین میں قیام کی اجازت دے دی گئی۔ ہر کانس مسلسل کا ہن عظم رہا اور حسمو نیوں کو ملک میں اپنی نمایاں موجودگی برقرار رکھنے کی بھی اجازت رہی۔ البتہ اینٹی پیٹر کو اب بھی سب سے زیادہ قوت و اختیار حاصل تھا۔ وہ ایک زیریک اور مکار حکمران تھا اور یہودی اس کا احترام کرتے تھے حالانکہ اس کا خاندان ان کچھ دیر پہلے یہودی ہوا تھا اور ادومی ہونے کی وجہ سے مختلف نسلی شناخت رکھتا تھا۔ اینٹی پیٹر اور اس کے بیٹے یہ بات کبھی نہ بھولے کہ انکا اقتدار رومیوں کا مر ہونا منت ہے چنانچہ وہ رومی سلطنت کی ہنگامہ خیز داخلی سیاست پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ 49 ق م میں جب جولیس سینزرنے پوپیٹ کو شکست دی تو اینٹی پیٹر حالات کا رخ دیکھ کر بہت پہلے ہی جولیس سینزر کی صفوں میں خود کو شامل کر چکا تھا۔ جولیس سینزر نے اینٹی پیٹر کو اس کی وفاداری کا صلد دیتے ہوئے یہودیہ کا حاکم مطلق (پریفیکٹ) بنادیا اور یہودیم کی دیواریں دوبارہ تعمیر کرنے کی اجازت دے دی۔ یافہ کی بندرگاہ اور بیزریل کی وادی یہودیوں کو واپس دے دی گئی۔ اینٹی پیٹر کے دو بیٹوں کو ضلعی حاکم بنادیا گیا۔ ایک بیٹے ہیرودیس کو گلیلی اور دوسرے بیٹے فازائیل کو یہودیہ کا ضلعی حاکم (ٹیٹر ارس) بنادیا پنے باپ کے ماتحت کر دیا گیا۔ انہیں وراثت میں اپنے باپ کی سیاسی عیاری ملی تھی۔ خلفشار کے دنوں میں انہیں اس کی بہت ضرورت تھی۔ 15 مارچ 44 ق م کو روم میں جولیس سینزر کو قتل کر دیا گیا۔ اس قتل کے پچھے سینٹروں کی سازش تھی اور سازش کے سر غنہ کارکوس بروٹس اور گائس کیشنس تھے۔ اسی برس اینٹی پیٹر کو ایک پرانے خاندانی دشمن نے قتل کر دیا۔ ہیرودیس اور فازائیل، کیشنس کے کلامیٹ بن گئے لیکن وہ روم میں بدلتے ہوئے حالات پر نظریں جمائے رہے۔ جب سینزر کے بھتیجے اور لے پا لک بیٹے اوکٹاوین اور مارک انٹونی نے بروٹس اور کیشنس کے خلاف جنگ چھیڑی تو ہیرودیس اور فازائیل اپنی واٹسٹگی تبدیل کرنے کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ 42 ق م میں فلپی کی جنگ کے بعد بروٹس اور کیشنس کو شکست ہو گئی تو ہیرودیس اور فازائیل اینٹونی کے وفاداروں کی فہرست میں نمایاں تھے۔ رومی سلطنت کے تمام مشرقی صوبے اب مارک اینٹونی کے ماتحت تھے۔ روم امن و خوشحالی کے ایک نئے دور میں داخل ہو رہا تھا اور ہیرودیس اور فازائیل کو اس کی سر پرستی حاصل تھی۔

40 ق م میں رومیوں کے ہاتھوں سے فلسطین عارضی طور پر نکل گیا۔ میسو پوٹیمیا کے پارٹھیوں نے ان کا دفاع توڑ کر کنعان کا علاقہ اپنی عمل داری میں لے لیا۔ رومی کنعان کے علاقہ کو فلسطین کہا کرتے تھے۔ پارٹھیوں نے ایک حسموںی شہزادے اینٹی گونس کو یہودیم میں اپنا کلامیٹ بنادیا۔ قدیم رومن دولت مند شخص کے ردیل حاشیہ نشین کو کلامیٹ کہا کرتے تھے۔ بعد میں یہ لفظ سیاسی و انتظامی نمائندگی کے لیے بھی استعمال کیا جانے لگا۔ یہودیم پر پارٹھیوں کے قبضہ کے بعد فا زائیل کو قیدی بنالیا گیا۔ اس نے قید کے دوران خود کشی کر لی۔ لیکن ہیرودیس جنگ کے دوران فرار ہو کر روم پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ وہاں اس نے روم کی سینٹ کو قائل کر لیا کہ وہ ایک قابل یہودی ہے اور روم کی طرف سے فلسطین کو سنبھال سکتا ہے۔ روم کے سینٹروں نے ہیرودیس کو یہودیوں کے بادشاہ کا خطاب دے کر بھاری فوج کے ساتھ فلسطین والپس بھیجا۔ ہیرو

دیس نے 39 قم میں انٹونی کی اعانت سے گلیلی فتح کر لیا۔ 37 قم میں اس نے یروشلم کا محاصرہ کیا اور 4 ماہ کے بعد ایک خوفناک قتل عام کے ساتھ شہر پر بقصہ کر لیا۔ یروشلم کی تنگ گلیوں کے ساتھ ساتھ معبد کے صحن میں بھی ہزاروں یہودیوں کی لاشیں بکھری پڑی تھیں جہاں یہواہ کے حضور قربانیاں پیش کی جاتی تھیں۔ اینٹی گنس، حسمونی کو اینٹونی نے ہیرودیس کی درخواست پر پھانسی دے دی۔ یہ پہلا موقع تھا جب رومنوں نے اپنے کسی ماتحت بادشاہ کے اشارے پر وسیع قتل و غارت گردی کی۔

ہیرودیس کو یروشلم میں فلسطین کا یہودی بادشاہ بنانے کے بعد علاقے کے کلی اختیارات سونپ دیئے گئے۔ رومنوں کو اطمینان تھا کہ ہیرودیس حالات پر قابو پالے گا۔ چنانچہ رومی فوجیں واپس چل گئیں۔ یروشلم کی خون ریز تسبیح کے باوجود ہیرودیس کے حامی یہودیوں میں موجود تھے۔ فریسی اب بھی حسمونیوں کے دشمن اور ہیرودیس کے حليف تھے۔ ہیرودیس نے ایک سیاسی چال چلی اور حسمونی شہزادی ماریہ سے شادی کر لی۔ اب وہ حسمونی خاندان کے ہمدردوں کی نظر میں بھی یروشلم کا جائز حکمران بن گیا۔ 36 قم میں اس نے ماریہ کے چھوٹے بھائی جونا تھن کو کاہن اعظم بنادیا۔ لیکن یہ اقدام ایک سنگین غلطی ثابت ہوا۔ سکوتھ کے تھوار پر جب نوجوان حسمونی کو کاہن اعظم کا خصوصی لباس پہنایا گیا تو لوگ جذباتی ہو گئے اور روتے ہوئے گلیوں میں نکل آئے۔ انہوں نے جونا تھن کے حق میں نعرے لگانے شروع کر دیئے۔ یہ ایک خطرناک علامت تھی۔ ہیرودیس نے جونا تھن کو قتل کر دیا اور کاہن اعظم کے منصب پر اپنے ایک باعتماد آدمی کو بٹھا دیا۔ اپنے اقتدار کے لیے خطرہ بننے والے ہر شخص کو ہیرودیس نے ہمیشہ سفا کی سے ختم کر دیا۔ لیکن مجموعی طور پر وہ ایک لاک اور خداداد صلاحیت رکھنے والا حکمران تھا۔ اس نے ایک ایسی ریاست میں امن و امان برقرار کر کا جو بنیادی طور پر غیر مستحکم تھی۔ اس کے اقتدار کے آخری دنوں کے علاوہ کبھی کوئی شورش برپا نہ ہوئی۔

کاہن اعظم کے منصب پر اپنی مرضی سے کسی کو فائز یا معزول کرنا اور کسی بغاوت کا جنم نہ لینا ہیرودیس کی طاقت کا مضہر تھا۔ ہم دیکھے چکے ہیں کہ یہ عہدہ طاقتو قسم کے اثرات مرتب کرتا تھا چنانچہ کاہن اعظم بننے والا فرد بعد میں ساری عمر اس منصب پر رہتا تھا۔ ہیرودیس کے دور میں یہ عہدہ سیاسی تقرر بن گیا۔ اس کے باوجود اس کی چمک دمک اور شان و شوکت ختم نہ ہوئی۔ کاہن اعظم کو محض سیاسی مہرہ سمجھا جاتا تھا۔ ہیرودیس نے مناسب سمجھا کہ اس مذہبی عہدیدار کی خلعت و پوشش کو کم سے کم استعمال میں لایا جائے تاکہ یہ زرق برق لباس پہننے والا لوگوں کی نظروں میں زیادہ اہمیت نہ حاصل کر سکے چنانچہ اس لباس کو سرکاری تحویل میں لے لیا گیا اور صرف مذہبی تھواروں پر نکالا جاتا۔ کاہن جب یہ لباس پہنتا تو لوگوں کی نظر میں وہ آسمانی پیکر بن جاتا اور انسانوں کی طرف سے یہواہ سے رابطہ کرنے کی طاقت اسے میسر آ جاتی۔ یروشلم میں اس لباس کی تحویل کا معاملہ سیاسی ترجیح بن گیا۔ صرف شہنشاہ ہی کا ہنوں کو مستقل طور پر اس لباس کی تحویل کی اجازت دے سکتا تھا۔ شہنشاہ یہ اجازت بہت سوچ سمجھ کر دیا کرتا تھا کیونکہ جو آدمی یہ لباس پہنتا اسے آسمانی قوتوں کا ارضی مظہر سمجھا جاتا تھا اور تخت کے

لئے ایک خطرہ ثابت ہو سکتا تھا۔

ہیرودیس اگرچہ اپنے انداز کا ایک راستہ العقیدہ یہودی تھا لیکن اس نے فلسطین کے اندر اور باہر دوسرے مذاہب کے لئے کسی تعصب اور تنگ نظری کا مظاہرہ نہ کیا۔ حسمونیوں کے برعکس اس نے ملک کے کسی شہری کی مذہبی زندگی میں دخل نہ دیا۔ وہ حسمونیوں کی طرف سے لوگوں کو زبردستی یہودی بنانے کی پالیسی کو سیاسی حماقت قرار دیتا تھا۔ ہیرودیس نے رومی اور یونانی دیوتاؤں کے معبد نہ صرف اپنی سلطنت کے غیر یہودی علاقوں میں تعمیر کئے بلکہ اپنی سلطنت کے باہر بھی ایسے معبدوں کی تعمیر میں مدد دی۔ جب رومی شہنشاہ

اوکٹاوین نے خود کو خدائی قوت قرار دینے کا اعلان کیا تو ہیرودیس پہلا شخص تھا جس نے سامریہ میں اس کے نام کا معبد تعمیر کیا ہیرودیس نے اسے سپیا سٹ کا نام دیا جو رومیوں کے شہنشاہ کے نئے خطاب آکسٹس کے مساوی تھا۔ اوکٹاوین کے ہاتھوں مارک انٹونی کی شکست کے بعد ہیرودیس نے اپنی وفاداریاں تبدیل کر لی تھیں۔ 22 قم میں ہیرودیس نے ستر ٹیوزٹاوار کی قدیم بندرگاہ کے مقام پر آکسٹس (قیصر روم) کے احترام میں قیصری شہر کی تعمیر شروع کی۔ اس شہر میں رومی دیوتاؤں کے معبد بیضوی تھیں اور ایک بندرگاہ بنائے گئے۔ ہیرودیس کی طرف سے اپنی غیر یہودی رعایا کے لئے یہ ایک تحفہ تھا۔ انہی باتوں کی وجہ سے یہودیوں کا یہ بادشاہ غیر یہودی دنیا میں بھی احترام و وقار رکھتا تھا۔ اس کا آخری اعزاز یونانی اور رومی روایت کے تحت منعقدہ اولمپیک کھیلوں کی ایک تقریب کی صدارت ہے۔

لیکن اس سب باتوں کے باوجود ہیرودیس بہت محتاط تھا اور یہودیوں کو نالاں کرنے سے گریز ا رہتا۔ چنانچہ اس نے یروشلم میں کبھی کوئی غیر یہودی معبد تعمیر کرنے کا خواب نہ دیکھا۔ خوبصورت عمارتوں کا شوق اس نے یروشلم میں پورا کیا اور مقدس شہر کو مشرق کا ایک اہم عروس البلاد بنادیا۔ دفاعی پہلو ہمیشہ اس کے پیش نظر رہتا تھا چنانچہ شہر کے کمزور ترین مقام پر جہاں تھمیاہ نے شہر پناہ تعمیر کی تھی، ہیرودیس نے ایک بہت بڑے قلعے کی بنیاد دیں رکھیں۔ 35 قم میں یہ منصوبہ شروع ہوا۔ چونکہ وہ ابھی تک انٹونی کا وفادار تھا چنانچہ اس نے قلعہ کا نام اپنے سر پرست کے نام کی نسبت سے انٹونیہ رکھا۔ یہ ایک ڈھلوانی چٹان پر بنایا گیا جس کی بلندی 75 فٹ تھی۔ تیز ڈھلوانوں پر گڑھے ہوئے پتھر نصب کئے گئے۔ گڑھائی نے انہیں اس طرح چکنا بنا دیا تھا کہ ان پر چڑھنا تقریباً ممکن تھا۔ یہ ایک دفاعی حکمت عملی تھی۔ چوکور قلعہ ان چکنی ڈھلوانوں سے ساٹھ فٹ اوپر تھا۔ قلعہ کے چاروں کونوں پر ایک ایک مینار ایسٹا د تھا۔ عمارت کے اندر بہت بڑی فوج رکھنے کی گنجائش تھی۔ انٹونیہ ایک عسکری عمارت کے لوازمات رکھنے کے باوجود پر شکوہ محل تھا۔ اس کے ارد گرد ایک گھری خندق کھودی گئی۔ یہ خندق قلعے کو جنوب میں پھیلنے والے نئے شہر بے زیتا سے الگ کرتی تھی۔ یہاں اس نے پانی کا ایک دوھرا تالاب بنوایا جو شمعون عادل کے بنائے گئے تالاب بیت حصہ کے قریب آج بھی دیکھا جاسکتا ہے۔

ہیرودیس نے 23 قم تک یروشلم کی شکل و صورت بد لئے کی کوئی سنبھیڈہ کوشش شروع نہ کی اس سے پہلے 25

اور 24 قم میں فلسطین میں قحط پڑا تو اس نے لوگوں میں غله اور اشیائے خور و نوش تقسیم کرنے کا فوری اور موثر انتظام کیا۔ اس اقدام سے لوگوں کے دل جیت لئے۔ اب وہ اپنے منصوبے پر عمل درآمد کر سکتا تھا۔ قحط سے تباہ حال بہت سے لوگ جن میں یروشلم کے شہری بھی شامل تھے، ہیرودیس کے تعمیراتی کاموں میں روزگار حاصل کرنیکے خواہش مند تھے۔ ان باتوں نے بادشاہ کا کام آسان کر دیا۔ اس نے مغربی پہاڑی پر بالائی شہر میں اپنے لئے ایک محل کی تعمیر سے یہ کام شروع کیا۔ تین مینار بنانے کا رس کی قلعہ بنندی کر دی گئی۔ ان تینوں میناروں کے نام اس نے اپنے بھائی فرازائیل، بیوی ماریہ اور دوست ہپی کس کے ناموں پر رکھے۔ ان سب کی بنیادیں بہت ٹھوس اور تقریباً پہندرہ میٹر اونچی تھیں۔ ہپی کس کے مینار کی بنیاد بھی یروشلم کی شہرپناہ میں موجود ہے اور اسے مینار داؤ د کٹاؤ دین کی نسبت سے دیا گیا۔ دونوں عمارتوں کو ایک خوبصورت باغ کے ذریعے آپس میں ملا یا گیا تھا۔ باغ میں پانی کی ندیاں اور حوض بنائے گئے جن کے کناروں پر کانسی کے فوارے اور مجسم نصب تھے۔ ہیرودیس نے بالائی شہر کی گلیوں میں جنگلوں کا انتظام بھی کیا جس سے آمد و رفت آسان ہو گئی۔ بالائی شہر میں ایک تھیٹر اور تھوڑی دوڑ کا میدان بھی بنایا گیا۔ ان دونوں عمارتوں کے ٹھیک ٹھیک مقام کا تعین آج نہیں کیا جا سکتا۔ ہر پانچ سال کے بعد شہنشاہ روم (آکستش) کے اعزاز میں کھیلوں کا اہتمام کیا جاتا۔ اس موقع پر دور دراز سے نمایاں اتحلیبوں کی ایک بھاری تعداد یروشلم میں جمع ہو جاتی۔

MAP (نقشہ)

ہیرودیس کے عہد میں یروشلم ایک ممتاز اور پر وقار شہر بن گیا۔ جس کی آبادی ایک لاکھ بیس ہزار نفوس کے قریب تھی۔ اس نے شہر کی دیواریں بھی از سر نو تعمیر کیں۔ ماہرین ان دیواروں کی حقیقی لمبائی اور اونچائی کے بارے میں اختلاف رکھتے ہیں۔ جوزیفس کا کہنا ہے کہ پہلی دیوار قدیم شہر داؤ د کے مقام پر بننے والے زیرین اور بالائی شہر کا احاطہ کرتی تھی۔ دوسری دیوار ایک اجائی دفاعی لائن بننے ہوئے نئے تجارتی علاقے کے گرد گھومتی ہوئی انٹونیہ سے حسمو نیوں کی بنائی ہوئی پرانی شہری دیوار تک پہنچتی تھی۔ (1) زیرین شہر میں کچھ کم تر درجے کے محلات بھی تھے جو میسو پوٹیمیا شاہی خاندان کی ملکیت تھے۔ اس شاہی خاندان نے یہودیت قبول کر لی تھی۔ شہر کی دیواروں سے باہر انہوں نے کچھ بڑے بڑے مقبرے بھی بنانے کے تھے۔ انہیں آج کل بادشاہوں کے مقبرے کہا جاتا ہے۔ شہر کی دیواروں کے گرد وادیوں اور پہاڑوں میں خوبصورت چٹانی قبریں بھی بن رہی تھیں۔ مر نے والوں کو یہاں لا کر دفن کیا جاتا تھا تاکہ شہر ناپاک نہ ہو۔ ہیرودیس کے دور کی قبریں آج بھی قدر وون وادی میں موجود ستونوں، کتبوں اور چٹانی لحدوں پر مشتمل ہیں۔ انہیں زائرین ابی سلیمان کی لاث اور

یہ سفط کا مقبرہ کہتے ہیں۔

19 قم کے قریب ہیرودیس نے معبد کو پھر سے تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا۔ لوگ فطری طور پر اس فیصلے سے پریشان تھے۔ وہ سوچتے تھے کیا بادشاہ موجودہ عمارت کو مسما کر دے گا اور کیا اس کے پاس اس کام کے لئے کافی خزانہ ہے؟ کیا وہ توریت کے احکامات کو تسلیم کرتا ہے۔ ہیرودیس کی عمارت عموماً جدت پیش کرتی تھیں۔ لیکن معبد کا نقشہ تو الہامی ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور

حضرت داؤڈ کو بتایا گیا تھا۔ کیا بادشاہ اس کے مطابق سب کچھ کر سکے گا؟ ہیرودیس نے ان خدشات کو بڑی ذہانت سے دور کر دیا۔ اس نے معبد کی تعمیر کا کام اس وقت تک شروع نہ کیا جب تک تمام سامان آٹھا نہ کر لیا۔ پھر اس نے بڑی احتیاط سے پرانی عمارت کی بنیادوں کا سراغ لگایا۔ کاہنوں سے اصل نقشہ کی معلومات جمع کیں اور لوگوں کو یقین دلایا کہ غیر یہودی اور عام لوگ مقدس اور منوعہ حصوں میں قدم نہیں رکھیں گے۔ ہیرودیس نے ایک ہزار کاہنوں کو معماروں کے فن کی تربیت دلوائی۔ اسی طرح دیگر دستکاریوں کی تربیت کاہنوں اور راسخ العقیدہ یہودیوں کو دلوائی گئی تاکہ معبد کی تعمیر میں دنیادار لوگوں کی ضرورت نہ پڑے۔ مخصوص تربیت یافتہ کاہنوں کو ہیکل اور دیور (خانہ اقدس) کی تعمیر کا کام سونپا گیا۔ ہیرودیس خود اس عمارت میں کبھی داخل نہ ہوا جسے اس کا شاہ کار قرار دیا جاتا تھا۔ تعمیر کا کام اس انداز میں زیر عمل لایا گیا کہ قربانیاں پیش کرنے کا کام ایک دن کے لئے بھی نہ رکا جب کہ معبد کی عمارتوں کی تعمیر 18 ماہ میں مکمل ہوئی۔ عبادت کے تسلسل کی وجہ سے ہیرودیس کے بنائے ہوئے معبد کو دوسرا معبد، ہی کہا گیا اور نہ حقیقت میں یہ تیسرا معبد تھا۔

ہیرودیس معبد کی عمارت کے سائز یا شکل و صورت میں تو کوئی تبدیلی نہ کر سکا لیکن اس نے نئی عمارت نہایت خوشما بناوائی، دیواروں پہ سفید سنگ مرمر لگایا جن پر سرخی مائل اور نیلی لیکریں کندہ کی گئیں۔ ان لکیروں کی شبیہ سمندر کی لہروں جیسی تھی۔ (2) ہیکل کے دروازوں پر سونے کے ورق خوبصورت نقوش کے ساتھ چسپاں کئے گئے۔ یہ ورق انگور کی قدر آدم بیل کا منظر پیش کرتے تھے۔ (3) دروازوں پر انہاتی قیمتی پر دے آؤیزاں کئے گئے۔ جن پر ارغوانی نیلے اور اودے رنگ کے کشیدہ کاری سے چاند، سورج اور ستارے بنائے گئے تھے۔

اگرچہ معبد کی عمارتیں ماضی کی طرح بہت چھوٹی تھیں لیکن ہیرودیس نے وسعت دینے کا شوق معبد کا چبوترہ وسیع کر کے پورا کر لیا۔ یہ اتنا بڑا پر اجیکٹ تھا کہ اس کی تکمیل میں اسی برس لگ گئے ظاہر ہے ہیرودیس اتنا طویل عرصہ زندہ نہ رہ سکا اور اپنے شروع کئے گئے کام کو مکمل صورت میں نہ کیا سکا۔ لیکن اس کام میں مجموعی طور پر اٹھارہ ہزار محنت کشوں نے حصہ لیا۔ جب یہ چبوترہ کامل ہوا تو اس کا رقبہ تقریباً 135 ایکڑ اور اپنے اصل رقبہ سے کئی گناہ بڑا تھا۔ چونکہ یہ پلازا کوہ صیہون کے کنارے سے باہر تک پھیل گیا تھا چنانچہ اسے دیو ہیکل ستونوں، ٹیکیوں اور پشتیوں کا سہارا دیا گیا۔ جوز پیفس کا کہنا ہے کہ نئی معاون دیواریں اتنی عظیم تھیں کہ لوگوں نے ان کے بارے میں کبھی تصویر بھی نہ کیا ہوگا۔ (4) جن پتھروں سے یہ دیواریں

بنائی گئیں انمیں سے کچھ کا وزن دو سے پانچ ٹن کے درمیان تھا۔ چونکہ ہیرودیس معبد کے چبوترے کو مشرق کی طرف وسعت نہیں دینا چاہتا تھا۔ چنانچہ پرانی مشرقي دیوار جو شہر کی دیوار بھی تھی اپنی جگہ پر ہی رہی۔ اسے اب صیہون پر معبد کے پہلے عمار حضرت سليمان کی بنائی گئی بنیاد سے وابستہ کر دیا گیا۔ مغربی معاون دیوار تعمیرات میں سب سے طویل تھی اس کی پیا کش انٹونیہ سے جنوبی حد تک 530 گز کے قریب تھی۔ مغربی دیوار کے نیچے بازار تھا۔ اس کی دکانوں میں تمام کاروبار کا ہن کرتے تھے۔ یہ بازار زائرین اور سیاحوں میں بہت مقبول رہا۔ دکانیں ٹھیک دیوار کے سطح بنی ہوئی تھیں اور تین تین پتھر اونچی تھیں۔ شہر کی انتظامیہ کی عمارتیں اور سرکاری دفاتر بھی مغربی دیوار کے سامنے میں تھے۔ معبد کے چبوترے پر معاون دیواریں تین اطراف میں یونانی انداز کے ستونوں والے چھوٹوں پر ایستادہ تھیں بالکل اسی طرح جیسے آج کل حرم الشریف کے سامنے کا حصہ ستونوں پر کھڑا ہے۔ چبوترے کا پورا جنوبی حصہ بڑے بڑے ستونوں پر استور تھا جیسے رومان فورم میں بھی لیکا ہوتا تھا۔ جو بارش اور دھوپ دونوں سے لوگوں کو تحفظ دیتا تھا۔ شاہی غلام گردش جیسے ایک چھپ کا پھیلاو سال سبری کی تھیڈرل جتنا یعنی سو فٹ لمبا اور اپنے اوپر تین مقام پر ایک سو فٹ بلند تھا۔ جنوبی معاون دیوار کے آگے چمکتے ہوئے سفید سنگ مرمر سے مزین یہ غلام گردش جیسا چھپ

MAP (نقشہ)

مغربی دیوار۔۔۔ دیوار گریہ۔۔۔ بادشاہ ہیرودیس نے معبد کے لیے یہ معاون دیوار تعمیر کی تھی۔ اٹھارویں صدی میں مسلمانوں نے اس کی مرمت کی تو ہیرودیس کے زمانے کے بڑے پتھراستعمال میں نہ لاسکے۔

انتہائی دلکش منظر پیش کرتا تھا۔ دور سے یوں محسوس ہوتا تھا کہ پہاڑ برف سے ڈھکا ہوا ہے۔ (5) تباہ ہو جانے کے بعد بھی ایک طویل عرصہ تک ربی کہا کرتے تھے کہ جس نے ہیرودیس کا معبد نہیں دیکھا اس نے دنیا کی خوبصورت ترین عمارت نہیں دیکھی۔ (6)

زارین معبد کے صحن میں داخل ہونے کے لئے دو میں سے ایک راستہ اختیار کر سکتے تھے۔ وہ شاہی غلام گردش کو جانے والی سیڑھیوں کو استعمال کرتے یا پتھر دوپل عبور کرتے ہو مغربی معاون دیوار کے ساتھ موجود گلی کے اوپر بنائے گئے تھے۔ چبوترے پر پہنچ کر زائرین کو صحنوں کے ایک پیچیدہ نظام سے واسطہ پڑتا تھا۔ ایک کے بعد دوسرا صحن سامنے آتا جو

ایک شہر تین مذاہب

تقدیس کے حوالے سے پہلے سے اوپرے درجے میں ہوتا۔ یوں مرحلہ وار صحن دیور تک پہنچتے۔ سب سے پہلے زائر غیر یہود یوں کے صحن یا آنکن میں پہنچتا۔ معبد کا یہ حصہ سب کے لئے کھلا رہتا تھا۔ اس کے بعد اسرائیلیوں کا صحن آتا جس میں صرف مرد یہودی مذہبی تقاضوں کے مطابق پاکیزگی اختیار کر کے جاسکتے تھے۔ ان دونوں صحنوں کو ایک خوبصورت جنگلہ ایک دوسرے سے الگ کرتا تھا۔ جنگلہ پر انتباہی تحریریں موجود تھیں کہ غیر متعلقہ افراد کو داخل ہونے پر موت کی سزا دی جائے گی۔ رکاوٹ کے آگے عورتوں کا صحن تھا۔ اس میں ایک بارہ دوچھوٹی گلیری تھی۔ جہاں سے عورتیں قربان گاہ میں جھانک کر ذبح کا عمل دیکھ سکتی تھیں۔ عورتوں کے صحن کے آگے لاڈیوں کا صحن تھا۔ اور پھر آخر میں کاہنوں کا صحن جس میں مذبح یا قربان گاہ تھی۔ داخلی عمارت یعنی مقدس ترین مقام تک یہ تدریجی رسائی عبادت گزاروں اور زائرین کو باور کراتی تھی کہ وہ ایک مختلف قسم کے مقام کا معراج حاصل کر رہے ہیں۔ اس دوران انہیں پاکیزگی اور طہارت کے مذہبی مرحلے سے گزرنا پڑتا تھا جو انہیں احساس دلاتے کہ وہ روزمرہ دنیاوی زندگی سے ایک فاصلے پر آگئے ہیں اب انہیں ایک ایسے حلقہ میں داخل ہونا ہے جو ان کے مقدس خدا کا مخصوص علاقہ ہے۔ یہاں وہ جتنا عرصہ قیام کریں گے انہیں اسی پاکیزگی میں رہنا ہو گا جو کاہنوں پر فرض ہے۔ اگر کوئی زائر اپنے شہر یا گاؤں کے مقامی کاہن کی مدد سے طہارت کے ابتدائی مرحلے سے گزر کرنہیں آتا تھا تو اسے اوپر معبد کی طرف جانے سے پہلے سات دن تک یہ شلم میں رہنا پڑتا تھا۔ ایسے زائرین کو اس عرصہ کے دوران خنسی اختلاط سے دور رہنا پڑتا۔ انہیں تیسرے اور ساتویں دن مذہبی رسم کے مطابق اپنے جسم پر راکھ اور پانی کا چھپڑ کا وکرنے کے بعد باقاعدہ غسل کرنا پڑتا۔ یہ سات دنوں کا جبری وقفہ روحانی تیاری اور خود احتسابی کے لئے ہوتا تھا۔ زائرین اس کے ذریعے ایک داخلی سفر سے آشنا ہوتے جو انہیں بعد ازاں ماورائی حقیقت کی طرف معراج کے لئے تیار کرتا تھا اور جوان کی زندگی کی بالکل مختلف جہت ہوتی تھی۔

بالآخر جب وہ اپنے قربانی کے جانور کے ساتھ معبد کے چبوترے پر پہنچ جاتے تو انہیں محسوس ہوتا کہ وہ کائنات کے ایک حساس ترین مقام پر آگئے ہیں۔ اس احساس کی تمام تر حقیقت دراصل الگ تھلگ مقام کی مرہون منت ہوا کرتی تھی۔ یہاں زائرین کو پوری کائنات سمیٰ ہوئی محسوس ہوتی۔ جو زیفس جو معبد میں ایک کاہن کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے چکا تھا۔ اپنی تحریر میں اس کے کائناتی تصور کی تفصیل پیش کرتا ہے۔ غیر یہود یوں کا صحن ابھی تک یہم سے وابستہ تھا۔ یہی ابتدائی سمندر تھا جو برائی اور خلفشار کی علامت بن کر تخلیق کائنات کے وقت بھر گیا تھا اور خدا کی مظہم اور مرتب دنیا کی تغییل کے راستے

میں رکاوٹ بن گیا تھا۔ برائی اور خلفشار کی علامت کے طور پر یہاب بھی موجود تھا۔ زائر کو اس مستقل دمہن کے خلاف جدو جہد یادلانے کے لئے یہ صحن سب سے پہلے سامنے آتا تھا۔ اس کے برعکس ہیکل تخلیق کی گئی کائنات کا استعارہ تھا۔ اس کے پردے چار عنانصر کی علامت اور آسمانوں کا منظر تھے۔ عظیم شمع دان پر رکھے چراغ سات سیاروں کی نمائندگی کرتے تھے۔

نذرانے کی میز پر کھی بارہ روٹیاں سال کے بارہ مہینے تھے۔ قربان گاہ اور اس کے تیرہ مسالے۔ بحر و بر کی وہ تمام اشیا تھیں جو خدا کی نعمتیں تھیں اور خدا کے لئے تھیں۔ (7) اسکندر یہ کافیلو 41 سے 30 قم کے دوران یروشنم میں زائر کی حیثیت سے آچکا تھا۔ (8) وہ بتاتا ہے کہ ہیکل کا فرنیچر بھی ابتدائی آسمانی منظر پیش کرتا تھا اور ان تصورات کی تجسم کی گئی تھی جو انسانی بصارت سے ماوراء تھے۔ (9) معبد کے پہاڑ کی تراش خراش کچھ اس انداز میں کی گئی تھی کہ معبد کا راستہ خدا سے رسائی کا راستہ محسوس ہوتا تھا۔ زائر معبد تک پہنچتے ہوئے عام انسانی دنیا سے نکل کر اس منظم دنیا تک پہنچتا تھا جس کے راستے میں انتشار و افتراق کا مرحلہ، ابتدائی سمندر اور پھر تخلیق کا مرحلہ آتا تھا لیکن ان سب مرحلوں کو مختلف انداز سے دیکھنا پڑتا تھا۔ دنیا اب زائر کو خدا سے وابستہ دھائی دیتی وہ زندگی میں ہی زمین پر رہ کر آسمان کا سفر کرتا۔ بالکل اسی طرح کا ہن اعظم ہیکل میں سے گزرتا ہوا حقیقت مطلق تک پہنچتا تھا۔ یہ سب کچھ تمثیلی انداز میں تھا جس میں حقیقت مطلق خانہ اقدس تھی۔ اسے ہیکل سے جدا کرنے والے پردے نظر آنے والی دنیا کی علامت تھے۔ خانہ اقدس (دیور) اس لئے خالی تھا کیونکہ حقیقت مطلق انسانی فہم اور اک سے بالاتر ہوتی ہے۔ جوز یفس بتاتا ہے کہ۔۔۔۔۔ ”یہاں کچھ بھی نہیں رکھا گیا تھا کیونکہ یہاں قابل رسائی، ناقابل خلاف ورزی اور ناقابل دیدقوطت کی علامت تھا۔“ (10)

مقدس خدا کا جدا اور الگ ہونا اس طرح بھی باور کرایا جاتا تھا کہ معبد کے قلب کے پاس صرف کا ہن ہی جا سکتا تھا۔ جوز یفس بتاتا ہے کہ کا ہن اعظم کی پوشک بھی کائناتی اہمیت رکھتی تھی۔ اس کا چوغہ زمین اور آسمان دونوں کی نمائندگی کرتا تھا۔ اس کے بالائی پارچات چار عناصر کو ظاہر کرتے تھے۔ کا ہن اعظم کا لباس انتہائی موزوں تھا کیونکہ وہ ہیکل میں فرائض سرانجام دیتا تھا اور یہ فرائض نہ صرف پوری انسانیت کی طرف سے بلکہ مظاہر فطرت کی طرف سے ادا کئے جاتے تھے جن میں ہوا، آگ، پانی، مٹی شامل تھے۔ (11) لیکن جب وہ یوم کفارہ کو دیور میں داخل ہوتا تو صرف سفید رنگ کے سوتی لباس میں ہوتا۔ یہ لباس فرشتوں کا تھا جو آسمان اور زمین کے درمیان رابطے کے لئے آسمانی مخلوق تھے۔ مقدس مقام خالی ہونے کے باوجود ایک زبردست اور اعلیٰ ترین قوت کی موجودگی کا احساس بخشتا تھا۔ اس ماورائی قوت کو لفظوں میں بیان کرنا ناممکن تھا۔ تیاری کی مذہبی رسوم، پہاڑ پہ چڑھنا، صحنوں کے قدیمی درجے اور معبد کی عمارتیں سب مل کر عبادت گزاروں میں یہ احساس پیدا کرنے میں مدد کرتے تھے کہ وہ ایک ایسی جہت میں داخل اور ملفوظ ہو گئے ہیں جو اگر چہ عام زندگی کے ساتھ ہی پائی جاتی ہے لیکن اس سے بالکل مختلف اور ممتاز ہے۔ قدس کے درجے ان چبوتروں کی طرح تھے جو میسو پوٹیا کے گورتوں میں پائے جاتے تھے۔ یہ تدریجی صحن معبد کے پہاڑ کی ہموار سطح کو ایک عالمی مقدس پہاڑ بناتے تھے جو ”چوٹی“ پر موجود دیور کی آسمانی سلطنت کا راستہ مہیا کرتا تھا۔ معبد کے خدو خال عبادت گزار کو ایک ایسا منظر پیش کرتے تھے۔ جو اسے گھرے روحانی سکون و آسودگی سے مالا مال کر دیتا تھا۔ اب دنیاوی زندگی اس کے سامنے ایک نئے مفہوم کے ساتھ ابھرتی۔ پوری زندگی۔۔۔ جس میں یہ کی تباہی و بر بادی کی قوتیں بھی شامل تھیں۔۔۔ دیور کی نہیاں تقدیس کے آگے سر بسجدہ تھی۔

(نقشہ) MAP

(بادشاہ ہیرودیلیس کا معبد)

(نقشہ) MAP

معبد کا داخلی نقشہ

(مقبرہ)

1۔ قلعہ انٹونیہ سے

32۔ بالائی منزلیں تک

ہیرودیلیس کے دور میں پورے فلسطین اور دیگر علاقوں سے یروشلم کو آنے والے زائرین کی تعداد ماضی کے مقابلے میں بہت زیادہ ہو گئی۔ عید فتح اور سکوتھ کے موقع پر ضیافت میں تین سے پانچ لاکھ کے فریب لوگ جمعہ ہوتے تھے۔ (12) مذہبی پہلو پر زور دیئے جانے کے باوجود یہ تہوار سنجیدہ اور یا اس انگیز نہیں ہوتے تھے۔ ان موقع پر زائرین اپنے بیوی بچوں کو تفریح کا سامان مہیا کرتے۔ یروشلم کے طویل سفر میں رات کے وقت زائرین مل بیٹھ کر کھانا کھاتے، شراب پیتے، ہنسی مذاق کرتے اور مقبول گیت گاتے۔ جب وہ یروشلم میں پہنچتے تو تہوار کی رونقیں جشن کا سماں پیدا کر دیتیں۔ زائرین نجی گھروں میں ٹھہرائے جاتے۔ جب ان کی تعداد میں اضافہ ہو جاتا تو پھر شہر کے صلوuat (یہودی عبادت خانے) میں ٹھیڑا یا جاتا۔ لیکن کچھ زائرین شہر کے باہر پہاڑیوں اور وادیوں میں خیمه بستیاں بنانے کا رہنا پسند کرتے۔ زائرین اپنے ساتھ خصوصی

عشر کی ایک رقم لاتے جو یہودیمیں خرچ کرنا ہوتی تھی۔ اس رقم میں سے مذہب کے نام پر کچھ خرچ نہیں کیا جاتا تھا۔ اس سے لوگ گوشت، شراب اور خور و نوش کی مختلف ششیاء خریدتے۔ اس خوشگوار رضا میں نئے دوست بنائے جاتے۔ یہودی یک جہتی اور اخوت کو فروع ملتا۔ ملی اتحاد کا جذبہ اور خدا سے تعلق کا احساس طاقتور ہو جاتا۔ (13)

مذکورہ مذہبی تہوار بذات خود خوشی و شادمانی کے تہوار بن چکے تھے۔ سکونتھ کے آٹھ دنوں میں مکمل چھٹی کا ماحول ہوتا۔ لوگ گھروں، میدانوں اور پہاڑوں میں شاخوں کی جھونپڑیوں میں رہتے۔ عیدِ سعی بالخصوص ایک مقبول تہوار تھا۔ اس روز ہر خاندان ایک مینڈھا معبد میں قربان کرتا اور پھر شام کو ضیافت کی صورت میں سب مل کر اس کا گوشت کھاتے۔ یہ تہوار مصریوں کی غلامی سے بنی اسرائیل کی نجات کی یاد میں منایا جاتا۔ ایک اور تہوار ضیافت آب کشی تھا۔ یہ علمتی انداز میں زینی اور آسمانی دنیاوں کو متعدد کرتا تھا۔ اسرائیلیوں کے علم کائنات کے مطابق زمین ایک کپسول تھی جس کے گرد پانی موجزن تھا۔ بالائی پانی نر اور زیریں پانی مادہ اور خطرناک تھا۔ دونوں باہمی اتصال کے لئے نوحہ کنال رہتے تھے۔ چونکہ یہودیم دنیا کا ”مر کن“، تھا چنانچہ یہی مقام ایسا تھا جہاں کائنات کے سبھی درجے آپس میں مل سکتے تھے۔ سال میں ایک دفعہ نیچے کی دنیا کی رکا و ٹیں علمتی انداز میں کھول دی جاتی تھیں جس کے نتیجے میں زیریں اور بالائی پانی آپس میں مغم ہو جاتے۔ لوگ اس موقع پر خوشی و شادمانی کا اظہار کرتے۔ ربی کہا کرتے تھے کہ جس نے یہ تہوار نہیں دیکھا وہ نہیں جانتا کہ زندگی میں خوشی کیا ہوتی ہے۔ (14) یہ ابتدائی زمانے کے خلفشار کی قوتوں کی نشاندہی کرتا تھا جن پر قابو پانا ضروری تھا تاکہ دنیا میں زرخیزی، تخلیق اور شر باری کا دوراً گلے سال کے لئے یقین بن جائے۔

ہیرودیس کے زمانے میں یہودیم کا معبد یہودی روحانیت کا محور و مرکز رہا۔ تاہم اسی دور میں کچھ یہودی خدا سے رابطے کے لئے دیگر راستے تلاش کرتے رہے۔ کچھ لوگوں نے حقیقت مطلق تک پہنچنے کے لئے معبد اور مذہبی طریقہ کا رکونظر انداز کرنا شروع کر دیا۔ خصوصاً یہودیم سے باہر ہنے والے یہودی نئی راہیں تلاش کرنے لگے۔ ایسے یہودیوں نے صلوات (عبادت خانوں) اور اجتماعات کے دیگر مقامات پر اکٹھا ہونا شروع کر دیا جہاں وہ توریت کا مطالعہ کرتے اور یہودیم کا سفر کرنے کی بجائے اس شہر سے دور رہ کر روحانی دنیا میں پہنچ جاتے۔ (15) فلسطین ہی میں کچھ یہودیوں نے اپنے مذہبی اجتماعات میں خدا کی موجودگی کو محسوس کرنا شروع کر دیا۔ فریسیوں کا فرقہ ابھی تک پورے جوش ایمانی کے ساتھ یہودیم کے معبد سے وابستہ تھا۔ ہیرودیس کے عہد میں ہی شامائی مکتبہ فلکر کے لوگ فریسیوں پر زور دیتے تھے کہ وہ ”کا فر دنیا“ سے خود کو ماضی کے مقابلے میں زیادہ سختی سے دور رکھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ کافروں کے ساتھ کھانا پینا، یونانی بولنا یا کافروں سے تھنے تھا کاف قبول کرنا مذہبی بد دیانتی ہے۔ اس تحریک کا جزوی طور پر مقصد معبد کی پاکیزگی تھا۔ کیونکہ معبد کا انحصار ایک عرصہ سے کاف حکمرانوں کی اعانت پر تھا۔ لیکن شامائی فلکر کھنے والوں کو یہودی برادری میں اب زیادہ قبول نہیں کیا جا رہا تھا۔

شامائیوں کے حریف حلیل مکتبہ فلکر کے پیروکار بھی اگرچہ تطہیر اور خود کا الگ تحملگ رکھنے کے حامی تھے لیکن وہ زیادہ

زور رحم و مرمت پر دیتے تھے اور اسی کو اہم سمجھتے تھے۔ حسمونی دور میں رحم و مرمت کا نصب اعلیٰ تو بالکل بھلا دیا گیا تھا۔ انطیوکس اپی فینیس کی طرف سے بے حرمتی کے حادثے کے بعد یروشلم اور معبد کی پاکیزگی اور اس کی عظمت کی عقیدت کو مقدم سمجھا جانے لگا تھا۔ اس کے برعکس صیہونی عقاائد میں موجود سماجی انصاف کو پس پشت ڈال دیا گیا۔ ہلیل کے فریضی رحم و مرمت، خیرات اور سماجی انصاف کے کاموں کو توریت کے اہم ترین احکامات سمجھتے تھے۔ وہ انہیں اتنا ہی موثرا اور ناگزیر سمجھتے تھے جتنا معبد میں جا کر قربانی پیش کرنا۔ (16) کچھ فریسیوں نے ایسی تنظیمیں بنائی تھیں جن کے ارکان عہد کرتے تھے کہ وہ سختی کے ساتھ اسی مذہبی طہارت کی حالت میں رہا کریں گے جو معبد میں موجودگی کے دوران ضروری ہوتی ہے۔ اس طرح وہ معبد کے باہر اپنے گھروں میں رہتے ہوئے وہیں خدا کی موجودگی کو محسوس کر سکتے تھے اور کاہنوں کے سجن میں عظیم قربان گاہ کی طرح گھروں میں اپنے میزوں کو پاک اور مقدس بناسکتے تھے۔ یہ فریضی جب اکٹھے ہو کر کھانا کھاتے تو ان کا یہ اجتماعی کھانا اسی طرح مقدس موقع بن جاتا جس طرح معبد میں کا حصہ قربانی کا گوشت اکٹھے بیٹھ کر کھاتے تھے۔ (17) اس نئی سوچ نے ہر گھر کو ایک معبد اور یروشلم کی تقدیس کو معمولی بنادیا۔

ہیرودیس کے دور اقتدار کے آخری دنوں میں قرآن فرقہ کے لوگ اپنے آپ کو سچے اسرائیلی کہتے تھے۔ انہوں نے ایک نیاروحانی مرکز تخلیق کر لیا۔ وہ اپنے آپ کو یروشلم کے ”آلودہ معبد“ سے وابستہ نہیں رکھنا چاہتے تھے۔ وہ اپنی خود ساختہ جلاوطنی میں اپنے کھانے کے کمروں کو مقاصد مقام بنا کر ان میں اجتماع کرتے۔ وہ ان کاہنوں کی طرح رہتے جو معبد کی خدمات پر مسلسل مازمور تھے۔ کھانا کھانے سے پہلے وہ ٹھنڈے پانی سے غسل کرتے، سوتی لباس پہننے یہ تمام تر عمل وہ اسی طرح کرتے جس طرح کا ہن معبد میں کھانے میں شریک ہونے کے لئے کیا کرتے تھے۔ اپنی اجتماعی عبادت کو یہ لوگ قربانی کا مقابل سمجھتے تھے۔ لیکن یہ ایک عارضی انتظام تھا۔ اس فرقہ کے لوگ ایک ایسے دن کے منتظر تھے جب دو مسیحاوں نے تاریکی کی قتوں کے خلاف ایک آخری جنگ کرنا تھی۔ اس کے نتیجہ میں یروشلم نے آزاد ہونا تھا۔ وہ دعویٰ کرتے تھے کہ پھر یہ مقدس شہر حقیقی طور پر مقدس ہو جائے گا اور خدا از سر نو معبد کو تعمیر کرے گا۔ قرآنی فرقہ کے لوگ خود کو ایو نم یعنی غریب کہتے تھے۔ وہ خود کو صیہون کے سچے اور حقیقی باشندے قرار دیتے تھے کیونکہ صیہون کو ہمیشہ سے غریبوں اور محرومین کی جنت قرار دیا جاتا تھا۔ وہ ”نئے یروشلم“ کا تذکرہ کرتے ہوئے ایسی اصطلاح میں اور آیات استعمال کرتے جو سبی طور پر خدا کے لئے وقف تھیں۔

او صیہون میں تمہیں ہمیشہ یاد رکھوں گا

کیونکہ تم ہی برکت دیتے ہو

اپنی پوری طاقت اور روح سے تمہیں پیار کرتا ہوں

تمہاری یادِ تمیں برکت دیتی ہے (18)

توریت میں یہودیوں کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ اپنی پوری طاقت سے صرف یہواہ سے پیار کریں۔ برکت کا ذریعہ صرف وہی ہے اور صرف اس کی یادِ ہمیشہ کے لئے برکت دینے کا ذریعہ ہے۔ قمرانی مناجاتوں میں اس طرح کے جملوں کا استعمالِ حداثتی نہیں تھا۔ قمرانی انتہائی کٹڑ اور متعصب تو حیدِ پرست تھے۔ لیکن خدا چونکہ خود براہ راست عام لوگوں پر ظہور نہیں کرتا اور یو شلم صدیوں سے خدا کی موجودگی اور رسائی کا ایک ذریعہ بنا ہوا تھا چنانچہ خود یو شلم کو اعلیٰ مقام حاصل ہو چکا تھا۔ قمرانی فرقہ بھی صیہون کو امن، برکت اور نجات کا ذریعہ سمجھتا تھا کیونکہ صیہون خدا کی موجودگی کے سبب خدا کا ہی ایک حصہ تھا۔ ہیرودیس کے ماتحت اس شہر کی المناک صورتحال کے باوجود یہ انتہائی مقدس مقام اور مذہبی عظمتِ رکھتا تھا۔

لیکن قمرانی فرقہ یہودیت کی عسکری صورت کا ایک اظہار تھا اور فلسطین میں بذریعہ فروغ پارہا تھا۔ تمام تر یونانی اور رومی دنیا میں لوگ وطن پرستی کے جذبات سے معمور ہو رہے تھے۔ معبد اور مندر بحال ہو رہے تھے۔ پرانے مذاہب زندہ ہو رہے تھے۔ چنانچہ ہر طرف اپنی دنیا کے لئے مزاحمتی تحریک جنم لے چکی تھی۔ اسی رجان نے قمرانی فرقہ کو سیمویل کی جنگ بجويانہ پالیسی اپنानے پر آمادہ کیا تھا۔ جس نے معبد کی تعمیر، مقدس شہر کی تنشیل اور منظم زندگی کی تخلیق کے لئے بنیادیں فراہم کی تھیں۔ اسی طرح عام یہودی بھی اپنے بڑے بڑے تھواروں کو قوم اور وطن کے تقدیس کی نظر سے دیکھتے اور مناتے تھے۔ عیدِ گزر ایام یا عیدِ فتح قومی نجات کی یاد میں منائی جاتی تھی۔ دو ہفتوں کا فصلی تھوار مناتے ہوئے قوم کو صحرائیں گزارے ہوئے چالیس برس یاد دلائے جاتے تھے۔ یہ تھوار معبد کے لئے خود کو وقف کرنیکی سالگرہ بھی ہوتا تھا۔ جب یہ لوگ اپنے قومی معبد میں اپنے خدا کے سامنے اتنی بڑی تعداد میں اٹکھے ہوتے تو جذبات عروج پر پہنچ جاتے۔ لیکن ہیرودیس اتنا طاقتور بادشاہ تھا کہ یہ لوگ اپنے جذبات کا اظہار کھلے بندوں نہ کر سکتے تھے۔ 4ق مسیح میں جب یہ خبر عام ہوئی کہ ہیرودیس بستر مرگ پر ہے تو راسخ العقیدہ یہودیوں نے کچھ بالچل دکھائی۔

یہ موقع بہت اہم تھا۔ ہیرودیس نے کچھ ہی دن پہلے معبد کے بڑے دروازے پر جو پیڑ اور رومی شہنشاہیت کی علامت عقاب کا طلائی مجسمہ نصب کروایا تھا۔ جب یہ افواہ پھیل گئی کہ ہیرودیس سچ مجھ مرنے والا ہے تو دو بزرگ یہودیوں، یہوداہ اور میتھیا اس نے اپنے شاگردوں کو کہا کہ ”عقاب“ کا مجسمہ اتار پھینکنے کا یہ شاندار موقعہ ہے۔ یہ اقدام بہر طور خطرناک تھا لیکن اپنے ابا و اجداد کی مقدس کتاب توریت کے لئے مرننا انتہائی عظیم و با برکت کام تھا۔ چنانچہ پر جوش نوجوان یہودی شاہی چھجھ پر چڑھ گئے۔ اپنے آپ کورسون سے باندھا اور عقاب پر کھاڑے چلا کر

اس کے پرچے اڑا دیئے۔ لیکن یہ اقدام قبال از وقت ثابت ہوا۔ ہیرودیس نے یہ خبر غیض و غصب کے ساتھ سنی۔ انتقام کی آگ بھڑکی تو وہ اپنی ”موت کو ملتی“ کر کے بستر پر بیٹھ گیا۔ اس نے فوراً مجرموں اور ان کے استاد بزرگوں کو موت کی سزا

دینے کا حکم دیا۔ حکم پر چند لمحوں میں عمل درآمد کر دیا گیا۔ چنانچہ جب چار پانچ روز کے بعد وہ واقعی مرگیا تو یہودیوں نے اپنے حلقوں میں یہ تاثر پھیلایا کہ بادشاہ کی موت مقدس شہیدوں کو دی گئی سزا کا نتیجہ اور مکافات عمل ہے۔ (19) لیکن عقاب کا مجسمہ گرانا ایک محدود احتجاج تھا۔ ابھی تک کوئی بڑا اقدام یا بڑی تحریک سامنے نہیں آئی تھی۔ کسی گوشے سے ہیرودیس کو قتل کرنے یا رومیوں کی غلامی کا جوا اتار پھینکنے کا کوئی عزم یا کوئی نعرہ سننے میں نہیں آ رہا تھا۔ ہیرودیس کی زندگی میں عقاب کا انہدام بھی محض معبد کو نجاست سے پاک کرنا تھا۔ دراصل یہ صورتِ حال مسلسل موجود تھی۔ جو حکمران معبد کے معاملات میں مداخلت نہ کرتا، یہودی اسے برداشت کرنے پر تیار رہتے تھے۔ لیکن جوں ہی معبد کو کوئی خطرہ درپیش ہوتا تو یروشلم ہنگامہ آرائی، خون ریزی اور خوفناک رعیل کی لپیٹ میں آ جاتا۔

ہیرودیس نے 29 قم میں اپنی چھتی بیوی ماریہ کو قتل کر دیا تھا۔ اس قتل سے تھوڑی دیر پہلے ماریہ کے تینوں بیٹوں کے بھی سرقلم کر دیئے گئے کیونکہ ہیرودیس کو یقین ہو گیا تھا کہ یہ چاروں اس کے خلاف سازش میں مصروف ہیں۔ اپنی زندگی میں ہیرودیس نے اپنے بقیہ تین بیٹوں ارخلاف، فلپ اور اینٹی پاس کو سخت گنگرانی میں رکھا۔ ان میں سے کسی کو کوئی عہدہ یا اختیار نہ دیا۔ وہ سمجھتا تھا کہ ان میں سے کوئی بھی اس قابل نہیں کہ اس کا جانشین بن سکے۔ وہ انہیں کوئی منصب دے کر طالع آزماحواریوں کے چੱگل میں بھی نہیں پھنسانا چاہتا تھا تاکہ کوئی مہم جوانہیں استعمال کر کے سلطنت کا شیرازہ نہ بکھیر دے۔ جب ہیرودیس مرا تو اس کی دو صیتیں تھیں۔ اس کی وصیت کے مطابق سلطنت کی قسمت کا فیصلہ آکستس، شہنشاہ روم نے کرنا تھا۔ آکستس نے اس کے تینوں بیٹوں کو روم میں طلب کر لیا۔ لیکن ان کی روغنی عید فتح رعید گزرال کے موقع پر ہورہی تھی۔ بہت بڑی تعداد میں زائرین یروشلم میں آرہے تھے۔ توریت کی سربندی کے لئے پیش کی جانے والی شہادتوں کا واقعہ ابھی تازہ تھا۔ لوگوں کے جذبات عروج پر تھے۔ مقامی یہودیوں نے شہدا کے سوگ میں مظاہرہ منظم کیا۔ اس کے نتیجے میں شہر کی گلیاں گریز اور آہ و بکا سے گونجنے لگیں۔ زائرین اچانک اشتعال میں آگئے۔ غم و غصے سے لبریز ہجوم انتقام کے نعرے بلند کرنے لگا۔ ارخلاف نے جب دیکھا کہ صورت حال اس کے قابو سے باہر ہو رہی ہے تو اس نے اپنے سپاہی معبد کی طرف روانہ کئے تاکہ قائدین کی سرکوبی کی جاسکے۔ قربان گاہ میں ابھی قربانی کا پہلا مینڈھا ہی ذبح کیا جاسکا تھا کہ سپاہی معبد پہ ملہ آور ہو گئے۔ تین ہزار افراد کو قتل کر دیا گیا۔ ایک دفعہ پھر معبد کی بے حرمتی ہوئی لیکن اس دفعہ کافروں کی کسی علامت یا مجسمے کی وجہ سے نہیں بلکہ یہودی سپاہیوں کے ہاتھوں یہودیوں کی خون ریزی سے ہوئی تھی۔ پانچ ہفتے بعد جب ارخلاف روم میں تھا، یروشلم میں یوم نخیس کے موقعہ پر زائرین نے ایک اور شورش برپا کر دی۔ شام کے رونی گورنر سائبین کو ایک لچن کے ساتھ یہودیہ کے طرف روانہ ہونا پڑا۔ رومیوں کے ایک لچن میں تین سے چھ ہزار تک سپاہی ہوتے تھے۔ جب یہ لچن یروشلم پہنچا تو ہزاروں مقابلی اور زائر یہودیوں نے گلیوں میں رکاوٹیں کھڑی کر کے رومن سپاہیوں پر حملہ کر دیا۔ سائبین کے پاس عوامی مزاحمت کو ختم کرنے کا ایک ہی راستہ تھا۔ اس نے معبد کے پہاڑ پر بننے چھجوں کو آگ لگا دی۔ بعد میں رومن سپا

ہیوں نے دو ہزار باغیوں کو شہر کی دیواروں کے ساتھ مصلوب کر دیا۔ (20)

فلسطین کے دیگر علاقوں میں ابھی اضطراب کی لہریں اٹھ رہی تھیں۔ اس صورتحال نے روم کی سینٹ کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ یہودیوں کے بادشاہ کی حیثیت سے ہیرودیس کا کوئی تبادل نہیں ہے۔ ارخلاوس کو اپس یو شلم بھیج دیا گیا۔ وہ ریاست یہودیہ کا حاکم بنایا گیا۔

MAP (نقشہ)

رومی فلسطین



فلپ اور اینٹی پاس گلیلی، بیسر اور بقیہ شامی علاقوں کے ذیلی حاکم یعنی چوتھائی صوبے کے حاکم تھے۔ یہ دونوں اچھے منتظم ثابت ہوئے اور کئی برس تک اپنے اقتدار برقرار رکھنے میں کامیاب رہے۔ لیکن ارخلاوس نے کچھ ایسی سفاک پالیسیاں اپنا میں کہ یہودی اور سامریہ کے لوگ دونوں میں ہی بے چین ہو گئے۔ رومی حکمرانوں نے 6 عیسوی میں ارخلاوس کو معزول کر دیا۔ اس کی جگہ رومن پریفیکٹس (نمائندوں) کو علاقے کا حاکم بنادیا۔ انہوں نے قیصریہ کے نئے شہر کو اپنا دارالحکومت بنالیا جو یو شلم جیسے ہنگامہ پرور شہر سے ایک فاصلہ پر محفوظ تھا۔ رومنوں کی نگرانی میں آنے کے بعد ابتدائی دونوں میں گلیلی میں بے چینی پائی جاتی تھی۔ لیکن یہ سمجھنا غلط فہمی ہو گی کہ پورے یہودی فلسطین میں روم کے خلاف کسی طرح کی شدت پائی جاتی تھی۔ ایسی صورت حال کہیں بھی نہیں تھی۔ بلکہ اس کے برعکس ہیرودیس کی موت کے بعد کچھ یہودیوں نے آکستس کے پاس اپنا ایک وفد بھیجا اور اس سے درخواست کی کہ فلسطین میں کوئی رومی گورنر تعینات کیا جائے۔ فریسی تو با شخصوں کسی یہودی بادشاہت کے حق میں نہیں تھے۔ فلسطین پر رومنوں کا تسلط کوئی اچھی بات نہیں تھی لیکن مقامی یہودیوں کا خیال تھا کہ دیگر غیر ملکی حکمرانوں کے برعکس رومن اچھے حکمران ہیں۔ چند ایک ناخوشگوار واقعات کے سوارومی حکام نے کبھی بھی یہودیوں کے مذہبی جذبات کو مجرور نہیں کیا تھا بلکہ ہمیشہ کا ہن اعظم کے ساتھ تعاون میں گرم جوشی دکھائی تھی۔ خود کا ہن بھی چاہتے تھے کہ امن و امان برقرار رہے۔ نئے رومن حکام نے شورش پسند عناصر پر کڑی نظر رکھی۔ متعدد افراد کو انہوں نے اپنی صفوں میں شامل کر لیا۔ اس لئے نہیں کہ وہ لوگ چاپلوں اور کاسہ لیس تھے بلکہ اس لئے کہ ہیرودیس کی موت کے بعد پھوٹنے والے ہنگاموں میں جس طرح لوگ بے مقصد مارے گئے، ایسے واقعات کا اعادہ نہ ہو۔ اب یہ ضروری ہو گیا تھا کہ جو لوگ کا ہن اعظم کا منصب سنبھالیں وہ اصل اور لاائق افراد ہوں۔ 18 قم میں کافنا نے کا ہن اعظم کا منصب سنبھالا۔ وہ رومن دور کا سب

سے قابل کا ہن عظم ثابت ہوا۔

لیکن کافی بھی اس وقت مشتعل ہجوم کو قابو میں نہ رکھ سکا جب 26ء میں نئے رومی حاکم پیلاطس نے معبد کی بے حرمتی کی۔ پیلاطس نے اشتعال انگریز انداز میں اپنے سپاہی رات کے وقت یو شلم میں داخل کر دیئے۔ ان کے ہاتھوں میں جھنڈے اور سیز رکی شبیہ تھی۔ یہ سب انطونیہ میں ہیکل سے پھر پھکنے کے فاصلہ پر نصب کر دیئے گئے۔ اس کراہت آمیز اقدام کی رات گزرنے پر جب یہودی بیدار ہوئے تو وہ اشتعال میں آگئے۔ انہیں خدشہ محسوس ہوا کہ اب ایک بار پھر وہی سب کچھ ہو گا جو انطیوکس اپی فینیس کے دور میں ہوا تھا۔ ایک مشتعل ہجوم قیصر یہ کی طرف چل پڑا۔ اس نے پیلاطس کی رہائش گاہ کا محاصرہ کر لیا۔ حسب سابق یہودیہ کے لوگ اتحاد سے بے بہرہ تھے۔ چنانچہ وہ ایک مشترکہ محاذ نہ بن سکے۔ لیکن معبد کو درپیش خطرے کا مقابلہ کرنے کے لئے وہ ظاہر تھد تھے۔ یہ اتحاد چونکہ سطحی تھا، چنانچہ کوئی ہنگامہ نہ ہو سکا۔ شاید اس کے پیچھے 4 قم میں ملنے والا سخت سبق تھا۔ ہی وجہ ہے کہ اس موقع پر انہوں نے پر امن مراجحت پر اتفاق کیا۔ پانچ دن تک وہ پیلاطس کے گھر کے باہر دھرنادیئے بیٹھے رہے۔ بالآخر پیلاطس نے انہیں قیصر یہ کے ایمنی تھیڑ (گول گھر جہاں شہریوں کے اجتماعات ہوتے تھے) میں صورت حال کی ”وضاحت“ کے لئے بلا لیا۔ جوں ہی تمام لوگ ایمنی تھیڑ میں اکھٹے ہوئے، پیلاطس نے اپنے سپاہیوں کو ہاتھ ہلا کر کاروائی کرنے کا اشارہ دے دیا۔ وہ چاروں طرف سے نواریں سونت کر ہجوم پر پل پڑے۔ اگر پیلاطس کا خیال تھا کہ اس طرح وہ یہودیوں کو سر جھکانے پر مجبور کرے گا تو یہ غلط سوچ تھی۔ قتل ہوتے ہوئے۔ یہودیوں نے سرتسلیم خم نہ کیا۔ تڑپتی ہوئی لاشوں کے درمیان زندہ لوگ چیخ رہے تھے کہ وہ مرتا قبول کر لیں گے عقائد کی بے حرمتی قبول نہیں کریں گے۔ (21) پیلاطس ان کا جوش و جذبہ دیکھ کر ششدہ رہ گیا۔ اس نے سپاہیوں کو رک جانے کا حکم دیا اور پھر انطوفیہ سے رومن پرچم اور سیز رک کا مجسمہ ہٹا دیا گیا۔ اگرچہ امن قائم ہو گیا اور شر انگریز اقدام واپس لے لیا گیا لیکن اب یہودیوں کو محسوس ہو گیا کہ معبد کی سلامتی خطرے میں ہے۔

چار سال بعد معبد ایک بار پھر خطرے کی زد میں آگیا۔ ایک چھوٹا سا جلوس جس کی قیادت ایک خرسوار کر رہا تھا۔ وادی قدرون سے کوہ زیتون کے نیچے آیا اور نعرے لگاتا ہوا یو شلم میں داخل ہوا۔ جلوس کے شرکاء نعرے لگا رہے تھے۔ ”ہوشتنا“۔ ”داود کے بیٹے ہمیں بچاؤ۔“ کچھ لوگوں نے کھجوروں کی شاخیں توڑ کر ہاتھوں میں اٹھا لیں اور انہیں لہرانے لگے۔ شہر میں شور مج گیا کہ گلیلی کے شہر ناصرت سے ایک نوجوان بی آیا ہے جو خود کو یسوع کہتا ہے۔ جب یسوع شہر کے قریب آیا تو کہا جاتا ہے کہ وہ روپڑا۔ ”یو شلم اسے قبول نہیں کرے گا اور پھر بہت جلد یو شلم کو خوفناک سزا ملے گی۔“ مقدس شہر کو دشمن گھیر لیں گے۔ اسے زمین بوس کر دیا جائے گا اور شہر کے لوگ قتل کر دیئے جائیں گے۔ کوئی ایک پھر ایستادہ نہیں رہے گا۔ ”اپنی پیشین گوئی کی صداقت ثابت کرنے کے لئے یسوع شہر میں داخل ہوا اور سیدھا ہیکل (معبد)

کو چل دیا۔ معبد میں پہنچ کر اس نے چھوٹے سے کوڑے سے لوگوں کو غیر یہودیوں کے گھن سے باہر نکالنا شروع کر دیا۔

—۔۔۔۔۔ اور یسوع ہیکل میں داخل ہوا اور ان کو جو ہیکل میں خریدو
فروخت کر رہے تھے۔ باہر نکانے لگا اور صرافوں کے تختوں اور کبوتر
فروشوں کی چوکیوں کو والٹ دیا۔۔۔ اور اس نے کسی کو ہیکل میں سے
ہو کر کوئی برتن لے جانے نہ دیا۔۔۔ اور اپنی تعلیم میں ان سے کہا۔
کیا یہ نہیں لکھا ہے کہ میراً گھر سب قوموں کے لئے دعا کا گھر
کہلائے گا؟ مگر تم نے اسے ڈاکوؤں کی کھوہ بنادیا ہے۔ (22)

جب یسوع، (حضرت عیسیٰ) یو شلم میں آئے تو ان دونوں لوگ عید فتح کی تیاریوں میں تھے۔ ایک ہفتہ بعد تھواڑ
تھا۔ حضرت عیسیٰ نے معبد کے صحنوں میں بہت وقت گزارا اور آنے والے لوگوں کو وعظ کرتے رہے۔ انہوں نے پیشین گوئی
کہ ہیرودیس کا شاندار معبد بہت جلد مسماڑ کر دیا جائے گا۔ انہوں نے اپنے شاگردوں سے کہا۔۔۔ ”تم یہ بڑی بڑی
عمارتیں دیکھ رہے ہو۔ یہاں کسی پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا جو گرا یا نہ جائے۔“ (23) حضرت عیسیٰ کی زندگی اور تعلیمات پر
مشتمل ابتدائی چار انجیلوں میں سے ایک انجلی کا مصنف مرقس رہا ہے۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اس کو کسی نہ کسی بہانے
ہلاک کر دیا جائے۔ عید فتح کے پُرہجوم اور جذباتی موقع پر معبد میں ہنگامہ آرائی کسی بڑے طوفان کو جنم دے سکتی تھی۔ چنانچہ
یہودی یہ خطرہ مول لینے پر قطعی طور پر تیار نہ تھے۔

معبد میں حضرت عیسیٰ کے اس ”اشتعال انگیز“، وعظ و تبلیغ کا کیا مقصد تھا؟ ہم اس کے بارے میں محض قیاس آرائی
ہی کر سکتے ہیں کیونکہ کوئی بھی انجلی ہمیں پوری طرح معلومات فراہم نہیں کرتی۔ حضرت عیسیٰ کو گلیلی کے چھوٹے چھوٹے
شہروں اور دیہات میں پیروکاروں کی ایک معقول تعداد میسر آچکی تھی۔ وہاں انہوں نے لوگوں کو شفا بخشی تھی اور جھاڑ پھونک
کا کام کیا تھا۔ لوگ انہیں نبی کہتے تھے۔ ہم نہیں جانتے کہ حضرت عیسیٰ نے ”مسیحا“ ہونیکا کبھی دعویٰ کیا تھا۔ ہمارے ذرائع
بہت مشکوک ہیں۔ لیکن ایک بات مسلمہ ہے کہ انہوں نے روموں کو فلسطین سے نکال باہر کرنے کے لیے کوئی فوج نہ بنائی۔
کیونکہ ان سے پہلے یا بعد میں جن لوگوں نے مسیحا ہونے کا دعویٰ کیا انہوں نے غیر ملکی حکمرانوں کو علاقے سے نکالنے کے لیے
عسکری ذرائع استعمال کرنے کی کوشش نہیں کی۔ ذکر یا نے پیشین گوئی کی تھی کہ ”مسیحا“ ایک منکسر مزان حکمران ہو گا اور ان
کے درمیان ایک گدھے پر سوار ہو کر آئے گا۔ یو شلم میں حضرت عیسیٰ کا گدھے پر سوار ہو کر ایک جلوس کی صورت میں آنا
شاہد اس بات کا اشارہ تھا کہ خدا کی سلطنت، یو شلم پر ہیرودیس جیسے کسی شکر بردار بادشاہ کی نہیں غریبوں کی حکومت ہو گی۔

ایک شہر تین مذاہب

حضرت عیسیٰ نے بھی پیشین گوئیاں کیں اور کہا کہ بنی اسرائیل کے بارہ قبیلے ارض موعودہ میں واپس آئیں گے اور ان کے بارہ شاگردان پر حکومت کریں گے۔ (24) عام یہودی سمجھتے تھے کہ حتیٰ فتح کے بعد یہواہ، یروشلم میں ایک نیا معبد تعمیر کرے گا۔ وہاں تمام قومیں اس کی عبادت کریں گی۔ جب حضرت عیسیٰ نے معبد میں سے صرافوں (منی چیخرز) اور کبوتر فروشوں کو باہر نکالا تو یہ مقدس مقام کے ناجائز تجارتی استعمال پر احتجاج نہیں تھا۔ اس زمانے میں ہر معبد اور مندر میں اس طرح کے کاروبار کی اجازت ہوتی تھی۔ اور یہ نہ ہی امور کا ایک ضروری حصہ ہوا کرتا تھا۔ حضرت عیسیٰ پیغمبرانہ انداز میں صورت حال کا ناگزیر انجام دکھار ہے تھے مثلاً ان کا کہنا کہ ہیرودیس کے خوبصورت معبد کی جگہ مقدس معبد قائم ہو گا جو انسانی ہاتھ تیار نہیں کریں گے۔ یہ تمثیلی انداز میں شرکی جگہ خیر کے قیام کی خوشخبری تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے مذمت میں کوئی خطرناک بات موجود نہیں تھی لیکن عید فتح کی ضیافت کے موقعہ پر حکام کو یہ یاد کر دیا گیا تھا کہ یہ نہ مذمت آگے چل کر رومی اقتدار کے خلاف سنگین خطرہ بن سکتی ہے۔

کاہن اعظم کا نفا بھی حضرت عیسیٰ کے اشاروں کو یہودیہ کے کسی بھی اور شخص کی طرح اچھی طرح سمجھ رہا ہو گا لیکن وہ جانتا تھا کہ پیلاطس کی طرف

سے بہترتی کے اقدام پر عمل کے نتیجے میں قوم تباہی کے دھانے پر پہنچ گئی تھی۔ اس واقعہ کو رونما ہوئے زیادہ عرصہ بھی نہیں گزرا تھا چنانچہ وہ معبد کے بارے میں اب کسی کو اشتغال انگیز گفتگو کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا تھا۔ تھوار کے پہلے دن اس نے حضرت عیسیٰ کو تو گرفتار کر لیا لیکن ان کے شاگردوں کو جانے کی اجازت دے دی۔ یہ اقدام اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ کو کوئی بڑا سیاسی خطرہ نہیں سمجھتا تھا، حضرت عیسیٰ کے خلاف مقدمہ کی کارروائی کے دوران الزام عائد کیا گیا کہ وہ معبد کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن شوابہ اس الزام کو ثابت نہ کر سکے چنانچہ الزام واپس لے لیا گیا۔ کا نفا نے اس ناکامی کے بعد ان پر ”تو ہین یہواہ“ کا الزام عائد کر دیا۔ جونکہ یہودیوں کو خود کوئی بڑی سزا دینے کا اختیار نہیں تھا چنانچہ ملزم کو پیلاطس کے پاس بھجوادیا گیا۔ پیلاطس نے حضرت عیسیٰ کو کوڑے لگائے مصلوب کرنے کی سزا سنائی اور حکم دیا کہ وہ اپنی صلیب اٹھا کر یروشلم کی گلیوں میں گزرتے ہوئے شہر سے باہر گلتانا می پہاڑی پر لے جائیں۔ گلتا کولا طینی میں کھو پڑی کا مقام کہتے ہیں۔ یہاں حضرت عیسیٰ کو دوڑا کوؤں کے ساتھ مصلوب کیا گیا۔ مصلوب ہونے والے افراد طویل عرصہ تک جان کنی کی اذیت میں رہتے ہیں لیکن حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بہت جلد اور آسانی سے انقال کر گئے۔ چونکہ اگلے روز سبت کا دن تھا چنانچہ حضرت عیسیٰ کے حواری چاہتے تھے کہ سورج غروب ہونے سے پہلے انہیں فن کر دیں۔ اربیہ کا یوسف نامی شخص یہودیوں کی حکمران کو نسل کا ایک رکن تھا۔ اس نے پیلاطس سے درخواست کی کہ ”یسوع“ کی لاش اس کے مقبرے میں بھجوادی جائے۔ یہ مقبرہ

MA P (نقشہ)

کوہ زیتون کی زیریں ڈھلوان پر گتسمنے باغِ جہاں یسوع مسح نے گرفتاری سے پہلے دلِ سوزی کے ساتھ آخی دعا کی تھی۔
 گتسمنے باغِ عیسائیوں کے متبرک ترین مقامات میں سے ایک ہے۔

گلگتا پہاڑ کے قریب ہی ایک چٹان کو تراش کر غار کی شکل میں پہلے سے یوسف نے اپنے لئے تیار کروار کھا تھا۔ فلسطین کے لوگ اسی طرح کی غار نما قبروں میں اپنے مردے دفن کیا کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ کو جلدی سے اس قبر میں رکھ کر غار کے منہ پر پتھر کھدیا گیا۔ ان کے حواریوں کا ارادہ تھا کہ یوم سبت کے بعد وہ واپس آئیں گے اور غش کو پورے مذہبی طریقے سے مسح کر کے دفن کریں گے۔

یسوع کو صلیب دیئے جانے کے بعد معاملہ ختم ہو جانا چاہئے تھا لیکن حالات نے نئی کروٹ لے لی۔ بہت جلد افواہ پھیل گئی کہ یسوع مرنے کے بعد پھر زندہ ہو گیا تھا۔ کہا گیا کہ جب کچھ عورتیں اتوار کی صبح کو مقبرے پر گئیں تو قبر خالی تھی۔ حضرت عیسیٰ کے کچھ شاگردوں اور عزیزوں نے کہا کہ انہوں نے یسوع کو زندوں کی طرح چلتے پھرتے با تین کرتے اور کھاتے پیتے ہوئے دیکھا ہے۔ بہت سے لوگ اس عقیدے کے مالک تھے کہ ”یہواہ کے دن“، راست باز لوگ جی اٹھیں گے۔ لیکن کیا یسوع اس ناگزیر موقع سے پہلے ہی جی اٹھا ہے؟ تو پھر وہ یقیناً مسیحا ہو گا۔ جس نے نجات سے پہلے ظاہر ہونا تھا۔ اور پھر دو ہفتوں کے تہوار کے دوران جب یسوع کے شاگرد یو شلم کے ایک کمرے میں اجتماعی نماز میں مصروف تھے، انہوں نے محسوس کیا کہ ان پر یہواہ کی روح نازل ہو گئی ہے۔ انہیں یقین ہو گیا کہ ان پر یہواہ کی روح نازل ہو گئی ہے۔ بنیوں نے پیشین گوئی کی تھی کہ جب خدا کی موجودگی ماضی کے مقابلے میں بہت جلد محسوس ہو تو نیا دور شروع ہو جائے گا۔ یسوع کے فرقے کے لوگوں نے اس موجودگی کا ثبوت پیش کرنا شروع کر دیا۔ وہ بیماروں کو شفا بخشنے کے مجرزے دکھاتے۔ عجیب و غریب زبان میں گفتگو کرتے، پیشین گوئیاں کرتے اور روایاد دیکھتے۔ یہ خیال کہ ایک ایسا شخص جو مصلوب ہو کر شرمناک موت سے دوچار ہوا، مسیحا تھا، ایک حریت انگیز بات تھی لیکن یہ دعویٰ مقبولیت حاصل کر گیا اور بہت سے یہودی اس نئے فرقے میں شامل ہو گئے۔ بالآخر یہودیوں کی حکمران کو نسل کے ایک فریسی رکن گملی ایل کی تحریک پر کو نسل نے نئے فرقے کو تسلیم کر لیا۔ (25) حضرت عیسیٰ کے شاگرد اپنے آپ کو کسی نئے مذب کے پیرو کارٹھیں سمجھتے تھے۔ وہ یہودیوں کے دیگر عقائد کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کر رہے تھے اور ہر روز ایک گروہ کی صورت میں معبد میں جا کر عبادت کرتے تھے۔ قمرانی فرقہ کے یہودیوں کی طرح یہ بھی خود کو اپنیم یعنی غریب کہتے تھے۔ انہوں نے اپنی املاک غربیوں میں تقسیم کر دیں اور ایک اجتماعی زندگی گزارنے لگے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ ضروریات زندگی پوری کرنے کے لئے پرندوں اور پھولوں کی طرح خدا

پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ (26) ان لوگوں کی راستبازی نے دوسرے یہودیوں کو بھی متاثر کیا۔ ان کا دعویٰ تھا کہ:

”بہت جلد یسوع واپس آئے گا۔ اس کا جلال سب پر ظاہر ہو گا اور پھر سب جان جائیں گے کہ خدا کی بادشاہت آن پنچی ہے۔“

یہ فرقہ بہت جلد قرب و جوار کے شہروں اور قصبوں میں پھیل گیا۔ یروشلم، لدھ، یافہ، قیصریہ، گلیلی اور دمشق میں کلیسیا (چرچ) یعنی اجتماع کے گھر بن گئے۔ یروشلم کی کلیسیائی قیادت ابتدائی دنوں میں یسوع کے تین نمایاں شاگردوں پطرس، یوحنا اور جیمز کے پاس تھی جنہیں ”بزرگ ارکان“ کہا جاتا تھا۔ (27) خاص طور پر اہم رکن یسوع کا بھائی جیمز تھا۔ اسے ”زادک“ یعنی راست بازآدمی کہتے تھے۔ وہ یسوع کی زندگی میں اس کا پیروکار نہیں تھا۔ لیکن مصلوب ہونے کے بعد یسوع کو سب سے پہلے جس نے رویا میں زندہ دیکھا وہ جیمز ہی تھا۔ چنانچہ وہ کلیسیا کا سب سے موثر رکن بن گیا اور پھر 50ء میں وہی کلیسیا کا قائد تھا۔ جیمز کو یروشلم میں سب سے زیادہ تو قیر حاصل تھی۔ اس نے عجیب انداز میں ایک زاہد خشک سی زندگی گزاری۔ مذہبی پاکیزگی کے معاملے میں وہ انتہائی احتیاط پسند تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اسے کاہنوں کی عبایہ میں اور کاہنوں کے صحن میں عبادت کرنے کی اجازت تھی۔ فریسیوں کے ساتھ اس کے مراسم نہایت عمده تھے جب کہ قرآنی بھی اسے احترام کی نظر سے دیکھتے تھے۔ جیمز زادک نے ثابت کیا کہ یسوع کا فرقہ یروشلم میں یہودی مذہبی زندگی سے پوری مطابقت رکھتا ہے۔ توریت کو ترک کرنے کی بجائے جیمز اور یروشلم کا کلیسیا یہودیوں کے سبھی مذہبی قوانین کی پابندی کرتا۔ کسی ایک قانون کو نظر انداز نہ کیا گیا۔ یسوع کے پیروکاروں سے توقع رکھی جاتی تھی کہ وہ توریت کے احکامات سے بڑھ کر سچے یہودی ثابت ہوں گے۔ مثلاً توریت اگر کہتی کہ۔۔۔ وہ قتل نہ کریں۔ تو انہیں قتل تو دور کی بات ہے م Huss غصہ میں بھی نہیں آنا چاہئے اگر توریت زنا سے منع کرتی ہے تو انہیں کسی عورت پر نظر بھی نہیں ڈالنی چاہئے۔ (28) انکا فرض تھا کہ وہ مثالی یہودی کی زندگی گزاریں۔ روزانہ معبد میں عبادت کریں اور یسوع کی واپسی کا انتظار کریں۔

36ء میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یسوع کے فرقہ یعنی مسیحی تحریک کے کچھ ارکان معبد میں مرکزی یہودی مکتبہ فکر کے لوگوں سے الجھ پڑے تھے۔ ان کا قائد سستفنس تھا۔ اسے مسحور کن خطابت کا ملکہ حاصل تھا۔ اس کی تبلیغ سے شہر میں لوگ نالاں تھے۔ (29) یسوع کی طرح اسے بھی کاہنوں اور یہودیوں کی عدالت عالیہ سنہیدرن کے سامنے پیش کیا گیا اور اس پر معبد اور توریت کی ہرزہ سرائی کا الزام لگایا گیا۔ لوقا ایک انجیل اور رسولوں کے اعمال نامی کتاب کا مصنف ہے لیکن جو گفتگو وہ سستفنس سے روایت کرتا ہے وہ یقیناً تاریخی نہیں۔ بلکہ ایک ایسا رجحان ہے جو بعد میں یروشلم سے باہر کے کلیسیاوں میں دکھائی دینے لگا اور تصادم کی جڑیں بھی اسی سے پھوٹیں۔ لوقا نے متعدد بار سستفنس کو یہ کہتے ہوئے دکھایا ہے کہ۔۔۔۔۔ خدا

ایک شہر تین مذاہب

نے خود کو اپنے بندوں پر یہ شلم سے باہر کی مقامات پر ظاہر کیا ہے۔ میسوس پوٹیمیا، فاران، مدیان اور سینا میں ایسا ہو چکا ہے۔ خود حضرت سلیمان بھی اس حقیقت سے آگاہ تھے کہ خدا انسانوں کی بنائی ہوئی عمارت میں کیسے رہ سکتا ہے۔ (30) ستفسن نے کاہنوں اور حکمران کو نسل کے یہودیوں کو اتنا برہم کیا کہ وہ اسے فوراً شہر سے باہر لے گئے اور سنگسار کر دیا۔ لوقا کا کہنا ہے کہ ستفسن کو سنگسار کرنے کیے بعد ان لوگوں نے اپنے غرض و غصب کا رخ کلیسیا کے باقیہ ارکان کی طرف موڑ دیا۔ ظاہر ہے کہ انہوں نے ”بزرگان“ کو براہ راست اپنا نشانہ نہ بنا لیکن فلسطین کے عام مسیحی پیروکاروں پر سختی شروع کر دی۔ (31) یہ شلم کے یونانی بولنے والے مسیحی فرقے کے لوگوں کو شہر سے فرار ہونا پڑا۔ انہوں نے پہلے دیہی علاقوں میں پناہ لی اور پھر فونیقیا، قبرص اور انطا کیہ کے ابتدائی کلیسیاؤں میں چلے گئے۔

انطا کیہ میں، ہی سب سے پہلے اس فرقہ کو کرسچن کہا گیا۔ کیونکہ ان کا دعویٰ تھا کہ یسوع، کرستوس خرستس یعنی خدا کا بپتسمہ یافتہ اور مسیحا تھا۔ (32) 40ء میں انطا کیہ کے مسیحیوں میں ایک اور سربرا آوردہ یہودی شامل ہو گیا جو پہلے ان کا کٹڑ دشمن تھا۔ وہ مسیحیوں کو اذیت دینے کے لئے جب یہ شلم سے دمشق کو روانہ ہوا تو راستے میں اس نے رویا میں یسوع کو دیکھا اور پھر وہ یہودیت چھوڑ کر مسیحیت میں داخل ہو گیا۔ ترس کا پال بہت جلد انطا کیہ کے مسیحیوں کا قائد بن گیا۔ مسیحیت کے بارے میں اس کا تصویر یہ شلم کے بزرگ ارکان سے بالکل مختلف تھا۔ پچھلے باب میں ہم نے دیکھا تھا کہ اس دور میں یونانی دنیا کے بہت سے لوگ اپنے آبائی مذاہب کی طرف رجوع کر رہے تھے۔ ہم پال کی ابتدائی زندگی کے بارے میں بہت کم معلومات رکھتے ہیں۔ لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ کسی نئی بات کا متلاشی تھا۔ اس نے گملی ایل سے توریت پڑھی تھی اور فریسیوں کے فرقہ میں شامل ہو گیا تھا لیکن اس کو توریت ایک بوجھ محسوس ہوئی جو اس کی ذاتی آزادی کو تباہ کرتی تھی۔ یہ اسے نجات، امن اور خدا سے تعلق مہیا نہ کر سکی۔ (33) دمشق جاتے ہوئے اس نے رویا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا۔ اسے یقین ہو گیا کہ یسوع کی تعلیمات توریت کی بہترین متبادل ہیں۔ حضرت عیسیٰ کی موت اور حیات نو نے نجات کی تاریخ میں ایک نیا باب واکیا تھا۔ یہودی اور غیر یہودی ایک ہی انداز میں بپتسمہ کی رسم ادا کر کے نئے اسرائیل میں داخل ہو سکتے تھے۔ بپتسمہ انہیں روحانی طور پر یسوع سے مر بوط کر دیتا تھا۔ چنانچہ اب مسیحیوں کے لئے کھانے پینے کے قوانین کی پابندی ضروری نہیں تھی۔ انہیں غیر یہودیوں سے الگ تھلک رہنے کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ ان پر ختنہ کی بھی پابندی نہیں تھی کیونکہ یہ سب عہد نامہ عقیدت کے نشانات تھے جس کی جگہ نیا عہد نامہ نازل ہو چکا تھا۔ وہ سب جو یسوع کی روحانی بادشاہت میں رہتے تھے، اب خدا کے بیٹے اور ابراہیم کی اولاد تھے چاہے ان کا تعلق کسی بھی رنگ نسل سے ہو۔

پال نے مسیحی عقائد کی جو تفسیر کی اس نے غیر یہودی لوگوں کی ایک بڑی تعداد کو اس نئے مکتبہ فکر سے مر بوط کر دیا۔ اس لئے نہیں کہ ان عقائد کو عقل و شعور کی کسوٹی پر پکھا جا سکتا تھا اور نہ ہی اس لئے کہ حضرت عیسیٰ کی موت و حیات کے واقعات سے اس تفسیر کی کوئی مطابقت تھی۔ دراصل حضرت عیسیٰ کے بارے میں پال کا نکتہ نظر رومی و یونانی دنیا میں بدلتے

ایک شہر تین مذاہب

ہوئے مذہبی رجحانات سے مطابقت رکھتا تھا۔ امریکی سکالر جون انھن زی سمیتھ وضاحت کرتا ہے کہ اس دور میں روحانی نمیتیں بدل رہی تھیں۔ معبدوں کے پرانے مذاہب کی جگہ کائنات نے انسانی تصورات میں ڈھل رہی تھی۔

” انسانوں کو تحفظ دینے کے لئے شہروں کی فصیلوں کی بجائے ایک

انسانی گروہ، ایک مذہبی والبستگی یا ایک خفیہ معاشرتی حصار بن رہا تھا

انتشار کی واپسی یا عدم تخلیق کے خطرہ کو دشمن سمجھنے کی بجائے اب

دوسرے لوگوں یا عفریتوں کو شریا موت کا خطرہ سمجھا جانے لگے تھا۔

اسی طرح مقدس مقامات کی بجائے خدا سے رابطہ کے ذرائع مقدس

انسان بن رہے تھے (34)

سمیتھ ان تبدیلوں کی جڑیں مصری جادوگر تھیں اس کی داستان میں دیکھتا ہے وہ چوتھی اور پانچوں صدی عیسوی میں شام میں مقدس انسان کے مذہب کی پیش بینی کر رہا تھا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ رجحان پہلے ہی سے فلسطینی یہودیت میں موجود تھا۔ فریسی اور قمرانی فرقے اپنی مذہبی والبستگی کو ایک نیا معبد سمجھتے تھے۔ اب مسیحی تبدیلی لاتے ہوئے مقدس انسان کو معبد کا مقام دے رہے تھے۔ زیارتؤں اور طہارتوں کی پرانی مذہبی رسوم کی بجائے مسیحیوں کے ہاں خدا کا راستہ مذہب کی تبدیلی (خدا سے رجوع) باضابطہ شرکت اور یسوع سے والبستگی تھی کیونکہ یسوع انسان ہونے کی باوجود مرنے کے بعد جی اٹھنے پر خدائی درجہ حاصل کر چکا تھا۔ (35) پال نے عیسایوں کو تعلیم دی کہ حضرت عیسیٰ نجات کا ذریعہ ہیں۔ وہ انہیں گناہ اور موت کی شیطانی قوتوں سے تحفظ دلائیں گے۔

یہ دعویٰ بہت سے یہودیوں، مسیحی فرقے کے بزرگ ارکان اور ان کے پیروکاروں نے توہین شریعت، بے حرمتی اور کفر قرار دے دیا۔ ان کے لئے یہ بات حیرت اور صدمے سے کم نہیں تھی کہ محض ایک انسان میں روح القدس اترسکتی ہے؟ لیکن ہم دیکھ چکے ہیں کہ خدا اپنا ظہور کہیں بھی اور کسی بھی چیز میں کر سکتا ہے۔ اس کے لئے وہ کسی شہر، معبد، پہاڑ یا انسان کا انتخاب کر سکتا ہے۔ (36) چنانچہ مسیحی فرقے کو کسی خاص مقام میں اپنی جڑیں گھری کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اسے یہودیوں کی طرح مخصوص معبد اور مقدس شہر کو بنیاد بنانے کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ لوگوں کو ایک ایسی ہستی کی ضرورت تھی جو انہیں کہیں بھی نجات اور روحانی آسودگی مہیا کر سکے۔ چنانچہ دمشق کے سفر کے دوران پال کی ڈرامائی مذہبی تبدیلیے بہت سے یہودیوں کے لئے ایک بامعنی اقدام تھا۔ مسیحی فرقہ اب با قاعدہ عیساوی مذہب بن رہا تھا۔

اب یروشلم میں عیسایوں کا ہیر و جیمز زادک نہیں بلکہ پال سیاح تھا۔ اس کے پیروکار کسی شہر سے بندھے ہوئے

نہیں تھے۔ بلکہ سفر و حضر میں روحانی معاملات

میں خود کفیل تھے۔ لیکن ابھی تک لوگوں کے لئے یہ شلم سے دور ہونا تکلیف دہ تھا۔ پال اور بنیادی کلیسیا کے درمیان ایک تنازع اٹھ کھڑا ہوا۔ جیمز کو پتہ چلا کہ انطا کیہ کے عیسائی کو شریعنی حلال گوشت نہیں کھاتے اور بے دینوں کے ساتھ آزادانہ میل جوں رکھتے ہیں۔ مصالحت کی کوششوں کے بعد طے ہوا کہ پال کو بے دینوں میں عیسائیت کی تبلیغ کا مشن سونپ دیا جائے۔ بنی اسرائیل کے انبیاء ہمیشہ

سے ایسے دور کی پیش بینی کرتے رہے تھے جب بے دین یہواہ کے سامنے سر جھکایا کریں گے اور اس کے لئے یہ شلم کا رخ کریں گے۔ اور یہ دور ایک مسیحا کا ہوگا۔ پال بزرگ ارکان کو یہ دکھانے کے قابل ہو گیا تھا کہ ان کلیسیاوں میں غیر یہودیوں یعنی بے دینوں نے آنا شروع کر دیا ہے۔ وہ اسی جوش و جذبے سے سرشار ہوتے ہیں جس کا مظاہرہ یہودی مسیحی کرتے ہیں۔ چنانچہ جیمز کو چاہئے کہ وہ ختنے اور توریت کے مکمل اتباع کے غیر حقیقی مطالبات چھوڑ دے۔ پال نے اپنے تبلیغی مشن میں خود مختاری کے جواب میں پیش کش کی کہ اس کے ذریعے عیسائیت قبول کرنے والے لوگ یہ شلم کے غریبوں کی مدد کریں گے۔ اپنے مشن کے دوران پال نے یہ شلم کے کلیسیا کو جمع ہونے والی رقم کی ادائیگی ہمیشہ ترجیحی بنیادوں پر کی۔ یہ تسلسل کی ایک اہم علامت تھی۔ اس کے ذریعے عیسائیت قبول کرنے والے یہودیت کے لئے اپنے روحانی تشكیر کا اظہار کر رہے تھے اور قدیم پیشین گوئیاں پوری ہو رہی تھیں۔ (37) بے دین واقعی یہ شلم کے لئے تھنے لارہے تھے چنانچہ حتیٰ نجات اب دور کی بات نہیں تھی۔

لیکن جب پال 58ء میں عید خیام کے موقعہ پر رقم ادا کرنے کے لئے یہ شلم پہنچا تو معبد میں اس کی موجودگی ہنگامے اور تصاصم کا سبب بن گئی۔ پروہتوں نے اسے نقص امن کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ اس پر الزام عائد کیا گیا کہ وہ اپنے نئے پیروکاروں کو جو ماضی میں بے دین تھے، اسرائیلیوں کے صحن میں لے آیا۔ (38) یہ بات قرین قیاس محسوس نہیں ہوتی کہ پال نے اس انداز میں قانون شکنی کی ہو کیونکہ وہ لوگوں کے مذہبی جذبات کا احترام کیا کرتا تھا۔ اگرچہ وہ سمجھتا تھا کہ پرانی پابندیاں ختم ہو چکی ہیں اور بے دین بھی خدا کی بادشاہت میں غیر قوم نہیں سمجھے جاتے لیکن وہ معبد کی پابندیوں کو پامال نہ کر سکتا تھا۔ دراصل پال کی معبد میں موجودگی کو کھڑی یہودیوں نے ایک خطرہ سمجھا۔ یہ لوگ جانتے تھے کہ پال کے عقائد ان سے مختلف ہیں۔ قرآنی فرقہ کی طرح پال کے ساتھی بھی سمجھتے تھے کہ اب خدا زمین پر دین داروں کی برادری میں رہتا ہے۔ (39) پال کے ساتھیوں نے خدا کی ارضی رہائش یعنی معبد کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ اپنے آپ کو خدا کی بادشاہت میں داخل سمجھتے تھے۔ (40) یہی وجہ ہے کہ جب 58ء میں پال معبد میں آیا تو یہودیوں نے اسے بھی یسوع اور ستفسن کی طرح معبد کے لئے خطرہ سمجھا، چنانچہ ہنگامہ اٹھ کھڑا ہوا اور پال کو گرفتار کر لیا گیا۔ لوقا، رسولوں کے اعمال میں لکھتا ہے کہ پال کو قیدی کی حیثیت سے روم مچھوادیا گیا کیونکہ اس نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ رومن ہے چنانچہ وہ حق رکھتا ہے اس کا

ایک شہر تین مذاہب

مقدمہ قیصر روم کے سامنے پیش کیا جائے۔ انطیوکس اپنی فینیس کے دور کے یہودی مصلحین کی طرح پال بھی محض یروشلم کا بیٹا بننے کی بجائے بین الاقوامی شہری بننا چاہتا تھا۔ پال کے ساتھ روم میں کیا ہوا؟ تاریخ نہ میں کچھ نہیں بتاتی۔ ایک داستان کے مطابق وہ شہنشاہ نیرو کی اذیت رسانی کے دوران 64ء میں مارا گیا۔ لیکن اس کی موت کی ایک عرصہ بعد بھی ”غیر قوموں“ میں اس کے بنائے گئے کلیسیا انہی عقائد پر کاربندر ہے جو پال نے پیش کئے تھے۔

پیلا طس کے دور سے یہودی معبد کے دفاع کے لئے زیادہ مستعد ہو چکے تھے۔ انہیں اب اس کا تقدس ہر وقت خطرے میں نظر آتا تھا۔ 41ء میں شہنشاہ گائیس کیلیگو لا نے حکم دیا کہ اس کا ایک مجسمہ یروشلم کے مقدس مقام پر نصب کیا جائے۔ جب پیٹرو نیس، شام کا رومی حکمران، شہنشاہ کے حکم کی تعییل کے لئے بطیموس کی بندرگاہ پر پہنچا تو اسے سراپا احتجاج ہزاروں یہودیوں کا سامنا کرنا پڑا جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ شہر کے باہر میدان میں کھڑے تھے۔ مذاکرات کے دوران یہودیوں نے معمولی سی چک دکھانے سے بھی انکار کر دیا۔ کیلیگو لا نے دھمکی دی کہ اگر انہوں نے مزاحمت جاری رکھی تو شہر کی تمام آبادی کو قید کر لیا جائے گا۔ روم کو صورت حال سے آگاہ کر دیا گیا۔ اس دوران یہودیوں نے ایک بار پھر عدم تشدید کا راستہ اپناتے ہوئے پر امن مزاحمت کو ترجیح دی۔ انہوں نے کاشتکاری معطل کر دی۔ اس کا مطلب تھا کہ اب رومنوں کو سالانہ باج گزاری میں کچھ نہیں ملے گا۔ کچھ لوگوں کو یقین تھا کہ خدا ضرور مداخلت کرے گا اور واقعی خدا نے مداخلت کی اور انہیں پچا لیا۔ شہنشاہ روم کوئی انتقامی کارروائی کرنے سے پہلے ہی قتل ہو گیا۔ (41)

یہودیوں کو خوش کرنے کے لئے کیلیگو لا کے جانشین شہنشاہ کلاڈیوس نے ہیرودیس کے پوتے اگر پا کو فلسطین کا بادشاہ مقرر کر دیا۔ اس کے مختصر دور حکومت میں یروشلم خوب چلا پھولا۔ اگر پا نے شہر کے بالائی اور زیریں بازار وادی ال وعد میں وسیع کر دیئے اور شہر کے شہابی حصہ کے گرد دیوار بنانے کا منصوبہ بنایا۔ 44ء میں اچانک اسے موت نے آ لیا۔ اس کی موت یہودیوں کے لئے ایک شدید دھچکا تھی۔ اگر پا کا بیٹا بھی کمسن تھا اور حکومت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا تھا چنانچہ شہنشاہ کلاڈیوس نے یہودیہ میں ایک نئے رومی گورنر کو تھیج دیا۔ لیکن نئے گورنر کو مکمل اختیارات حاصل نہیں تھے۔ اس دوران اگر پا کے بیٹے اگر پا دوم کو روایتی بادشاہ بنانا کر پورے اعزاز و اکرام سے نوازا گیا۔ کمسن بادشاہ کے دور میں فلسطین میں بے چینی کی لہریں دیکھنے میں آئیں۔ تھیوڈس نامی ایک نبی چارسو فرادر کو لے کر صحرائیں چلا گیا۔ اس کا دعوی تھا کہ خدا وہاں ظاہر ہو گا اور یہودیوں کو روم سے نجات دلائے گا۔ ایک اور نبی رومی گورنر فیلیکس (52-59ء) کے دور میں اٹھا۔ اس نے دعوی کیا کہ وہ رومنوں کو یروشلم سے باہر نکال دے گا۔ لیکن کوئی بھی نبی عوام کی اکثریت کو اپنی طرف نہ تھیج سکا۔ چنانچہ رومیوں نے انہیں کسی مشکل کے بغیر کچل دیا۔ لیکن لوگوں کے جذبات کا اٹھا رہ ہوا روں کے اجتماعات میں ہوتا رہا۔ رومی حاکم کو مانس (48-52ء) کے دور میں عید گزر اس (پیساک) کے ایک موقع پر حفاظتی دستے کا ایک سپاہی چھپے پر نمودار ہوا اور یونیپر زائرین کو دیکھ کر نازیبا اشارے کرنے لگا۔ زائرین مشتعل ہو گئے۔ ہزاروں مشتعل یہودیوں کو معبد کے سجن میں موت سے

ایک شہر تین مذاہب

ہم کنار کر دیا گیا۔ لیکن اس طرح کے واقعات کے باوجود یہ ششم ترقی کرتا رہا۔ انہی برسوں میں انتہا پسندوں نے مقدس شہر کو کشت و خون کے ذریعے رومیوں سے پاک کرنے کا منصوبہ بنایا۔ لیکن پھر روم کے ساتھ تصفیہ ہو گیا۔ 59ء میں بادشاہ اگر پا دوم کو اجازت دے دی گئی کہ وہ قدیم حسمونی محل میں رہائش اختیار کر لے۔ ہیرودیس کا محل رومی حاکم کے زیر استعمال تھا۔ ہیرودیس کے دور میں شروع کیا گیا معبد بلا ختم مکمل ہو گیا۔ اٹھارہ ہزار مزدوروں کو شہر کی گلیاں بنانے کے لئے ملازم رکھا گیا۔ یہ ششم کو معقول حد تک خود مختاری دے دی گئی۔ اگر پا اور کاہنِ عظیم دونوں مل کر یہ ششم پر حکومت کرنے کے ساتھ ساتھ قیصر یہ میں موجود رومی حاکم کے ساتھ پورا پورا تعاون کرتے رہے۔

60ء میں رومیوں نے ناہل قسم کے لوگوں کو یہودیہ کے گورنر کی حیثیت سے تعینات کرنا شروع کر دیا۔ ایلی بی نس (62-60ء) مبینہ طور پر یہودی قضاقوں سے رشوٹ لیتا تھا۔ کیسس فلورس (66-64ء) نے بھی اس بد عنوانی کو جاری رکھا۔ جب قیصریہ میں یہودیوں اور شامی باشندوں کے درمیان فسادات بھڑک اٹھ تو فلورس نے موقع غنائمت جانتے ہوئے سرکاری خزانے کے لئے معبد کے خزانے سے رقم طلب کرنے کا مہلک قدم اٹھالیا۔ پلک چھپکنے میں یہ ششم ہنگاموں کی لپیٹ میں آ گیا۔ یہودی شہر کی گلیوں میں رومی سپاہیوں سے الجھ پڑے۔ جب صورت حال قابو سے باہر ہو گئی تو فلورس نے اپنا فیصلہ واپس لیلیا اور شام میں رومی گورنر کیسس گلیس

سے مدد کی درخواست کی۔ کیلس نومبر کے وسط میں لڑائی کی پوری تیاری کے ساتھ فلسطین میں پہنچا۔ اس نے کوہ سکوپس پر لشکر گاہ بنائی اور پھر بے شہیتا کے شمال میں پیش قدمی کی۔ پھر یہودیوں کی بے قاعدہ اور ہنگامی فوج سے تصادم کے بعد نہ جانے کیوں اماوس کے طرف پسپائی اختیار کر لی۔ اس جنگ میں یہودیوں نے پانچ ہزار سے زائد رومی سپاہیوں کو تباہ کیا۔ اس بحران کے دوران بھی یہودی اپنی داخلی کشمکش میں الجھے رہے باغیوں کو ہمہ گیر جمایت حاصل نہیں تھی۔ دیہی علاقوں کے سردار اور شہروں کے اشراف بھی روم کے خلاف جنگ کے حامی نہ تھے۔ صدو قی اس معاملے میں زیادہ حقیقت پسند تھے۔ وہ جانتے تھے کہ یہودی روم کی طاقت کی شکست نہیں دے سکتے چنانچہ انہوں نے ”یہودی آزادی“ کے خواب دیکھنا چھوڑ دیئے تھے۔ فریسوں کی اکثریت بھی سیاست کے بر عکس مذہب پر زیادہ توجہ دیتی تھی۔ وہ اس حقیقت سے آگاہ تھے کہ روم کے خلاف یہودی بغاوت دوسرے علاقوں میں مقیم یہودیوں کو سنگین خطرے سے دوچار کر دے گی۔ بادشاہ اگر پا نے باغیوں کو پر امن بنانے کی کوشش کی۔ اس نے انہیں قائل کرنے کے لئے یاد دلایا کہ وہ کالوں، جرمنوں یا یونانیوں سے زیادہ طاقتور نہیں ہیں۔ ان سب کو رومی طاقت کے سامنے سر جھکانا پڑا ہے۔ چنانچہ یہودیوں کو بھی عقل و دانش سے کام لینا چاہیے۔ خود مورخ جوزیفس رومیوں کا حامی تھا۔ اس کا کہنا ہے کہ یہودی محض خود کشی کا راستہ اپنائے ہوئے تھے۔ لیکن ایک نیا انقلابی گروہ زیلیس کے نام سے اعتدال پسندوں کی مخالفت میں منظر عام پر آ گیا۔ اس انتہا پسند متعصب گروہ کا خیال تھا کہ رومی سلطنت کا زوال شروع ہو چکا ہے۔ یہودیوں کے سامنے سنہیری موقع ہے وہ رومیوں سے اپنی آزادی چھین لیں،

کیا میقا ایوں نے غیر ملکی اقتدار کا جواہار کر آزاد یہودی

بادشاہت قائم نہیں کی تھی؟ یہ گروہ امن پسند یہودیوں کی سازشی اور صیہون کے باغی قرار دیتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ ان یہودیوں کو معبد میں عبادت کے لئے داخل ہونے سے روک دیا جائے گا۔ لیکن فلسطین کی یہودی آبادی کی اکثریت ان زیلش کے خلاف تھی۔ خود زیلش کی اپنی صفوں میں اتحاد موجود نہیں تھا۔ کچھ انہا پسند بحر مردار کے قیب واقع قلعہ مصاوا کی طرف چلے گئے اور پھر انہوں نے شہر مقدس کے لئے مزید کسی جدوجہد میں حصہ نہ لیا۔ زیلش کیلیں کی شکست کے بعد جب صاف نظر آ رہا تھا کہ اب روم کے ساتھ ایک بڑی چنگ ناگزیر ہے تب بھی زیلش یروشلم میں باہم دست و گریباں تھے۔

غالباً اسی مرحلہ پر یہودی مسیحی فرقے نے یروشلم سے نکل جانے کا فیصلہ کیا۔ یہودی انتظامیہ اور مسیحی کلیسیا کے درمیان کشیدگی کے آثار واضح ہو چکے تھے۔ بزرگ رکن جیمز زادک کو 62ء میں پھانسی دے دی گئی۔ جیمز کو کاہنِ اعظم کی طرف سے ”قانون شکنی“ کے ازالہ ام میں موت کی سزا دی گئی تھی۔ فریسی فرقے کے اسی کاہنوں نے جیمز کو دی جانے والی سزا پر روم سے احتجاج کیا اور جیمز کی سزا کے دن اجتماعی خودکشی کر لی۔ یروشلم کے کلیسیا کی قیادت اب حضرت عیسیٰ کے پچازاد شمعون کے پاس آ گئی۔ وہ مسیحی برادری کو لے کر اردن کے پار پیلا میں چلا گیا۔ حضرت عیسیٰ یروشلم کی تباہی کی پیشین گوئی کر چکے تھے اور عیسائیوں کو نظر آ رہا تھا کہ شہر کا انجام زیادہ دور نہیں۔ لیکن دوسرے یہودیوں نے کامیابی کے لئے جنگ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ کیلیں کی شکست کا بدله لینے کے لئے روم سے آنے والی فوج کی مزاحمت کے لئے یہودیوں نے تیزی سے شمال میں تیسرا دیوار تعمیر کی جس کا منصوبہ اگر پا دوم بننا چاہکا تھا۔

یہودیوں کی بد قسمتی ان کے سر پر منڈلانے لگی۔ رومیوں نے یہودیوں کی بغاوت کچلنے کے لئے اپنا قابل ترین جرنیل یروشلم کو روانہ کیا۔ 67ء میں رومی جرنیل ولیسا سین فلسطین میں پہنچا۔ اس نے منظم انداز میں یکے بعد دیگرے ان تمام مراکز کا صفا یا کیا جو گلی میں موجود تھے۔ 70ء میں سینٹ نے ولیسا سین کو شہنشاہ بنادیا چنانچہ وہ واپس روم چلا گیا اور اپنے پیچھے یہودیوں سے جنگ کے لئے اپنے بیٹے طیلس کو چھوڑ گیا۔ طیلس نے اسی سال فروری میں یروشلم کا محاصرہ کر لیا۔ مئی میں اس نے نئی دیوار توڑ دی۔ ایک ہفتہ بعد کے گرد بی دوسرا دیوار بھی توڑ دی گئی۔ اب جنگ معبد کے ارگردہور ہی تھی۔ جولائی کے

آخری دنوں میں رومیوں نے انthonیہ پر قبضہ کر لیا اور معبد کے صحنوں میں پتھر گرانے شروع کر دیے۔ معبد میں آخری قربانی 6 اگست کو دی گئی۔ لیکن یہودیوں نے ابھی تک ہتھیار نہیں پھینکے تھے۔ بہت سے زیلش کا خیال تھا کہ چونکہ خدا خود اس شہر میں رہتا ہے اس لئے یہ کبھی تسبیح نہیں ہو سکے گا۔ ایک نبی تو آخری لمحوں میں بھی مصراحتا کہ خدا کسی مجرمے کے ساتھ مداخلت کرے گا اور اپنے معبد اور لوگوں کو بچائے گا۔ (42)

28 اگست کو جب رومی سپاہی بالآخر معبد کے داخلی صحنوں میں پہنچے تو چھ ہزار یہودی زیلش خون کا آخری قطرہ

بہانے کے لئے ان کے منتظر تھے۔ یونانی مورخ ڈایوکا سینس (وفات: 230) کہتا ہے کہ یہودیوں نے غیر معمولی جرأت و بہادری کے ساتھ مزاحمت کی۔ ان میں سے ہر ایک معبد کے دفاع میں مرتباً ایک سعادت سمجھتا تھا۔ (43) آخری لمحے تک انہوں نے معبد کی پاکیزگی اور قدس کو مقدم رکھا۔ ہر ایک اپنی متعین جگہ پرہ کر لڑتا رہا۔ موت کو سامنے دیکھ کر بھی کسی ایک زیست نے ممنوعہ علاقے میں داخل ہونے کی کوشش نہ کی۔ عام یہودی اگلے صحنوں میں لڑتے رہے جب کہ شرف اندر وہی صحنوں میں جانے کے مجاز ہونے کی وجہ سے وہاں ڈٹ گئے۔ کاہنوں نے مقدس ترین مقامات کے لئے جان دی۔۔۔۔۔ اور پھر سب نے دیکھا کہ معبد شعلوں کی لپیٹ میں آ گیا ہے۔ خوف اور صدمے کے ساتھ لوگ چیخ اٹھے۔ (44) کچھ لوگوں نے خود کو رہنے والوں کی زد میں دے دیا جب کہ بقیہ شعلوں میں کوڈ گئے۔

معبد سرگنوں ہو جانے پر دل برداشتہ یہودیوں نے ہتھیار پھینک دیئے۔ اب نہ تو کسی کو بالائی شہر کے دفاع میں دلچسپی تھی اور نہ دیگر قلعوں سے مزاحمتی جدوجہد جاری رکھنے کی ضرورت۔ کچھ لوگوں نے صحرائی راہی کشاں یہ نیا خروج کسی نئی قومی نجات کا پیشکش کیا تھا۔ لیکن بقیہ لوگ بے بسی کے ساتھ معبد کا انہدام دیکھتے رہے۔ طیس کے فوجی افسران نے انتہائی مہارت کے ساتھ معبد کی پچی کچھی عمارتوں کو زمین بوس کیا۔ کہا جاتا ہے کہ خانہ اقدس کی مغربی دیوار ایجاد ہر ہی۔ اس مقام کے بارے میں سمجھا جاتا تھا کہ یہاں خدا آرام کیا کرتا ہے۔ یہودیوں کو اس دیوار کے قائم رہنے پر کچھ تسلیم ضرور ملی۔ (45) لیکن یہ تسلیم قیامت خیز المیہ کا مدار نہیں تھی۔ صدیوں تک معبد یہودی دنیا کے دل میں قائم رہا۔ یہ یہودی مذہب کا مرکز تھا۔ لیکن ایک بار پھر تباہ کر دیا گیا۔ اور اس دفعہ پھر کبھی تعمیر نہ ہونے کے لئے تباہ ہوا۔



حوالہ جات

1. جوزیفس، دی جیوش وار، 5:146
2. سکوتھ 51-B
3. جوزیفس، دی جیوش وار، 5:210
4. جوزیفس، اپنیکیٹر آف دی جیوز، 15:396
5. جوزیفس، جیوش وار، 5:224-25
6. 3B ----- B-BATRIA
7. جوزیفس، جیوش وار، 5:211-17
8. PHILO, The Special Law 1:66.
9. PHILO, QUESTIONS On The EXODUS 2:95.
جوزیفس، جیوش وار، 5:19
11. PHILO, the Special Law 1:96-97
12. E. P. SANDERS, JUDAISM: PRACTICE & Belief, 63 BC to
66 A. D (LONDON 7 PHILADELPHIA, 1992) P. 128
جوزیفس (اپنیکیٹر، 4:205) فیلو (پیش لاء، 1:70)
14. RAPHAEL PATAI, Man & Temple in Ancient Jewish Myth &
Ritual (London 1967) Chapter -3
15. یہودی عبادت خانہ صومعہ (SYNAGOGUE)، کنیسہ یا اصلوں کا مبدأ منع تاریکی میں ہے اور اس کے بارے میں اختلافات پائے جاتے ہیں۔ اس کا آغاز بیرون فلسطین ہوا لیکن یہ طے کرنا مشکل ہے کہ کب ہوا۔ صومعہ قدیم دنیا میں ایک منفرد مذہبی ادارہ تھا۔ لیکن تب یہ مذہبی عمارت کی بجائے فلسفیوں کا مکتب محسوس ہوتا تھا۔ کیونکہ یہاں قربانی کی بجائے دعائیں اور مناجات پڑھی جاتی تھیں۔ پہلی صدی قبل مسیح کے دوران یو شلم میں بہت سے صومعے تعمیر ہو چکے تھے۔
16. Avot- 1: 12-13, Sifra - 109B.

- B. Batria-9A, Avot do Rabba Nathan-7:17 A; B, B. Tanhuma Noah- 16A,
17. Sanders, Judaism: Practice and Belief, p. 441.
18. II QPS 22, The Dead Sea Scrolls in English (London-1987). p. 212.
- جوز یفس، چیوش وار 1:650-52 - 19
- جوز یفس، اپنیکیٹر 17:206-18 - 20
- اپنے 8:3 - 21
- انجیل مرقس 11:15-18، یسیعہ 7:56، یرمیا 11:7 - 22
- انجیل مرقس 13:1-2 - 23
- انجیل لوقا 22:28-30 - 24
- اعمال (نیا عہد نامہ) 5:34-40 - 25
- اعمال 2:44-47، انجیل متی 5:25-34 - 26
- متی، یہودی مسیحیوں کے افکار کا حامی تھا۔ چنانچہ ان کے خیالات کی ترسیل کا ذریعہ بنا۔ یہودی مسیحی فرقہ اسی کی انجیل کو قابل قبول سمجھتا تھا۔
- گلتوں (نیا عہد نامہ) 2:6 - 27
- انجیل متی 5: 17-42 - 28
- اعمال (نیا عہد نامہ) 6:1 - 29
- اعمال 7:1-49 - 30
- اعمال 8:1 - 31
- اعمال 11:26 - 32
- رومیوں 7:14، گلتوں 3: 10-22 - 33
34. JONATHAN Z. SMITH, The Temple and The Magician, (LEIDEN-1978).

- 35 فلپیوں (نیا عہد نامہ) 2:5-1

36. MIRCEA ELIADE, PATTERNS IN COMPARATIVE RELIGION. pp. 26-28
- 37 گلتیوں 2:10، رومیوں 15:25-27
 - 38 اعمال 21:26-40
 - 39 افسیوں 2:14-21
 - 40 عبرانیوں 12:22-23، 5:17
 - 41 جوزیفس (ANTIQUITIES) 18: 261-72
 - 42 جوزیفس (JEWISH WAR) 6:98
 - 43 ڈایوکا سینیس (HISTORY) 66:6
 - 44 جوزیفس (جیوش دار) 6:98
 - 45 LAMENTATIONS RABBAH 1:50

=====

**Virtual Home
for Real People**

آٹھواں باب

ایلیا کا پی ٹولینا

کوہ صیہون پر معبد اب ملبے کا ڈھیر تھا۔ خانہ اقدس کی مغربی دیوار کے علاوہ صرف چبوترے کو سہارا دینے والی بڑی بڑی معاون دیواریں ہی رومی حملے میں نجک پائی تھیں۔ معبد کو زمین بوس کرنے کے بعد طیس کے سپاہیوں نے بالائی شہر کی خوبصورت عمارتوں کا رخ کیا اور پھر ہیرودیس کا پر شکوہ محل بھی زمین چاٹ رہا تھا۔ ماہرین آثار قدیمہ بتاتے ہیں کہ رومن سپاہیوں نے یقیناً بڑی بے رحمی اور ”تجھے“ کے ساتھ سب عمارتوں کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی۔ ایک ایک مکان منہدم کیا گیا۔ ملبے کے ڈھیر اس طرح ابھرے کہ پھر کبھی ہٹائے نہ جاسکے۔ وادی اینٹوں، پھروں اور عمارتوں میں استعمال ہونے والی لکڑیوں کے ٹکڑوں سے اٹ گئی۔ برسات کے دنوں میں پہاڑیوں سے آنے والے گارے کی تھیں ان پر جم گئیں۔ شہر کی تمام دیواریں گر چکی تھیں۔ بالائی شہر کے مغرب میں دیوار کا ایک حصہ نجک گیا جو اجڑے ہوئے شہر کو کسی ماتم گسار کی طرح حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتا رہتا تھا۔ اسی کے سامنے میں رومن فوج کے دسویں لجن کے سپاہیوں نے اپنے خیمے نصب کر کھے تھے۔ اس مقام پر ہیرودیس کا محل ہوا کرتا تھا۔ دیکھنے والوں کو یقین نہیں آتا تھا کہ یہاں کبھی ایک پررونق شہر آباد تھا۔ رومن شہنشاہ مسلسل اس

طرح کے اقدامات کرتے رہے کہ فلسطینی پھر کسی بغاوت کے بارے میں سوچ بھی نہ سکیں۔ 70ء کے بعد کئی سال تک ایسے سکے ڈھالے گئے جن پر ایک یہودی عورت بندھے ہاتھوں کے ساتھ کھجور کے درخت کے نیچے یاں انگیز حرالت میں بیٹھی دکھائی گئی تھی۔ شہنشاہ ویسا سنین (79-80ء) طیس (79-81ء) دومیشیان (96-81ء) اور ٹرا جن (98-117ء) سب نے یروشلم (کے ٹھنڈرات) اور فلسطین میں تعینات دسویں لجن کو حکم دے رکھا تھا کہ بادشاہ داؤ دکی اولاد ہونے کا ذعنوی کرنے والے ہر شخص کو تلاش کر کے قتل کر دیا جائے، لیکن رومن لجن نے زیادہ سختی نہ دکھائی۔ فلسطین اب رومن سلطنت کا

ایک شہر تین مذاہب

ایک مکمل صوبہ تھا۔ البتہ بادشاہ اگر پادوم کو امن برقرار رکھنے کی کوششوں اور روم سے تعاون کرنے کے صلہ میں اپنا خطاب برقرار رکھنے اور گلیلی پر حکومت کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ لیکن یہ اجازت صرف اس کو دی گئی اور طے کردیا گیا کہ اگر پاکی موت کے بعد گلیلی بھی رومی صوبہ میں شامل کر دیا جائے گا۔ فلسطین میں یہودیوں کی تمام زمینیں ضبط کر لی گئیں اور قانونی اعتبار سے اب وہ شہنشاہ کی املاک میں شامل تھیں لیکن عملی طور پر زیادہ تر زمینیں سابقہ مالکان ہی کے قبضہ میں تھیں۔ یہ زمیندار چونکہ

بغوات کے مخالفین میں سے تھے چنانچہ مقامی رومی حکام نے بھی ان سے نرمی بر تی۔

اگرچہ رومنوں نے یہودیوں کے ساتھ زیادہ سختی نہ بر تی اور شعوری طور پر زم پالیسیاں اپنا کیں لیکن یروشلم کی تباہی اور رومنوں کی فتح بہر طور یہودیوں کے لیے ذلت و رسائی کا ذریعہ تھی۔ وہ کسی بھی طرح یہ سب کچھ بھول نہیں سکتے تھے۔ کئی باتیں ایسی تھیں جو انہیں مسلسل اپنی ذلت کا احساس دلاتی رہتی تھیں۔ مثلاً معبد کے نام پر تمام یہودی مردوں سے ایک لیکس لیا جاتا تھا جو روم میں کپی ٹولیں پہاڑی پر بنائے گئے جو پیڑ کے معبد کے لیے وقف تھا۔ 81ء میں روم میں ہی فتح کی ایک شاندار محراب تعمیر کی گئی جو طبیطس کی فتح کی یاد دلاتی تھی۔ اس میں وہ تمام مقدس اشیاء عرکھی گئیں جو یروشلم کے معبد سے لائی گئی تھیں۔ ایک صدی بعد بھی پورے تقاضے کے ساتھ دار الحکومت میں ان مقدس اشیاء کی نمائش جاری تھی۔ یہودی ربی العیاضر کو کہنا ہے کہ اس نے اپنی آنکھوں سے روم میں یروشلم کے معبد سے لا یا گیا پرده دیکھا تھا جس پر قربانی کے خون کے دھبے ابھی تک موجود تھے۔ کاہن اعظم کا سر پوش بھی دیکھا جس پر ”مقدس یہوا“ کے الفاظ کشیدہ تھے۔ (1) یروشلم میں دسویں لیخن کے سپاہی اب آزادی کے ساتھ شاہی عقاب کے پھریرے لہراتے اور کھنڈروں میں اپنے دیوتاؤں کو قربانیاں پیش کرتے تھے۔ انہوں نے بیت حصہ کے تالاب کے قریب جانوس دیوتا کا مندر بھی بنارکھا تھا۔ (1) یہ دیوتا بیماریوں سے بچانے اور بیماروں کو شفا بخشنے کی قوت کا مالک سمجھا جاتا تھا۔

یہودی دنیا کا مرکز ”یروشلم“، اب رومی فوج کی ایک لشکر گاہ تھا۔ دسویں لمحن نے وہاں اپنے طویل قیام کے آثار نہیں چھوڑے۔ غالباً سپاہیوں کی رہائش کے لیے

لکڑی کے گھر یا پھر خیمے استعمال کئے جاتے تھے۔ کچھ سپاہی اور افسران ہیرودیس کے محل کی ان تین عظیم برجیوں، ہی کس، فیزا میں اور ماریامنی میں رہتے تھے جن کو مسما رہ کرنے کی طبیطس نے خصوصی طور پر اجازت دی تھی۔ رومی سپاہیوں کے علاوہ شامی اور یونانی شہریوں کو بھی اس کھنڈر شہر میں رہنے کی اجازت دی گئی تھی۔ کچھ یہودی بھی موجود تھے جو رومی سپاہیوں کے خیموں کے جنوب میں موجود پہاڑی پر آباد تھے۔ ان چند مکانات کو رومیوں نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ جوزیفس نے غلطی سے اس پہاڑی کو کوہ صیہون لکھ دیا ہے۔ جوزیفس کی تحریر کے وقت لوگ بھول چکے تھے کہ اصل شہر داؤ دا ویل پہاڑی پر آباد کیا گیا تھا۔ کہ (حضرت) داؤ د شہر کے بہتر حصے یونی بالائی علاقے میں رہتے تھے کیونکہ جوزیفس کے زمانے میں

بادشاہ اور اشرافیہ کی رہائش اسی جگہ تھی۔ اس مغربی پہاڑی کو آج بھی کوہ صیہون کہا جاتا ہے۔ ہم آئندہ اس پہاڑی کو کوہ زیہون لکھیں گے تاکہ غلطی کا امکان نہ رہے۔

جب یروشلم کے علاقے میں عافیت بحال ہو گئی تو کچھ اور یہودی آکر کوہ زیہون پر آباد ہو گئے۔ یہ لوگ اب کوہ صیہون (کے معبد کے مقام) پر عبادت نہیں کر سکتے تھے کیونکہ یہ ناپاک ہو چکا تھا۔ چنانچہ انہوں نے زیہون کی جنوبی پہاڑی پر سات کنشت (عبادت خانے) تعمیر کر لیے۔ ہماری معلومات کے ذرائع عیسائی مورخین قیصریہ کا یوز یہنس (264-315ء) اور قبرص کا ابی فیلیس (315-403ء) ہیں جو مقامی روایات سے آگاہ تھے اور یروشلم کی تباہی کی تفصیلات بتاتے ہیں۔ ان کا

کہنا ہے کہ تباہی کے بعد مسیحی فرقے کے لوگ پیلا سے والپ آگئے اور کوہ زیہون پر یہودیوں کے پڑوس میں آباد ہو گئے۔ انکی قیادت شمعون (ساممن) کے پاس تھی۔ یہ لوگ انہدام سے نجات رہنے والے مکانوں میں سے ایک مکان میں اکٹھے ہوتے۔ انجلی میں اسے ”بالاخانہ“ کا نام دیا گیا ہے۔ یہیں (حضرت) عیسیٰ کے حواریوں نے انہیں دوبارہ زندہ حالت میں دیکھا تھا اور ان کے مطابق یہیں وہ روح القدس سے معمور ہوئے تھے۔ ابی فیلیس بتاتا ہے کہ پیلا سے والپی پر مسیحی فرقہ کے لوگ زیہون کے علاقہ میں ”بالاخانہ“ کے ارد گرد آباد ہوئے۔ یہ حصہ رومیوں کی دست برداشت سے محفوظ رہ گیا تھا۔ اب ان مکانوں کو راہبوں کی خانقاہیں کہا جانے لگا۔ (3) یوز یہنس اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ یروشلم چرچ، یعنی مسیحی فرقہ کے لوگ ابھی تک یہودیوں کے زیر اثر تھے۔ ان پر ”یہودی بشپ“ حکمران تھے۔ چنانچہ ان مسیحیوں کے بہت سے عقائد اپنے پڑوئی (زیہون کے باسی) یہودیوں کے عقائد پر مشتمل تھے۔ (4) پال کے پیروکاروں کے برکس وہ یسوع کو خدائی کا درجہ نہیں دیتے تھے۔ ان میں سے کچھ تو حضرت عیسیٰ کو ان کے بچپن سے جانتے تھے۔ چنانچہ وہ انہیں خدا تسلیم کرنے پر تیار نہیں تھے۔ وہ انہیں ایک انسان کی نظر سے دیکھتے تھے اور سمجھتے تھے کہ وہ ”مسیحا“ کے درجہ پر یقیناً فائز تھے۔ غالباً وہ ان مقامات کا احترام ضرور کرتے تھے جن کی نسبت حضرت عیسیٰ سے تھی۔ مثلاً گلگتا کی پہاڑی اور وہ چٹان جس میں بنائی گئی قبر میں وہ دوبارہ زندہ ہو گئے تھے۔ بہت سے یہودی اپنے مقدس بزرگوں کی قبروں پر جایا کرتے تھے۔ چنانچہ مسیحی فرقہ کے لیے یسوع مسیح کی حیات نوکی یاد مانا ایک فطری بات تھی۔ ان میں سے کچھ لوگوں نے گلگتا کھوپڑی کے مقام، سے پراسرار باتیں منسوب کر دیں۔ ایک یہودی روایت کے مطابق کوہ موریاہ، معبد سلیمانی کے مقام پر حضرت آدم کی تدفین ہوئی تھی۔ دوسری صدی عیسوی میں مسیحی فرقہ والوں نے کہنا شروع کر دیا کہ انہیں (حضرت آدم کو) گلگتا میں دفن کیا گیا تھا۔ اسی لیے وہ اسے ”آدم کی کھوپڑی“ کا مقام کہتے ہیں۔ (5) عیسایوں نے یروشلم کے متعلق اپنی اساطیر مرتب کرنا شروع کر دیں۔ انہوں نے عقیدہ پیش کیا کہ یسوع مسیح نئے آدم تھے جنہوں نے بنی نوع انسان کو ایک نیا آغاز بخشنا ہے۔ یروشلم کے اس المناک دور میں بہت سے یہودی مسیحی فرقے میں شامل ہو گئے۔ غالباً ایک مصلوب مسیح کے پھر سے جی اٹھنے کے تصور

نے ان کی مذہبی نشأۃ ثانیہ کی امید تو انہوں کی طرف تو انہوں کی امید تو انہوں کی طرف تھی۔

باقیہ یہودی رہبانیت کی طرف مائل ہو گئے۔ ربانوی تحریروں میں دیکھنے میں آتا ہے کہ یہودی گوشت اور شراب پر پابندی چاہتے تھے کیونکہ اب وہ معبد میں خدا کو ان چیزوں کا نذر انہیں پیش کر سکتے تھے۔ زندگی اب پہلے کی طرح تو گزاری نہیں جاسکتی تھی چنانچہ یہودیوں کو اب سوگ اور پرہیز گاری کی مذہبی رسماں کو اپنی تبدیل شدہ حیثیت کا عکس بنانا تھا۔ معبد کی تباہی ایک گھرا صدمہ تھا۔ تباہی کے تیس سال بعد کتاب بارک کا مصنف کہتا ہے کہ ”تمام دنیا کو سوگ منانا چاہیے۔ اب معبد ختم ہو چکا ہے۔ چنانچہ اب زمین کو فصلیں پیدا کرنے کی ضرورت نہیں، انگوروں سے شراب کشید کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ آسمانوں کی شبیم افسانی اور سورج کو اپنی تابانی ختم کر دینی چاہیے۔“

صیہون کی روشنی تاریکی میں بدل چکی ہے

اب دن کے اجالوں کی کیا ضرورت ہے؟ (6)

معبد دنیا کی تفہیم کا ایک ذریعہ اور ایمان کا مرکز تھا۔ اس کے معدوم ہو جانے پر یہودیوں کے لیے زندگی کی نہ تو کوئی قدر و قیمت تھی اور نہ اہمیت۔ چنانچہ ان تاریک دنوں میں بہت سے یہودی اپنا ایمان گنو بیٹھے۔ لیکن یہ بات درست نہیں ہے کہ یہودیوں نے اپنی زندگیوں میں سے معبد کو نکال دیا۔ وہ یہودی جو دوسرے ذرائع سے خدا کی موجودگی کو محسوس کر لیتے تھے۔ ان کی عقیدت بھی یروشلم اور اس کے مقدس مقام کو اپنے مذہب میں مرکزی حیثیت دیتی تھی۔ یہودیوں کو اپنے تباہ کن نقصان سے نکلنے کے لیے تمام تر تخلیقی صلاحیتوں کو بروئے کارلانے کی ضرورت ہے۔

یروشلم کے محاصرہ کے دوران فریلی ربی یوہانن بن ذکائی کو ایک تابوت میں چھپا کر شہر سے باہر سمجھ کر دیا گیا۔ فریسیوں کی اکثریت کی طرح وہ بھی انقلابی انتہا پسندوں زیلیش کا شدید مخالف تھا۔ 73ء میں رومیوں کے سامنے ہتھیار ڈالنے کی بجائے زیلیش کا اجتماعی خودکشی کا اقدام یوہانن کے نزدیک یہودی

تعلیمات کے منافی تھا۔ اس کی اعتدال پسندی کے نتیجے میں وہ اور اس کے ساتھے معبد کی تباہی کے بعد یہودیوں کی قیادت سنبھال رکھنے کے حقدار ٹھہرے۔ ربی یوہانن نے شہنشاہ ولیسا سین سے رابطہ کیا اور درخواست کی کہ ایک مدرسہ قائم کرنے کی اجازت دی جائے جہاں یہودیوں کو پڑھنے اور عبادت کرنے کے موقع مل سکیں۔ اس کا اصرار تھا کہ یہ ایک روحانی مرکز ہو گا جو کسی بھی طرح انقلابی خیالات کو فروغ دینے کا ذریعہ نہیں بنے گا۔ چنانچہ اسے ساحلی علاقے میں ایک درس گاہ یوناہ کے نام سے بنانے کی اجازت دے دی گئی۔ یہاں یوہانن اور اس کے ساتھی رہیوں نے جو معبد میں کاہنوں کے فرائض سرانجام دے چکے تھے، ایک نئی یہودیت کی تشکیل کا امام شروع کر دیا۔ جب 586ق میں یہودیوں کو معبد سے محروم اور جلاوطن ہونا پڑا تھا تو انہوں نے توریت کے مطالعہ میں بناہ لے لی تھی۔ اب یوناہ اور اسی قسم کی درس گاہوں میں جو

ایک شہر تین مذاہب

فلسطین اور بابل میں قائم ہو چکی تھیں، ربیوں نے جو ”تنایم“ کہلاتے تھے ان زبانی قوانین کو باقاعدہ ضابطہ کی شکل دینا شروع کر دی جو صدیوں کے دوران بنی اسرائیل کے انبیاء نے وضع کئے تھے۔ بالآخر یہ مجموعہ قوانین مرتب ہو گیا اور اسے مشنہ کہا گیا۔ علامتی انداز میں یہ ایک نیا یو شلم تھا جس کے مطالعہ کے دوران یہودی خدا کی موجودگی محسوس کر سکتے تھے اور خود کو خدا سے مربوط سمجھتے تھے۔ یہ کیفیت مشنہ کا مطالعہ کرنے والے پر کسی بھی جگہ طاری ہو سکتی تھی۔ ربیوں نے یہودیوں کو یقین دلا دیا کہ جہاں بھی یہودیوں کا ایک گروہ مل کر توریت کی تلاوت یا مطالعہ کرے گا وہاں ”شیکنہ“ (زمین پر خدا کی موجودگی) ناگزیر ہے۔ (7) بہت سے قوانین کا تعلق معبد میں ادا کی جانے والی مذہبی رسوم سے تھا۔ چنانچہ آج تک جب بھی یہودی مشنہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہ معدوم معبد کی تعمیر نو کے تصور میں کھو جاتے ہیں جو انہیں خدا سے رابطہ اور آخری فتح سے سرفراز کرے گا۔ جب تنایم نے اپنا کام مکمل کر لیا تو ان ربیوں کو امور ایم کا نام دے دیا گیا۔ نام کے ساتھ ساتھ ان کا کام بھی بدل گیا۔ اب وہ مشنہ کے مفسر تھے۔ قوانین شریعت پر بحث مباحثہ تالמוד کے ذریعے فیصل کیا جاتا۔ دراصل مشنہ کے بعد مزید تعبیری و توضیحی کام گیمارا کے تحت اکٹھا کیا گیا اور

مشنہ میں گیمارا کو شامل کر کے اسے تالמוד کا نام دے دیا گیا۔ توضیح و تفسیر کی کتابیں علامتی معبد کی دیواریں تھیں جو خدا کی موجودگی کا احاطہ کئے ہوئے تھیں۔ مطالعہ کے دوران راسخ العقیدہ یہودی پوری طرح خدا کی موجودگی کو محسوس کر لیتا تھا۔ ربیوں نے اجتہاد کیا اور لوگوں کو یقین دلایا کہ معبد میں خدا کی خوشنودی کے لیے پیش کی جانے والی قربانیوں کا متبادل رحم و مروت ہے۔ جانوروں کو قربان کرنے کی بجائے انسانوں کے ساتھ ہمدردی اور رحم کا رویہ خدا کی خوشنودی کا ذریعہ ہے۔

”ایک دفعہ ربی یوہا ن بن ذکائی یو شلم سے باہر نکل رہا تھا۔ ربی
یشواع اس کے پیچھے تھا۔ اس نے معبد کے ہنڈرات کو حسرت سے
دیکھتے ہوئے یوہا ن سے کہا۔۔۔ کیا الہمیہ ہے۔۔۔ اسرائیل کے
گناہوں کا کفارہ جس جگہ ادا کیا جاتا تھا وہ ہنڈر بن چکی ہے۔
میرے بیٹے۔۔۔“ ربی یوہا ن نے کہا۔۔۔ ”غم نہ کرو۔۔۔ ہم کفارہ
ادا کر سکتے ہیں۔۔۔ لوگوں سے رحم و مروت کا بر تاؤ کر کے۔۔۔ میں
تو قربانی کی جگہ رحم کو افضل سمجھتا ہوں۔“ (8)

جدبہ ترجم کا عملی اظہار اگرچہ ایک عرصہ سے صیہون کے مذہب کا ضروری حصہ رہا تھا۔ لیکن اب انسانی ہمدردی کا

ایک شہر تین مذاہب

عمل اسرائیلیوں کے گناہوں کا کفارہ بن گیا۔ یہ ایک انقلابی تصور تھا کیونکہ قدیم دنیا میں کسی قسم کی قربانی کے بغیر مذہب ادھورا سمجھا جاتا تھا۔ اب چونکہ معبد نہیں تھا چنانچہ ربی اپنے پیروکاروں کو سمجھاتے تھے کہ خدا کی موجودگی اپنے ارد گرد محسوس کرو۔ وہ توریت کی تعلیم دیتے ہوئے بتاتے کہ۔۔۔ جو اپنے پڑوی سے اپنی طرح محبت کرے گا وہ خدا کی رحمت و برکت کا حقدار ہوگا۔ پڑوی سے محبت کرنا، توریت کے بنیادی اصولوں میں سے ایک ہتا۔ (9) کسی انسان کو دکھ دینا خدا کے انکار کے مترادف تھا کیونکہ اس نے عورتوں اور مردوں کو اپنی شباہت پر تخلیق کیا ہے۔ چنانچہ انسان کا قتل یہودی تو انہیں میں محسن ایک جرم نہیں خدا کی بے حرمتی تھا۔ (10) خدا نے ابتدائے آفرینش میں صرف ایک انسان تخلیق کیا تھا۔ اس طرح بنی نوع انسان کو سکھایی اگیا تھا کہ جس کسی نے ایک انسان کو قتل کیا اس کو اسی طرح سزا ملے گی جیسا کہ اس نے پوری دنیا کو تباہ کیا ہے۔ (11) اسی طرح ایک فرد کو بچانا پوری دنیا کو بچانے کا مقدس عمل تھا۔ کسی فرد کی تفصیل کرنا، چاہے وہ غلام ہو یا کافر، خدا کے تصور کو مسخ کرنے کے مترادف تھا۔ (12) یہودیوں کو باور کرایا جاتا تھا کہ دوسرے لوگوں کے ساتھ ان کا طرز عمل اعلیٰ تر ہونا ضروری ہے۔ اب خدا کسی مقدس مقام پر ظاہر نہیں ہو گا یہودیوں کو اس کی موجودگی اپنے ارد گرد انسانوں میں تلاش کرنا ہو گی۔ فریضی ہمیشہ سے ہی انسانی ہمدردی کی اہمیت پر زور دیا کرتے تھے۔ معبد کے خاتمہ نے انہیں تقدیس کے انسانی تصور کو فروع دینے کے قابل کر دیا تھا۔ چنانچہ اب انسانی عظمت، احترام اور تقدیس مذہب کی بنیاد بن رہے تھے۔

ربیوں نے ابھی ہمت نہیں ہاری تھی، وہ مسلسل اس امید میں تھے کہ ان کا معبد پھر تعمیر ہو گا۔ جب پچھلی مرتبہ معبد تباہ ہوا تھا تو تمام تر مشکلات کے باوجود تعمیر نو ممکن ہو گئی تھی۔ لیکن اب وہ سمجھتے تھے کہ تعمیر نو کا کام خدا کے سپرد کر دینا ہی دانشمندی ہے۔ تا ہم اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ یہودی یروشلم کو بھول جائیں۔ ربیوں نے ایسے قوانین جمع کئے جو فلسطین سے یوہدیوں کی نقل مکانی کی حوصلہ شکنی کرتے اور مطابقی کرتے تھے کہ صحیح و شام کی قربانی کی جگہ روزانہ اٹھارہ مناجاتیں دن میں تین بار تلاوت کی جائیں۔ یہودی جہاں بھی ہوں، ان مناجاتوں کی تلاوت ضرور کریں۔ اگر وہ سفر کر رہے ہوں تو عبادت کے وقت سواری سے اتر جائیں۔ اپنارخ یروشلم کی طرف کر لیں یا کم از کم اپنے دلوں کا رخ تباہ شدہ خانہ اقدس کی طرف کر لیا کریں۔ (13) یہ مناجاتیں ظاہر کرتی ہیں کہ تباہی و بر بادی کے باوجود یروشلم اب تک خدا کا مسکن تھا۔

”اے مالک، اے خدا، تیرا عظیم رحم و کرم ہوا سرائیل پر جو تیری قوم ہے، یروشلم پر جو تیرا شہر ہے، صیہون پر جو تیری عظمت و جلال کا مستقل مقام ہے۔ اور معبد پر اور معبد کے ساکنوں پر اور داؤد کے گھرانے کی بادشاہت پر جو تیری برکت سے معمور ہے۔ اے خدا، اے مالک تو یروشلم کے معماروں پر اپنی رحمتیں نازل کر۔۔۔“ (14)

کچھ ربیوں کا خیال تھا کہ شیکنہ ابھی تک خانہ اقدس کی مغربی دیوار کے ساتھ آویزاں ہے۔ اور اسی کی بدولت یہ دیوار تباہی سے پچ گئی ہے۔ (15) بقیہ ربیوں کا خیال تھا کہ شیکنہ متذبذب انداز میں بذریعہ سرکتی ہوئی یروشلم سے باہر جا چکی ہے۔

یہ تین سال تک مسلسل کوہ زیتون پر رہی اور دن میں تین بار چلاتی تھی۔ (16) یہودیوں کو یاد تھا کہ حزقی ایل نے ایک رویا میں یہواہ کے جلال کو بیو شلم میں کوہ زیتون کے اوپر واپس آتے ہوئے دیکھا تھا۔ چنانچہ یہودی اب بھی کوہ زیتون پر جمع ہو جاتے اور خدا کی واپسی کی راہ دیکھتے۔ یہ انتظار ان کے ایمان کا حصہ تھا۔ جسے وہ کبھی خود سے الگ نہ کر سکے۔

باقیہ یہودی تیزی سے اپنی روحانی تسکیں کے لئے تصوف کی طرف چلے گئے یہ روحانیت کی ایک ایسی شکل تھی جس پر ربی اعتناء نہیں کرتے تھے۔ لیکن صوفیا کو خدا کے آسمانی تخت کی طرف اپنی روحانی پروازوں، رویا اور ربانوی یہودیت میں کوئی عدم مطابقت نظر نہیں آتی تھی۔ وہ اپنی رویا کو درستگاہوں کے ممتاز رہیوں سے منسوب کرتے تھے۔ معبد کے خاتمه کے بعد یہواہ کے تخت کا تصور ایک نئی اور مکمل طور پر نئی صورت کا تقاضا کرتا تھا۔ اب کشف الہام اور رویا میں خدا کے ارضی مسکن یعنی معبد اور ارضی تخت یعنی تابوت یہواہ کی بجائے آسمانی تخت کی ضرورت تھی۔ آسمانی تخت کی زمینی نقل تو معدوم ہو چکی تھی لیکن حقیقی تخت آسمانوں پر موجود تھا۔ یہ ناقابل شکست تھا اور یہودی اپنی روحانی پروازوں میں اس تک پہنچ سکتے تھے۔ چنانچہ باروک-2 کا مصنف جو معبد کی تباہی کے تیس سال بعد حالات رقم کر رہا تھا، اصرار کرتا ہے کہ آسمانی بیو شلم ازلي و ابدی ہے۔ یہ وقت کی ابتداء سے بھی پہلے خدا کے ساتھ تھا۔ ”جب میں نے جنت تخلیق کرنے کا فیصلہ کیا تو میں اسے پہلے سے تیار کر چکا تھا۔“ یہ ہمیشہ سے خدا کی ہتھیلوں پر نقش تھا اور ایک دن یہ آسمانی حقیقت زمین پر پھرا ترے گی۔ (17) یہ ایک بار پھر اپنی طبعی حالت میں نمودار ہو گا اور پرانے مقدس مقام پر رہی ظاہر ہو گا۔ پھر خدا اپنی قوم کے ساتھ انسانوں کی دنیا میں رہا ش رکھ لے گا۔ تقریباً انہی دنوں جب باروک کا مصنف مصروف تحریر تھا۔ خنوک-4 کے مصنف نے بھی آسمانی بیو شلم کی تجسم کی روایاد دیکھی۔ ”ارضی صیہون تباہی سے دوچار ہو چکا ہے لیکن آسمانی صیہون ابھی تک زندہ وتابندہ ہے اور خدا کے ساتھ ہے۔ ایک دن یہ شہر جو آج کل نظر نہیں آتا، پھر سے نمودار ہو گا۔ (18) ”یہ نیا بیو شلم جنت ارضی ہو گا“ جو لوگ اس میں رہ رہے ہوں گے وہ خدا سے مکمل یگانگت کا لطف اٹھائیں گے۔ گناہ ختم ہو جائیں گے اور موت حتمی فتح کے نتیجہ میں ہمیشہ کیلئے مر جائے گی۔ (19) جداً کی اذیت، نقصان، رنج و الٰم اور بر بادی جو 70ء میں یہودی دنیا کا مقدر بن گئے تھے، وہ تحفیل کر دیئے جائیں گے اور جنت کی ابدی خوشیاں اور راحتیں غالب آ جائیں گی۔

عیسائی بھی تخت کی روایاد دیکھ رہے تھے۔ شہنشاہ دومیشیان کے دور میں جب عیسائیوں (مسیحی یہودیوں) کو رومی حکام اذیتیں دے رہے تھے ایک خانہ بدوش واعظ ”یوحنًا“ نے آسمانی معبد کی روایاد دیکھی۔ اس معبد میں عیسائی شہدا نئے کاٹھن تھے۔ انہوں نے سفید براق لبادے پہن رکھے تھے اور تخت کے ارد گرد مقدس خدمات سرانجام دے رہے تھے۔ اس نے سکوٹھ کے تھوار کی آسمانی رسوم کا مشاہدہ کیا لیکن ان رسوم اور پرانی رسوم میں واضح فرق تھا۔ دوسرے معبد میں خانہ اقدس ہمیشہ خالی رہا تھا۔ تخت یہواہ گم ہو چکا تھا چنانچہ جب بابلیوں کی تخت و تاراج کے بعد بیو شلم کا معبد دوبارہ تعمیر ہوا تو خانہ اقدس خالی رہتا تھا۔ یوحنًا نے انہی رویا میں دیکھا کہ خانہ اقدس میں تخت پر خدا کے ساتھ حضرت عیسیٰ بیٹھے ہیں۔

ایک شہر تین مذاہب

عیسائیوں کی نظر میں یہ پرانے صیہونی مذہب کی تکمیل تھی۔ لیکن یہ عیسائی ابھی تک اپنے ہم عصر یہودیوں کے ان عقائد اور امیدوں میں شریک تھے کہ حتیٰ فتح کا دن آنے والا ہے اور اس دن آسمانی یروشلم زمین پر اتر آئے گا۔ اپنی آخری رویا میں یوحنانے دیکھا کہ مقدس شہر آسمان سے زمین پر اتر رہا ہے اس سے خدا کے جلال کی کرنیں پھوٹ رہی ہیں۔ (20) اس نے یروشلم میں کوئی معبد نہیں تھا کیونکہ حضرت عیسیٰ نے معبد کی جگہ لے لی تھی۔ خدائی بندہ اب خدا کے جلال کا مظہر تھا۔ لیکن یروشلم اب بھی آتنی طاقتور علامت تھا کہ یوحنانا عارف جیسے مسیحی بھی خدا کے آخری ظہور میں یروشلم کے بغیر مکمل نجات کا تصور نہیں کر سکتے تھے۔ آسمانی شہر نے زمین پر اس لئے اترنا تھا کہ اس کے بغیر خدا کی بادشاہت مکمل ہی نہیں ہو سکتی تھی۔ آخر کار ارضی جنت کو بحال ہونا تھا اور زندگی کے دریا کو خدا کے تخت کے عقب سے چھوٹ کر اس طرح دنیا کو سیراب کرنا تھا کہ تمام دنیا کے رنج والم دور ہو جائیں۔ (21)

یہودی اور عیسائی اپنے خدا کو ایک جیسے انداز میں دیکھ رہے تھے وہ بالترتیب یروشلم اور حضرت عیسیٰ کو قدس کی علامتیں قرار دیتے تھے۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں اسی طرح سوچنا شروع کر دیا تھا جس طرح آسمانی نجات کے منتظر یہودی صوفی حتمی نجات کے لئے یروشلم کے بارے میں سوچتے تھے۔ مثلاً وہ یروشلم کو ایک مجسم آسمانی حقیقت سمجھتے تھے جو ابتداء سے خدا کے ساتھ ہے اور جب وہ زمین پر اترے گا تو گناہ، موت، انتشار اور ما بوی سے نجات مل جائے گی۔ لیکن اس مشابہت کے باوجود یہودیوں اور عیسائیوں نے ایک دوسرے کو حریفانہ انداز میں دیکھنا شروع کر دیا۔ جہاں تک ہماری معلومات کا تعلق ہے۔ ہندو یروشلم میں کوہ زیرون پر کوئی کافر عیسائی نہیں رہتا تھا۔ وہاں رہنے والے یہودی اور عیسائی اس یروشلم میں دلچسپی رکھتے تھے جو یوحنانا عارف نے اپنی رویا میں دیکھا تھا۔ نہیں اس ہندو یروشلم میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ متی، لوقا اور یوحنانا کی انجیلیں 80 اور 90 کے عشرے میں لکھی گئیں۔ ان کے مطالعہ سے اچھی طرح واضح ہو جاتا ہے کہ سینٹ پال کا نکتیہ نظر کھنے والے عیسائی یروشلم اور یوہدی لوگوں کو احترام کی نظر سے دیکھنے لگے تھے۔

دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ لوقا، یہودیوں کے نزدیک کافر تھا۔ لیکن سابقہ عقیدے کے لئے سب سے زیادہ ثابت رویہ یہی رکھتا تھا۔ اس کی انجیل کا آغاز اور اختتام یروشلم میں ہوتا ہے۔ اس کی ابتداء کریا، یوحنانا پتسمہ دینے والے کے باپ کی رویا سے ہوتی ہے جو اسے ہیکل میں دکھائی دی۔ اور انجام یروشلم کو واپس آنے والے حواریوں کے ذکر کے ساتھ ہوتا ہے جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو دوبارہ زندہ ہو جانے کے بعد کوہ زیتون سے آسمان کو صعود کرتے ہوئے دیکھا تھا۔

اور وہ اس کو بجدہ کر کے بڑی خوشی سے

یروشلم کو لوٹ آئے۔۔۔۔۔ اور ہر وقت

ہیکل میں حاضر ہو کر خدا کی حمد کیا کرتے تھے۔ (22)

لوقا کے لئے تسلسل بہت اہم ہے کیونکہ زمانہ قدیم میں لوگ تسلسل چاہتے تھے نبی بتیں اور آخرت اعات ان کے نزدیک مشکوک ہوتی تھیں۔ مذہبی لوگوں کے لئے تو خاص طور پر یہ جانا ضروری ہوتا تھا کہ کیا ان کا عقیدہ ماضی کے مقدس واقعات سے مربوط ہے؟ چنانچہ لوقا نے سینٹ پال کی طرح یرو شلم اور یہودیت سے پوری طرح تعلق توڑنا مناسب نہیں سمجھا۔ حضرت عیسیٰ اپنے شاگردوں کو حکم

دیتے ہیں کہ اپنی تعلیمات کی تبلیغ کا آغاز مقدس شہر سے کریں۔ جو ابھی تک دنیا کا مرکز ہے اور جہاں ہر نبی نے اپنے اجتام کو پہنچنا ہے۔ ”رسولوں کے اعمال“ میں لوقا اپنے ہیر و سینٹ پال کو یرو شلم کلیسیا کا انتہائی معزز و محترم رکن اور جیمززادک کا عقیدت مند دکھاتا ہے۔ اس ابتدائی تعاون کو لوقا بڑھا چڑھا کر بیان کرتا ہے اور اس تلخی کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے جس نے پال اور جیمز کے تعلقات کو ایک خاص سمت عطا کی۔ لوقا، پال کو اسی طرح دکھاتا ہے جیسے حضرت عیسیٰ اس سے پہلے یرو شلم کا سفر اختیار کرتے ہیں اور خطرات کے باوجود یرو شلم میں آ جاتے ہیں لیکن لوقا کو صاف صاف نظر آ رہا تھا کہ عیسائی یرو شلم میں قیام نہیں کر سکتے۔ انہیں انجیل کو لے کر تمام یہودیہ اور سامریہ اور پھر وہاں سے دنیا کے آخری کونے تک لے جانا ہوگا۔ (23) لوقا عیسائیت کو اپنا پسندیدہ نام ”راستہ“ دیتا ہے۔ بنی نوع انسان کی نجات کا راستہ۔۔۔۔۔ ”یسوع کے پیروکار مسلسل سفر میں رہنے والے ہیں۔ اس دنیا میں ان کا کوئی مخصوص شہر نہیں ہے۔“

متی اور یوحنا، یرو شلم اور یہودی لوگوں کے لئے بہت کم ثابت روایہ رکھتے ہیں۔ یہ دونوں یہودیت سے منحرف ہو کر سینٹ پال کے مسلک ہیں شامل ہوئے تھے۔ ان کی تحریریں ایسے اختلافات میں سے کچھ کا اظہار کرتی ہیں جو آج بھی یہودیوں اور عیسائیوں کے درمیان حضرت عیسیٰ اور یرو شلم کے بارے میں موجود ہیں۔ متی ارضی صیہون کے بارے میں کسی شک و شبہ میں بتلانہیں۔ اس کے نزدیک یہ پہلے بھی مقدس مقام مقام تھا۔ وہ اکلوتا انجیل نویس ہے جو یرو شلم کو مقدس شہر نے حضرت عیسیٰ کو ٹھکرایا اور سلیب پر چڑھا دیا۔ حضرت عیسیٰ اس امر کی پیش بینی کرے ہوئے شہر کی تباہی کی پیشین گوئی کرتے ہیں۔ چنانچہ متی کے ہاں یرو شلم ایک مجرم شہر ہے۔ جب متی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تباہی کی پیش گوئی کا ذکر کرتا ہے جو 70ء میں پوری ہوئی تو وہ اس کا تعلق اس قیامت سے جوڑتا ہے جو دنیا کے خاتمه کے وقت برپا ہوگی۔ وہ یرو شلم کی تباہی کو ایک ایسے

معاوی واقعہ کی نظر سے دیکھتا ہے جو حضرت عیسیٰ کی پرجلال واپسی کا نقیب ہے۔ (24) جب حضرت عیسیٰ شہر سے باہر گلکتا کی پہاڑی پر وفات پاتے ہیں تو ہیکل کو خانہ اقدس سیا لگ کرنے والا پردہ دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ یعنی معبد کا پرانا مذہب منسوخ کر دیا گیا۔ یوحنہ اس بات پر زیادہ سختی سے زور دیتا ہے۔ اس وقت کئی اور لوگوں کی طرح، اس نے اصرار کیا کہ اب خدا کسی معبد میں نہیں ملے گا بلکہ کسی خدائی اوصاف رکھنے والے بندے میں ملے گا۔ اپنی انجیل کے آغاز میں وہ دعویٰ

کرتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کلام الہی ہیں۔ خدا نے کلام کے ذریعے یہ دنیا تخلیق کی یہ آسمانی حقیقت اب زمین پر اتر آئی ہے۔ اس نے گوشت پوست کا روپ دھار کر بنی نوع انسان پر خدا کا جلال ظاہر کیا ہے۔ (25) یوحنہ کی تحریر یہ یونانی زبان میں ہے۔ یونانی زبان میں عبرانی اصطلاح ”شہینہ“ کا مترادف نہیں ہے جو یہودی لوگ خدا کی ماورائی حقیقت کو واضح کرنے کیلئے استعمال میں لاتے تھے۔ حضرت عیسیٰ کو مجسم کلام کی صورت میں اور خدا کے جلال کی صورت میں دیکھنے کے ساتھ ساتھ یوحنہ انہیں انسانی صورت میں شیکنہ کی حیثیت سے بھی دیکھتا ہے۔ (26)

متی کی طرح یوحنہ بھی یہودیوں کا سخت دشمن تھا۔ چنانچہ اپنی انجیل میں وہ بار بار انہیں حضرت عیسیٰ کو ٹھکراتے ہوئے دکھاتا ہے۔ یوں دونوں انجیل نویس یہودیوں کے خلاف ایسی دشمنی اور مناصمت کی بنیادیں استوار کرتے ہیں جنہوں نے عیسائیت کی تاریخ میں بعض انتہائی شرمناک واقعات کو جنم دیا۔ ہم دیکھیں گے کہ بتدریج عیسایوں کے لئے یہ مشکل ہو گیا کہ وہ اپنے مذہبی پیشوں سے چشم پوشی کرتے رہیں اور پھر وہ بہت جلد اس نتیجہ پر پہنچ گئے کہ ان کے اپنے عقائد کی بقا یہودیت کی شکست پر ہے۔ چنانچہ یوحنہ واضح طور پر نشاندہی کرتا ہے کہ حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) نے اپنے مشن کا آغاز معبد کے مذہب کو مسترد کر کے کیا۔ وہ انجیل میں دکھاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ یروشلم کے معبد میں جاتے ہیں اور صرافوں (منی چینیز) اور قربانی کے پرندے بیچنے والوں کو حرج سے باہر نکال دیتے ہیں۔ اور یہ سب کچھ وہ اپنے مشن کے آغاز میں کرتے ہیں، اختتام پر نہیں۔ وہ یہودیوں کو کہتے ہیں۔ ”اس مقدس کو مسماڑ کردو۔ میں اسے تین دن میں دوبارہ کھڑا کر دوں گا۔“ یہ بات علمتی انداز میں کہ گئی تھی۔ یوحنہ بتاتا ہے کہ یہ بات یسوع نے اپنے بند کے مقدس (معبد) کے بارے میں کہی تھی۔ (27) ”پس جب وہ مردوں میں سے جی اٹھا تو اس کے شاگردوں کی یاد آیا کہ اس نے یہ سب کہا تھا،“ چنانچہ اس کے بعد معبد کی جگہ پھر سے زندہ ہو جانے والا کلام (یسوع) ہی ایسی چیز تھا جس میں لوگوں کو خدا کی موجودگی ملی۔ ابتداء ہی میں حضرت عیسیٰ اور یہودیت کے انتہائی مقدس اداروں کے درمیان کشمکش چھڑگی تھی۔ حضرت عیسیٰ نے وضاحت کر دی تھی کہ یروشلم، کوہ گرزیم اور بیت ایل جیسے مقدس مقامات متروک و منسوخ کر دیئے گئے ہیں۔ (28) شیکنہ معبد اور اس کے مضائقات سے اٹھائی گئی ہے۔ لیکن اس الہام کو مسترد کرنے والوں نے خود کوتاری کی کی قوتیں کے ساتھ وابستہ کر لیا۔ (29)

یروشلم میں جنم لینے والے بعد کے واقعات میں عیسایوں کو یقیناً خدا کا ہاتھ نظر آیا ہوگا۔ 118ء میں رومن جرنیل پبلیوس اپلینیس ہیڈریانس، شہنشاہ بن گیا۔ تحنت نشین ہونے والے تمام رومن حکمرانوں میں یہ سب سے زیادہ قابل آدمی تھا۔ اس نے رومن سلطنت کو مزید وسیع کرنے کی بجائے اسے مستحکم کرنے پر توجہ دی۔ ہیڈریان ایک مضبوط اور متحده سلطنت کا خواہاں تھا۔ وہ ایک ایسی رومن سلطنت تعمیر کرنا چاہتا تھا جس میں تمام شہری بلا تفریق رنگ و نسل اخوت کا مظاہرہ کریں۔ اپنے نصب العین کو مشتہر کرنے اور اس پر عمل درآمد کرنے کا ایک ذریعہ اس نے یہ سوچا کہ تمام تر سلطنت میں شاہی خاندان کے رابطے بڑھائے جائیں۔ ہیڈریان کا اپنا زیادہ تر وقت شاہراہوں پر گزر رہا۔ وہ سلطنت کے مختلف حصوں کا دورہ کرتا رہا۔

ایک شہر تین مذاہب

اس کے دوروں میں مصالحین کی ایک بڑی تعداد اس کے ساتھ رہتی۔ اس نے رعایا کو تاثر دیا کہ اس کا کوئی مخصوص دارالحکومت نہیں۔ سلطنت کے تمام حصے اس کے لئے یکساں اہمیت کے حامل ہیں اور وہ ایک متحریک دارالحکومت کے ساتھ عوام میں موجود رہنا چاہتا ہے۔ وہ جس شہر میں جاتالوگوں کی درخواستیں وصول کرتا، ان کے مسائل موقع پر حل کرتا اور مقامی لوگوں میں تھائف تقسیم کرتا۔ اس کی خواہش تھی کہ لوگوں میں ایک مہربان، دریادل اور عالم دوست حکمران کا تاثر قائم کرے اور اس طرح ایک مضبوط حکومت قائم رہے۔ اس نے کوشش کی کہ جس جگہ کا دورہ کرے وہاں اس کی آمد کی شاندار یادگار بنائی جائے تا کہ وہ اپنی عدم موجودگی میں لوگوں کے دل و دماغ میں موجود رہے۔ چنانچہ اس نے ایچمنز، انطا کیہ، کورنچہ اور قیصریہ میں زیوس دیوتا کے معبد بنوائے۔ یہ ایک طرح سے روم کے ساتھ مقامی لوگوں کا ٹھوس رابطہ اور عوام کے لئے شہنشاہ کی جود و سخنا کا ایک ذریعہ تھے۔ ہیڈریان 130ء میں یروشلم میں آیا تو اس نے فیصلہ کیا کہ یہودیہ کے عوام کو شہنشاہ کی طرف سے تھفہ میں ایک نیا شہر دیا جائے۔ فیاض اور اولوالعزم شہنشاہ نے یروشلم کے ہندڑرات اور فوج کے ویران کمپ کی جگہ ایک جدید عروض البلاد شہر تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ اس کا نام ایلیا کا پیٹولینا تجویز کیا گیا۔ تا کہ یہ شہر اس کے نام کے ساتھ ساتھ رومی دیوتا جیو پیٹر کے مندر، کا پیٹول کی نسبت بھی رکھے۔ غالباً ہیڈریان اس شہر کو کا پیٹول کے دیوتاؤں کی سرپرستی میں دینا چاہتا تھا۔

ہیڈریان کا منصوبہ دیکھ کر یہودی خوف سے لرز گئے۔ ہیڈریان نے اعلان کیا تھا کہ روم میں کوہ وٹار پیان پر جو پیٹر کے مندر کے طرح کوہ صیہون پر بھی اس کا ایک مندر تعمیر کیا جائے گا۔ ظاہر ہے یہ چکہ یہواہ کے معبد کے لئے مخصوص تھی۔ صیہون کے علاوہ شہر میں کئی اور مقامات پر دیوتاؤں کے مندر و معبد تعمیر کرنے کا منصوبہ بھی سامنے آیا۔ صد یوں سے صیہون اور یروشلم کے نام پوری دنیا میں یہودیوں کی شناخت بن چکے تھے۔ یہ دونوں نام ان کے خدا سے وابستہ تھے۔ اب ان کو ایک کافر شہنشاہ اور اس کے دیوتاؤں کی نسبت دی جانے والی تھی۔ یہودیوں کا زیروشلم اگرچہ ساٹھ سازل سے ہندڑروں میں تبدیل ہو چکا تھا لیکن اس کی نسبت بہر طور یہواہ سے تھی۔ اب انکھنڈڑروں کو ابھی ایک شہنشاہ کے حکم پر صفحہ ہستی سے مٹایا جا رہا تھا۔ اس کا ایک ہو مطلب تھا کہ مقدس شہر اور یہواہ کا معبد اب کبھی تعمیر نہیں ہو سکیں گے۔ وہ سب کچھ جو یہودیوں کو اپنی پہچان دیتا تھا پھر کبھی نظر نہیں آتے گا۔ ماضی میں یروزلم کے لوگوں نے کئی بار جنگ اور تباہی دیکھی تھی۔ کم از کم دو دفعہ جملہ آور فوجوں نے شہر کو زیمن بوس کر دیا۔ متعدد بار ان کا معبد ناپاک اور دیواروں مسماਰ ہوئیں لیکن پھر سب کچھ بحال ہوتا رہا۔ اب یہ پہلا موقعہ تھا کہ شہر کی تعمیر کا اقدم سر اسر معاندانہ اور ان کی خواہشات کا قاتل ثابت ہو رہا تھا۔ شہر کی تعمیر کا کام یروشلم میں ہمیشہ ایک مذہبی فریضہ سمجھ کر سرانجام دیا گیا۔ یہ کام انتشار، ہلاکت اور بر بادی کو دور کرنے کے لئے کیا جاتا تھا۔ لیکن اب تعمیر شہر فاتح شہنشاہ کے ہاتھوں میں ایک ہتھیار تھا۔ ایلیا کا پیٹولینا یہودی یروشلم کی تفصیک بن جائے گا پرانے یروشلم کے خدو خال یہودیوں کی روحانی شناخت اور تسلیم کے درودیوار میں تخلیل ہو جائیں گے۔

ایک شہر تین مذاہب

شہر کی تعمیر نو یہودیوں کے نزدیک تخلیق کی نگی تھی۔ ابتدائے آفرینش کا انتشار و افتراق ایک بار پھر غالب آجائے گا۔ لیکن بہر صورت تاریخ میں یہ کوئی پہلا موقع نہیں تھا کہ یہ شلم کے شکست خورده لوگوں نے اپنے عزیز ترین مقامات و نشانات کو ایک دشمن قوت کے نشانات، عمارتوں اور گلیوں کے نیچے غائب ہوتے ہوئے دیکھا اور محسوس کیا کہ شہر کی اپنی ذات ہمیشہ کے لئے معدوم ہو گئی ہے۔

(نقشہ) MAP

برکوب کی طرف سے لکھا گیا آرامی زبان میں خط کا عکس۔ اس میں یہودیوں کو کھوروں کی شاخوں، مہندی کے سفید پھولوں، ترش پھلوں اور بید کی شاخوں کے لئے درخواست کی گئی ہے تاکہ سکو تھہ کا تھوا رمنا یا جائے۔ برکوب غالباً معبد کے گھنڈرات پر پرانی مذہبی رسوم کا احیا چاہتا تھا۔

لیکن ہیڈریان کا کوئی تصور نہیں تھا۔ وہ یہ شلم کے عوام کے عمل سے باخبر ہی نہیں تھا۔ ورنہ وہ ان نوحہ کناء کھنڈرروں کی جگہ ایک خوشنما جدید شہر تعمیر کرنے کا خیال بھی دل میں نہ لاتا۔ ہیڈریان کا خیال تھا کہ شہر کی تعمیر نو کا کام لوگوں کو روز گار فراہم کرے گا اور علاقے میں نئی خوشحالی آئے گی۔ اگر گھنڈرات جوں کے توں موجود رہتے ہیں تو یہ لوگوں کو پرانی دشمنی یاد دلاتے رہیں گے۔ سلطنت میں اخوت و یگانگت کی فضاقاً قائم کرنے کے لئے انکا خاتمہ اور نئے شہر کا وجود اسے ضروری محسوس ہوا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ یہودی اور رومی مل کر کام کریں گے۔ اپنے مااضی کی تلمیزوں کو پیچھے چھوڑ کر علاقے میں امن و خوشحالی کے نئے سفر پر گامزن ہو جائیں گے۔ ہیڈریان کو یہودیت سے کوئی چیز نہ تھی۔ وہ اسے ایک فرسودہ مذب سمجھتا تھا۔ یہودیوں کی سرکش فرقہ پسندی شہنشاہ کے خواب (شقافتی طور پر متحده سلطنت) کی تعبیر کے راستے میں ایک رکاوٹ تھی۔ چنانچہ یہ طے کر لیا گیا کہ اگر ضروری ہوا تو انہیں بالجرب جدید دنیا میں شامل کیا جائے گا۔ ہیڈریان پہلا فرمان روا نہیں تھا جس نے ترقی اور جدیدیت کے نام پر ایسی روایات کو ملیا میٹ کیا جو کسی قوم کی شاخت کا ذریعہ تھیں۔ 131ء میں اس نے ایسے احکام جاری کئے جن کے تحت یہودیوں کو اپنی مخصوص رسوم تزک کرنے اور رومی و یونانی دنیا کے دیگر لوگوں کے رسم و رواج کے مطابق اپنی زندگیاں ڈھانے کا پابند بنایا گیا۔ ہیڈریان کے خیال میں ختنہ ایک وحشیانہ عمل تھا چنانچہ ختنہ، ربیوں کی ماموری، توریت کی تعلیمات اور یہودیوں کے اجتماعات کو غیر قانونی قرار دے دیا گیا۔ یہودیوں کی بقا پر یہ

ایک شدید ضرب تھی۔ جب یہ فرائیں جاری ہو گئے تو انہائی معتدل مزاج ربی بھی محسوس کرنے لگے کہ روم کے ساتھ ایک اور جنگ ناگزیر ہو گئی ہے۔

اس دفعہ یہودی بے خبری میں مارے جانے پر تیار نہیں تھے۔ انہوں نے اپنی نئی تحریک نہایت خاموشی اور تمام تر باریکیوں کو مد نظر رکھ کر منظم کی۔ جب تک مکمل تیاری نہ ہو گئی۔ کہیں بھی کسی تصادم کا موقع نہ پیدا ہونے دیا گیا۔ بغاوت کی قیادت ایک تندرخنجو شمعون بر کو سپا کر رہا تھا۔ اس نے اپنے سپا ہیوں کو گوریلا جنگ کی تربیت دی اور جب معز کر آ رائی شروع ہوئی تو کسی ایک مقام پر با قاعده جنگ کی صورت نہ پیدا ہونے دی گئی۔ ایک موقع پر رومیوں کے دسویں لجن کو یہ شلم چھوڑ کر یہودیوں کے مقابلے میں دیہات کا رخ کرنا پڑا۔ کوسپا کے سپا ہیوں نے شہر پر قبضہ کر لیا۔ اپنے چچا الیعا ضر کا ہن کی مدد سے بر کو سپا نے تمام بقیہ کافروں کو شہر چھوڑ نے پر مجبور کر دیا اور معبد کے پہاڑ پر مکہنہ حد تک قربانیوں کی رسم بحال کر دی۔ اس دور کا ایک عظیم ربی اور دانشور اکیوا، بر کو سپا کی بہت تعریم کرتا ہے اور اسے مسیح اقرار دے کر بر کو کب یعنی ”ستارے کا بیٹا“، جیسے خطاب سے یاد کرتا ہے۔ ہمیں کچھ اندازہ نہیں کہ بر کو سپا خود کو اس انداز سے دیکھتا اور پیش کرتا تھا یا نہیں۔ غالباً وہ اپنی مہم میں زیادہ مصروف عمل رہا۔ لیکن اس زمانہ میں یہ شلم میں جو سکے ڈھالے گئے ان پر ”شمعون شہزادہ“ اور ”الیعا ضر کا ہن“ کے لفظ درج تھے۔ اس کا مطلب تو یہی لیا جا سکتا ہے کہ وہ دونوں اپنے آپ کو فرمان رو ایسا مسیح اور کا ہن مسیح کی نظر سے دیکھتے تھے۔ زربابل کے زمانہ سے مشترک مسیحاوں کا انتظار کیا جاتا رہا تھا جو یہ شلم کے نجات دہنہ ثابت ہوں گے۔ کچھ اور سکوں پر ”یہ شلم کی آزادی کے لئے“، جیسی عبارت موجود تھی۔ لیکن یہ سبھی اقدام مایوس کن ثابت ہوئے۔ اگرچہ بر کو سپا اور اس کے سپا ہی تین سال تک اپنی بغاوت جاری رکھنے میں کامیاب رہے۔ لیکن بالآخر ہیڈریان نے اپنا ایک قبل ترین جریل، سیکلیس جلوسین یہودیہ کو روانہ کیا۔ یہودی فوج محمد و دخیل اور اتنی استعداد نہیں رکھتی تھی کہ شہر پناہ اور فیصلوں سے محروم یہ شلم کو روم کی بے پناہ قوت کے مقابلے میں زیادہ عرصہ تک دفاع مہیا کر سکے۔ رومن فوجوں نے نہایت منظم انداز میں گلیلی اور یہودیہ میں یہودیوں کے مرکز کو ایک ایک کر کے تسلیم کر لیا۔ ڈائیو کسیس بتاتا ہے کہ رومنوں نے 55 قلعے فتح کئے اور 985 دیہات کو روندھا۔ اس خون ریزی میں 5 لاکھ اسی ہزار یہودی موت کے گھاٹ اتر گئے۔ جو لوگ بھوک پیاس، وبای بیماریوں اور آتش زنی کے نتیجے میں ہلاک ہوئے، انکا شمار کسی کے پاس نہیں۔ یوں پوری ریاست یہودیہ بتاہ بر باد کر کے رکھ دی گئی۔ (30) انجام کا ر 135ء میں بر کو سپا یہ شلم سے نکلنے پر مجبور ہو گیا۔ اور اپنے آخری قلعہ بیت ار میں مارا گیا۔ لیکن یہودی بھی رومنوں کو بھاری جانی نقصان پہنچانے میں کامیاب رہے۔ جب ہیڈریان نے سینٹ میں اپنی فتح کی رپورٹ دی تو وہ اپنا رواتی جملہ نہ کہ سکا کہ۔۔۔ ”میں بھی ٹھیک ہوں اور میری فوج بھی سلامت ہے۔۔۔“ (31) یہودی اب بے چاری اور شکست خورده قوم نہیں سمجھی جاتی تھی۔ اس دوسری جنگ میں اس نے روم سے ایک سخت جانشمند ہونے کا خطاب جیت لیا۔

MAP (نقشہ)

ایلیا کا پی تو لینا
(326-135ء)

تابہ کن شکست کے باوجود یہودی کچھ مطمئن تھے۔ جنگ کے بعد یہودیوں کا داخلہ یروشلم اور ریاست یہودیہ میں منوع قرار دے دیا گیا۔ کوہ زیرون پر مقیم مختصر سے گروہ کو بھی منتشر کر دیا گیا۔ شہر میں اور اس کے ارد گرد کوئی یہودی پاقی نہ رہا۔ یہودی گلیی میں جمع ہو گئے۔ طبریں اور سنوریں ان کے اکثریت رکھنے والے شہربن گئے۔ انہیں مقدس شہر کی تخلیل اور ایلیا کا پی ٹولینا کی تعمیر کی اذیت ناک خبریں سننا پڑیں۔ شہر کی تعمیر کا فریضہ رومی گورنر روفوس طمیس کے سپرد ہوا۔ سب سے پہلے کھنڈرات کو صاف کیا گیا۔ اور پھر قدیم رومی رسم ادا کی گئی (32) جوئی بستی بسانے کے موقعہ پر رومی ثقافت کا لازم تھی۔ یہودیوں کے نزدیک یہ سب کچھ میکاہ نبی کی پیشین گوئیوں کے مطابق ہو رہا تھا۔ ”صیہون پہ کسی کھیت کی طرح ہل چلا دیا جائے گا،“ (33) ہیڈریان کے احکامات کے مطابق یروشلم کے کھنڈروں کی جگہ ایک جدید یونانی شہر تعمیر کر دیا گیا جس میں رومی دیوتاؤں کے مندر، ایک تھیٹر، عوامی غسلخانے اور ایک تالاب موجود تھا۔ یہ تالاب دیوبنی نمفس سے منسوب تھا جو رومیوں کے عقائد کے مطابق بیماریوں سے شفایتی تھی۔ نئے شہر میں دوفورم (اجتماع عامہ کا مقام جہاں بازار بھی لگتا ہو) بھی بنائے گئے۔ یاک فورم شہر کے مشرق میں اس دروازے کے قریب بنایا گیا جسے اب استفنس کا دروازہ کہتے ہیں۔ جب کہ دوسرامغربی پہاڑی کے سب سے اوپر مقام پر جسے اب موریسٹن سکواڑ کہا جاتا ہے۔ فوج کے دسویں لجن کا کمپ پرانی جگہ یعنی ہیرودیس کے محل کے کھنڈرات میں برقرار رکھا گیا۔ شہر کا یہ حصہ بھی ایک بلند مقام تھا۔ ہیڈریان نے نئے شہر کی دیواریں نہ بناؤں گیں البتہ ان کی جگہ متعدد محرابیں ایجاد کر دی گئیں۔ ایک محراب شہر سے جنوب کی طرف 440 گز کے فاصلہ پر تھی اور یہ محراب برکوسپا کے خلاف فتح کی یادگار تھی۔ دوسری محراب ایلیا میں داخلے کے لئے مرکزی دروازے پر بنائی گئی۔ اس مقام پر اب بابِ مشق ہے۔ وہ محرابیں فورمیں میں تعمیر کی گئیں۔ مشرقی فورم کی محراب کو آج کل ایک ہومو آرک کہا جاتا ہے کیونکہ عیساؑ کا خیال ہے کہ یہ وہی جگہ ہے کہ جہاں ”پیلا طس حضرت عیسیؑ کو لوگوں کے سامنے لا یا اور سزا کا مطالبه کرنے والے بھوم سے پوچھا کشم اس پر کیا الزام عائد کرتے ہو۔“ (34) مرکزی داخلے کے دروازے کے آگے ایک چوک اور ستون تھا۔ ستون کے ساتھ شہنشاہ کا مجسمہ نصب تھا۔ ایلیا کی دو بڑی گلیاں چوک سے نکل کر یعنی شمالی حصہ سے

میں اترتی تھیں۔ انہیں کارڈ و کہا جاتا تھا۔ ایک کارڈ موجودو ملی سٹریٹ (طارق الاول) کے ساتھ ساتھ چلتی تھی جب کہ دوسری کارڈ و جسے کارڈ میکسی مس کہا جاتا تھا، مغربی پہاڑی کی چوٹی تک جاتی تھی۔ ہیڈریان نے چھوٹی گلیوں کا بھی ایک جال بچایا جو آج بھی کسی حد تک شہر کی کچھ گلیوں کی شکل میں موجود ہے۔

یہودیوں کے لئے اذیت ناک بات یہ تھی کہ یہواہ کے مقدس شہر میں اجنبی مذہب کی علامتیں اور نشانات ایک متکبر انداز میں ابھر آئے تھے۔ درحقیقت ایلیا کاپی تو لینا تیز و می معبدوں، جیو پیٹر، جیونو اور منرو اسے عقیدت رکھنے والوں کا شہر بنایا گیا تھا۔ یہودیوں سے جنگ کے بعد ہیڈریان نے جان بوجھ کر کوہ صیہون پر جیو پیٹر کے مندر کی تعمیر کا اعلان کیا تھا لیکن کبھی کسی سیاح نے ہیرودیس کے چبوترے پر کوئی مندر دیکھنے کا دعویٰ نہیں کیا۔ البتہ وہاں دو مجسموں کی موجودگی کا تذکرہ موجود ہے ہیں۔ ایک مجسمہ ہیڈریان اور دوسرا اس کے جانشین اینٹو پائس کا تھا۔ غالباً جیو پیٹر کا مندر مغربی پہاڑی پر کرشل فورم کے ساتھ بنایا گیا تھا۔ البتہ گلکتا پہاڑی پر مغربی یا بالائی فورم کے ساتھ ایفرو دیتی دیوی کا مندر یقینی طور پر موجود تھا۔ گلکتا عیسائیوں کے لئے ایک متبرک مقام تھا۔ چنانچہ بعد میں عیسائی مورخین الزام عائد کرتے رہے ہیں کہ ہیڈریان نے جان بوجھ کر اس مقدس مقام کی بے حرمتی کی تھی۔ لیکن یہ امکان بعید از قیاس ہے کہ ہیڈریان کو اس مقام کی حرمت کا علم ہو۔ سینٹ جیرو (342-420ء) خیال ہے کہ یہ مندر جیو پیٹر سے منسوب تھا۔ اور گلکتا پہاڑی کی چوٹی اس چبوترے کے اوپر باہر کی طرف پھیلی ہوئی تھی جس پر الفیر و دتی کا مجسمہ نصب تھا۔ لیکن سینٹ جیرو یہ نہیں بتاتا کہ جیو پیٹر کے مندر میں کسی اہم دیوی کا مجسمہ کیوں موجود تھا؟ جونکہ شہر کے اس حصہ میں زمین ناہموار تھی چنانچہ نشیبوں میں معافون دیواریں کھڑی کر کے عمارتیں بنائی جا سکتی تھیں۔ یہ طریقہ کارہیرودیس نے معبد کے پہاڑ پر ذرا محدود پیمانے پر اپنایا تھا۔ ایلیا ب ایک مکمل کافر اور غیر خدا برست شہر تھا اور اسے رومن نوا بادیاتی شہروں سے مختلف نہیں کہا جا سکتا تھا۔ تیسرا صدی عیسوی میں یہ شہر مشرق کی طرف پھیل گیا۔ معبد کے پہاڑ کے جنوبی علاقے میں بھی کچھ عمارتیں وجود میں آگئیں۔ جب دسویں لمحن نے 283ء میں شہر چھوڑا تو رومنوں نے ایک نئی فصیل تعمیر کی۔ شہر پر یہودیوں کا قبضہ اب ماضی کا قصہ بن چکا تھا۔

لیکن حیرت اگلیز طور پر ان برسوں میں یہودیوں کے تعلقات رومنوں کے ساتھ بہتر ہو گئے۔ شہنشاہ اینٹونیس پائیس (61-138ء) نے ہیڈریان کے یہود مخالف قوانین میں نرمی کر دی۔ یہودیت پر عمل درآمد کو جائز قرار دے دیا گیا۔ برکوکبا (برکو سپا) کے ساتھ جنگ نے رومنوں پر واضح کردیا تھا کہ یہودیہ میں ایسے قابل فرد کو بھیجا جانا ضروری ہے جو علاقے کے بارے میں براہ راست معلومات رکھتا ہو۔ (35) ربی ایسے رومن حاکموں کو پسند کرتے تھے جن کا رویہ ان کے ساتھ مصالحانہ ہوتا تھا نئے دور میں انہیں گلیلی میں ایک نئی قسم کی قیادت پیدا کرنے کی اجازت دے دی گئی تھی۔ 140ء میں

ایک شہر تین مذاہب

ربی شمعون جو حل ایل کی اولاد میں سے تھا، اس نے بطریق ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ بطریق، اسقف عظم سے اوپر کے درجہ کا مذہبی سردار سمجھا جاتا تھا۔ اس نے بطریق کا مذہبی اور سیاسی منصب قائم کیا، اس نے آہستہ آہستہ اپنی بادشاہت قائم کر لی اور رومان سلطنت کے یہودیوں کا مسلمہ سربراہ بن گیا۔ شمعون کو چونکہ بادشاہ داؤ دکی اولاد سمجھا جاتا تھا چنانچہ اسے قدیم اور جدید مذہبی اقادار کو یکجا کرنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئی۔ اس نے ایک نئی قسم کی موروٹی حاکیت تشکیل دے دی۔ بطریقی منصب نے یہودیوں کو ایک ایسا سیاسی مرکز دیا جس نے یو شلم کے نقصان کی کسی حد تک تلافی کر دی۔ یہودیوں کی سیاسی قوت شمعون کے بیٹے یہوداہ اول (200-20ء) کی قیادت میں ایک بار پھر عروج حاصل کر گئی۔ اسے ”دی پنس“ کہا گیا۔ پنس نے واقعی شہزادوں کی طرح شان و شوکت سے زندگی گزاری۔ کہا جاتا ہے کہ وہ شہنشاہ مارکوس آرپلنس اینٹونیس (17-206ء) کا ذاتی دوست تھا۔ مارکوس روی لسل نہیں تھا چنانچہ وہ غیر رومنوں سے گریزاں نہیں رہتا تھا اور بالخصوص یہودیت میں دلچسپی رکھتا تھا۔

زیادہ تر ربیوں کی طرح بطریق سمجھتے تھے کہ سیاسی صورت حال کو قبول کر لینا ہی داشمندی ہے۔ البتہ کچھ ربی انہتائیں پسند تھے۔ مثلاً شمعون بن یوحانی جو روم حکام سے بچنے کے لئے فرار ہو گیا اور 165ء میں اپنی موت تک مفرور اور وزیر زمین رہا۔ لیکن ربیوں کی اکثریت اس بات کی قائل تھی کہ یو شلم کی تسبیح نما اور معبد کی تعمیر نما کے خواب دیکھنا خطرناک سوچ ہے۔ یہودیوں کو خدا کی طرف سے کسی اقدام کا انتظار کرنا چاہیے۔ ”اگر بچے تمہیں کہیں کہ جاؤ اور معبد تعمیر کرو۔۔۔ تو ان کی بات پر کان مت دھرو۔۔۔“

شمعون بن الیعا ضر کی یہ تنبیہ ربیوں کے پیش نظر تھی۔ ”یہ کام مسیحا کے لئے چھوڑ دو۔“ (36) چنانچہ ربیوں نے یہودیوں کی روحانی تسلیم کے لئے کچھ اور مقامات بنالئے تھے۔ فریسوں کی داخلی بصیرت کو بروئے کارلانے کی حکمت عملی سے استفادہ کرنے کا مشورہ دیتے ہوئے ربیوں نے عام یہودیوں کی باور کرایا کہ ان کے گھر ایک اعتبار سے معبد کا نعم البدل ہیں۔ چنانچہ گھروں کو ”مقدس مائت“، یعنی چھوٹے معبد قرار دے دیا گیا۔ گھر میں کھانے کی میز قربان گاہ کا مقابلہ بن گئی اور کھانا قربانی کی رسم کی ایک نقل۔ اسی طرح سلووات یا کنشت بھی معبد ہی کی ایک قسم تھے۔ ان کی عمارت تقدیس کا غصر رکھتی تھی۔ یو شلم میں معدوم کر دیئے جانے والے معبد کی طرح یہ بھی پاک و مقدس مقام تھا جس میں صرف مخصوص لوگوں کو داخل ہونے کی اجازت تھی۔ معبد کی طرح کنشت میں بھی عورتوں کے لئے ایک الگ جگہ تھی۔ وہ کرہ جہاں قربانی کی رسم ادا کی جاتی تھی بقیہ تمام حصوں سے زیادہ مقدس تھا۔ اس کے بعد یہاں یعنی مقدس کلام پڑھنے کا منبر اور آخر میں مقدس ترین مقام آرک یعنی توریت کے اور اراق رکھنے والا صندوق، مقدسوں کا مقدس، ہوتا تھا۔ کنشت میں داخل ہونے والا فرد مرحلہ وار تقدیس کے درجے طے کر کے یو شلم کے معبد کی طرح خانہ اقدس یعنی مقدسوں کے مقدس تک پہنچتا تھا۔ یہاں یا منبر ہمیشہ اوپنجی جگہ پر ہوتا تاکہ یہ عالمتی انداز میں مقدس پہاڑ بن سکے۔ جب اجتماع میں کسی رکن کو توریت پڑھنے کے لیے کہا جاتا تو

تو اسے منبر تک پہنچنے کے لیے کچھ بلندی طے کرنا پڑتی جو پیوشلم میں مقدس پہاڑ پر چڑھنے کے عمل کی یاد تازہ کرنے کے لیے تھی۔ ربیوں یا بطریقوں کے زیر اثر سبتوں کے دن کو بھی

(نقشہ) MAP

www.HallaGulla.com

70ء میں پیوشلم کی تباہی کے بعد یہودیوں کا ہر گھر گم گشتہ معبد بن گیا۔ عیدِ گزرائی کے موقع پر مصریوں کی غلامی سے بنی اسرائیل کی نجات کی یادمنانے کے لئے گھروں کی ضیافت کا اہتمام شروع کر دیا گیا۔ گھر کا سربراہ سفیدلبادے میں کاٹھن کی نمائندگی کرتا اور کھانے کی میز کو قربان گاہ سمجھ لیا جاتا ہے۔

ایک نئی اہمیت ملی۔ سبتوں کے دن آرام کرنا آنے والی دنیا کے لیے ایک روایت بن گیا۔ ہفتہ میں ایک دن یہودی کائنات کی ایک نئی جہت میں داخل ہو جاتے۔ سبتوں ایک ایسا دنیاوی معبد بن گیا جس میں یہودی اپنے خدا سے وقف کئے گئے وقت میں مل سکتے تھے اور یہوں انہیں کسی مخصوص مقدس مقام کی ضرورت نہیں رہی تھی۔

اب پیوشلم چونکہ یہودیوں کی دسترس سے باہر اور معبد معدوم ہو چکا تھا۔ چنانچہ ربیوں نے خدا کی موجودگی کے تصور کو نئی تفہیم دی۔ آخر اس بات میں کیا دانش ہے کہ خدا انسانوں کے بنائے ہوئے کسی معبد میں رہتا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی اور جگہ موجود نہیں ہوتا تھا؟ چنانچہ یہ بات عام یہودیوں کی سمجھ میں آنے لگی کہ خدا کو کسی ایک جگہ پا بند سمجھنا خدا کی توہین ہے۔ ربی لوگوں کے سامنے پیوشلم کے معبد کے خانہ اقدس یادیوں کا موازنہ سمندر سے کرتے۔

وہ کہتے کہ دیور میں خدا کی موجودگی اسی طرح ہے جیسے سمندر کسی غار کو بھر دے لیکن اس کے مجموعی پانی میں کوئی فرق نہ پڑے۔ یہی صورت خدا کی موجودگی کی ہے۔ وہ دلیل دیتے کہ خدا دنیا کا گھر ہے نہ کہ دنیا خدا کا گھر۔ (37) خدا کی وسعت زمین میں کیسے سما سکتی ہے؟ لیکن اس کے برعکس خدا میں ساری کائنات سما سکتی ہے۔ کچھ ربی اس بات کو ذرا مختلف انداز میں کرتے تھے۔ مثلاً وہ کہتے تھے کہ ”شیکنہ“، کو معبد تباہ ہونے پر پیوشلم سے آزاد کر دیا گیا ہے۔ بابل میں جلاوطنی کے دوران انہیں یقین دلا دیا گیا تھا کہ یہواہ پیوشلم کو چھوڑ کر ان کے پاس آچکا ہے۔ (38) اب ربیوں کا اصرار تھا کہ یہودیوں کی پوری تاریخ میں ”شیکنہ“ نے کبھی بھی بنی اسرائیل کا ساتھ نہیں چھوڑا اور وہ جہاں جہاں گئے یہاں کے ساتھ رہی۔

ایک شہر تین مذاہب

ہے۔ مصر میں، بیابان نور دی میں، کنعان میں، بابل میں اور پھر واپسی پر یروشلم میں (539ق م) وہ بنی اسرائیل کے ساتھ رہی ہے۔ (39) اب شہر بدر ہونے پر بھی وہ ان کے ساتھ ہے۔ جب یہودی اکٹھے ہو کر توریت پڑھتے ہیں تو وہ ان کے ساتھ موجود ہوتی ہے۔ یہ ایک کنشت سے دوسرے کشت میں فوراً پہنچ جاتی ہے جب وہاں توریت پڑھی جاتی ہے۔ (40) یہودیوں کو یقین دلا دیا گیا کہ خدا کی موجودگی سب جگہ ہے چنانچہ ساری دنیا یہودیوں کے لیے معبد بنادی گئی ہے۔ ماضی میں کوہ صیہون پر معبد میں خدا کی موجودگی ساری دنیا کے لیے زرخیزی اور امن کا ایک ذریعہ تھی۔ اب یہ کام یہودیوں کے ذریعے سرانجام دیا جاتا ہے۔ ربی دلیل پیش کرتے کہ کیا یہ ہر جگہ خدا کی موجودگی کا ثبوت نہیں ہے کہ بارش ہوتی ہے اور سورج چمکتا ہے۔ (41) لیکن یہ سب کچھ یہودی برادری کی وجہ سے ہوتا ہے۔ البتہ اس کی شرط یہ ہے کہ یہودی برادری متحدر ہے اور انسانی ہمدردی کے کام کرتی رہے۔ خدا کی عبادت اس وقت تک قابل قبول نہیں ہوتی جب تک اس آدمی مل کر ”منیان“ کی صورت اختیار نہ کر لیں۔ اگر یہودی پوری عقیدت کے ساتھ ہم آہنگی کے ساتھ، ایک آواز ہو کر اور یکسو ہو کر مناجات پڑھیں گے تو شکینہ انکے ساتھ ہو گی۔ اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو یہ آسمانوں میں چلی جائے گی اور فرشتوں کی ہم آہنگ تمجید سنتی رہے گی۔ (42)

جس طرح بابل کے جلاوطنوں نے مقدس سر زمین سے دور رہ کر ”ایک مقدس جغرافیہ“، تشكیل دے لیا تھا اور اپنی نفیاتی بقا کی صورت پیدا کر لی تھی۔ اسی طرح اب ربی شہر کے ناپاک ہونے اور معبد کے مسماں ہو جانے کے بعد بھی یروشلم کی تقدیلیں کے گیت گایا کرتے تھے۔ دنیا کے نقشہ میں اب بھی وہ صیہون اور دیور کو مرکزی مقام پر رکھتے تھے۔

”--- تقدیلیں کے دس درجے ہیں۔ اسرائیل کی سر زمین بقیہ علاقوں سے زیادہ مقدس ہے۔ اسرائیل کی سر زمین کے فضیل دار شہر بقیہ سر زمین سے زیادہ مقدس ہیں۔ یروشلم کی دیوروں کے اندر پائی جانے والی زمین ان سے زیادہ مقدس ہے۔ معبد والا پہاڑ یروشلم سے زیادہ مقدس ہے۔ معبد کا پشتہ، پہاڑ سے زیادہ تقدیل رکھتا ہے۔ معبد میں عورتوں کا صحن پشتے سے زیادہ مقدس ہے۔ اسرائیلیوں کا صحن اس سے زیادہ مقدس، کاہنوں کا صحن اس سے زیادہ مقدس، قربان گاہ کی جگہ اس سے زیادہ مقدس، ہیکل اس سے زیادہ مقدس اور دیور اس سے بھی زیادہ مقدس ہے کیونکہ اس میں کاہن اعظم کے سوا کوئی داخل نہیں ہو سکتا اور وہ بھی یوم کفارہ کو ایسا کرنے کا مجاز ہے۔۔۔۔۔“ (43)

ربی آج بھی یروشلم کی تقدیس و حرمت کی بات کرتے ہیں حالانکہ اب وہاں معبد موجود نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یروشلم زمین پر خدا کی موجودگی کی علامت ہے۔ خدا کی موجودگی جوازی وابدی ہے اور آج بھی تصور میں لائی جاسکتی ہے۔ مقدس جغرافیہ میں تقدیس کا ہر درجہ پچھلے درجے سے زیادہ مقدس تھا اور عبادت گزار درجہ بدرجہ روحانی رفت حاصل کرتا تھا۔ ان درجوں میں داخل ہونے والے لوگوں کی تعداد بتدریج کم ہوتی جاتی تھی۔ سابقہ جلاوطنی میں یہ ہوا تھا کہ روحانی جغرافیہ ٹھوس صورت نہیں رکھتا تھا بلکہ ایک تصوراتی چیز اور اور کیفیت تھی۔ اب ربی کہتے تھے کہ نجات کے تمام واقعات کوہ صیہون سے تعلق رکھتے ہیں۔ ابتدائی پانیوں کی حد بندی کوہ صیہون پر تخلیق کے دور کر دی گئی تھی۔ صیہون کی خاک سے آدم کو پیدا کر دیا گیا۔ قائن اور ہابیل وہاں اپنی قربانی پیش کر چکے ہیں۔ سیلا بِ عظُم کے بعد نوح بھی وہاں قربانی پیش کر چکے ہیں۔ ابراہیم کےختن کا مقام بھی صیہون ہے۔ اسحاق کی بندش اور ملک صدق سے ملاقات بھی ابراہیم نے بھیں کی۔ اب آخر کار مسیحا بھی صیہون سے نمودار ہو گا اور نئے دور کے آغاز کے ساتھ دنیا کو نجات دلاتے گا۔ (44) ربی تاریخی حقائق کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ انہیں اس بات نے کبھی پریشان نہیں کیا تھا کہ حضرت نوح کی کشتی کو وہ صیہون پہنیں کوہ ارارات پر آ کر رکی تھی۔ اسی طرح انہوں نے اس نئی تحقیق کو بھی نظر انداز کر دیا کہ حضرت ابراہیم سے ملک صدق بادشاہ کی ملاقات یروشلم میں نہیں عین راجل کے مقام پر ہوئی تھی۔ یروشلم انکے عقائد کے مطابق دنیا میں خدا کی نجات بخش موجودگی کی علامت تھا۔ اسی بنیاد پر ان کا اصرار تھا کہ تمام تر نجات بخش واقعات وہیں رونما ہوئے تھے اب جبکہ یروشلم ان کے لیے منوعہ علاقہ تھا، یہاں کی روحانی فرعت کا پہلے سے زیادہ موثر علمتی ذریعہ بن گیا۔ اہلیا کی صورت حال جیسی بھی تھی ان کے خیال میں عارضی اور مصنوعی تھی۔ معبد اور مقدس شہر ان کے لئے ایک دائیٰ حقیقت تھا۔ یروشلم سے دوری اور معبد سے محرومی کے دنوں میں بھی یہودی مسلسل کئی صدیوں تک تقدیس کے دس درجوں کے تصور میں محور ہے۔ یہ ہمیشہ ان کے لیے ایک ایسا ماؤل تھا جو بنی نوع انسان سے خدا کے رابطے کے تصور کو ممکن بنا تھا اور خود ان کی داخلی دنیا کا ایک نقشہ تھا۔

تیسرا صدی عیسوی کے آغاز میں کچھ یہودی یروشلم میں آمد و رفت کو ممکن بنا رہے تھے۔ الہامی کتابوں پر ابھی تک پابندی برقرار رہی۔ لیکن صلح جو شہنشاہ مارکوس آرپلیننس اینٹونیس کے دور میں رومی حکام نے پابندیوں پر سختی سے عملدرآمد نہ کیا۔ ابتدائیں ادنیٰ درجے کے یہودیوں نے رومی پابندیوں کی خلاف ورزی شروع کی۔ کومترہ کے ایک گدھا سورا شمیعون نے ریوں کو بتایا کہ اپنے کام کے دوران اسے کئی مرتبہ معبد کے پھاڑ پر سے گزرنا پڑا تھا۔ لیکن اس نے کھنڈرات پر نظر پڑتے ہی سوگ کی رسم کے مطابق اپنے کپڑے نہیں پھاڑے۔ (46) پھر ربی میصر کو اجازت دے دی گئی کہ وہ اپنے پانچ یا چھ شاگردوں کے ساتھ ایسا میں رہائش رکھ لے۔ یہ الگ بات ہے کہ ربی میصر کی مختصری جماعت بھی صرف چند سال تک وہاں اپنا وجود برقرار رکھ سکی۔ بطریق یہوداہ اول کی 220ء میں موت کے بعد یروشلم میں کوئی یہودی مستقل طور پر نہ رہا۔ لیکن تیسرا صدی کے وسط میں انہیں اجازت مل گئی کہ وہ کوہ زیتون پر جا کر معبد سے دور رہتے ہوئے سوگ مناسکیں۔ بعد

میں انہیں کوہ صیہون پر جانے کی اجازت بھی لیکن تاریخ کے

اوراق یہ نہیں بتاتے کہ ٹھیک کس زمانے میں انہیں ایسا کرنے کی اجازت دی گئی۔ وہ یہودی مہینے ایو کے نویں دن معبد کی تباہی کی بر سی کے موقع پر کھنڈرات میں جاتے اور روایتی سوت منا تے۔ قاہرہ میں ملنے والی ایک قدیم دستاویز کے مطابق سوگ کی رسم کے آغاز میں زائرین کوہ زیتون پر نگے پاؤں کھڑے ہو جاتے اور حسرت دیاس کے ساتھ صیہون کے کھنڈرات پر نظریں جمادیتے۔ پھر اپنے کپڑے پھاڑ دیتے اور نوحہ کنائ ہوتے۔ ”— یہ حرم، یہ مامن، یہ مقدس مقام مسما کر دیا گیا۔—“ پھر زائرین ایلیا میں داخل ہوتے، معبد کے چبوترے پر چڑھتے جو مسلسل موجود تھا۔ وہاں بیٹھ کر معبد، بنی اسرائیل اور بادشاہ داؤد کے خاندان کے لیے گریہ زاری کرتے۔ ظاہر ہے سوگ کی یہالیہ رسم ماضی کی پرمسرت زیارت کی رسم سے قطعی مختلف تھیں۔ تب یہودی یہواہ کی موجودگی کے تصور سے سرشار شاداں و فرحان قربانیاں پیش کرتے تھے۔ اب ان کے سامنے نہ تو معبد کا روح پرور منظر تھا اور نہ یہواہ کی شیکنہ۔— ان کے ارد گرد صیہون ایک ویرانی کا منظر پیش کرتا تھا۔ ان کی رو جیں بھی ویرانی اور کھو کھلے پن سے سکتی تھیں۔ لیکن سوگ کی رسم نے انہیں دل شکستگی سے نکل کر صورتحال کو قبول کرنے کا حوصلہ دیا۔ رسم کا اختتام اظہار تشکر کی عبادت کے ساتھ ہوتا۔ زائرین شہر کے دروازوں کے گرد اکٹھے ہو جاتے پورے شہر کے گرد چکر لگاتے اور اس کی بر جیاں گنتے۔ عمل بالکل اسی طرح سرانجام دیا جاتا جس طرح ان کے آباء اجداد پرانے شہر اور معبد کی موجودگی میں کرتے تھے۔ (47) انہیں یہ حقیقت بھی پریشان نہ کرتی کہ شہر کے دروازے رومنوں نے بنائے ہیں۔ دراصل یہناً امیدی سے امید کی طرف بڑھنے کا عمل کا عالمتی انداز تھا۔ شہر کے گرد حصار بنانے اور پھر چکر لگانے کا مطلب یہ تھا کہ شہر اب بھی ان کا ہے۔ زائرین مسیحی کی آمد اور حتمی نجات کا انتظار کرتے تھے۔ ان کی دعاوں اور مناجات میں توقعات کا یہ جملہ شامل ہوتا تھا۔ ”— اگلے برس رسول میں —“

برکو سیپا کی جنگ کے بعد عیسائیوں کو بھی ایلیا سے نکال دیا گیا تھا۔ اگرچہ ان کے عقائد و نظریات مختلف تھے لیکن وہ بھی مختار یہودیوں کی طرح زیر عتاب ٹھہرے۔ لیکن ہیڈریان، نے جوشامی اور یونانی آباد کا رشہ میں منتقل کئے ان میں سے کچھ عیسائی تھے۔ کیونکہ ایلیا میں ایک کلیسیا کا ذکر سننے میں آتا ہے۔ (48) ان غیر یہودی لوگوں نے کوہ زیہون پر ”بالا خانہ“ اپنے تصرف میں لے لیا تھا۔ دراصل یہ مقام شہر ایلیا سے باہر تھا چنانچہ رومنوں نے اسے نظر انداز کر دیا۔ یہ ایک نجی مکان تھا۔ اسے ابھی مذہبی نوعیت نہیں دی گئی تھی کیونکہ رومی سلطنت میں عیسائیت ابھی تک سرکاری طور پر تسلیم شدہ مزہب نہیں تھی۔ چنانچہ اس کے پروکاروں کو اپنی سرگرمیوں کی کھلے عام اجازت نہیں تھی۔ رومن حکام عیسائیوں کو تعذیب و تعزیر کا نشانہ بنایا کرتے تھے۔ عیسائیوں کو اپنی عبادت گاہیں بنانے کی اجازت نہیں تھی۔ لیکن وہ بالا خانہ کو مادر کلیسیا کہنا پسند کرتے تھے۔ دراصل یہیں سے عیسائیت کی ابتداء ہوئی تھی۔ عیسائیوں کے قبضہ میں ایک تخت بھی تھا۔ ان کا عقیدہ تھا کہ یہ تخت جیمززادک کا ہے۔ وہ جیمز زادک کو ہی رسول میں کا پہلا ”بشب“، قرار دیتے تھے۔ ایلیا میں عیسائیوں کا کوئی اور مقدس مقام نہیں تھا۔

ایک شہر تین مذاہب

وہ شہر جو حضرت عیسیٰ کی موجودگی میں تھا وہ ہیڈریان کے ایلیانے نگل لیا تھا۔ گلکتا، ایفرو دیتی کے مندر کے نیچے دن ہو چکا تھا چنانچہ عیسائی وہاں جا کر عبادت کرنا پسند نہیں کرتے تھے۔ لیکن یوز بیبس ہمیں بتاتا ہے کہ اس مقام کی نشاندہی سیاحوں کو کر دی جاتی تھی۔ (49) سار دلیں کے بشپ میلتیو کو 160ء میں اس کی آمد کے موقعہ گلکتا کا مقام دکھایا گیا تھا۔ اس نے واپس وطن پہنچنے پر عیسائی پیروکاروں کو بتایا تھا کہ ”گلکتا اب شہر کے وسط میں آچکا ہے۔“ (50) حضرت عیسیٰ کے زمانے میں یہ مقام فیصل شہر سے باہر تھا لیکن اب یہ پہاڑی ٹیلا ایلیا کے بڑے فورم کے پہلو میں دن ہو چکا تھا۔

عیسائیوں کی زیادہ تعداد زائرین کی حیثیت سے فلسطین میں نہیں آتی تھی۔ یوز بیبس کا کہنا ہے کہ ”تمام دنیا سے ہجوم یروشلم میں آتے تھے۔“ (51) لیکن وہ صرف چار زائرین کو نام کا ذکر کر سکا ہے۔ ان میں سے ایک ملیتو تھا جسے ایلیا شہر سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ ”یروشلم کے اوپر بن جانے کی وجہ سے یہ بے وقت ہے۔“ (52) ملیتو کی فلسطین میں آمد عقیدت کے لیے نہیں معلومات کے لیے تھی۔ اس معلوماتی دورے کے ذریعے وہ ملک کی جغرافیائی صورتحال سے آگاہ ہو کر اپنے بائل کے مطالعے میں وسعت پیدا کرنا چاہتا تھا۔ عیسائیوں کو بنیادی طور پر آسمانی یروشلم میں دلچسپی تھی جس کا ذکر یوحنہ کی الہامی کتاب میں موجود ہے۔ اس کتاب کا چرچا دوسری صدی عیسوی میں کسی اور عیسائی صحیفے کے مقابلے میں بہت زیادہ رہا ہے۔ انہیں ایک نئے یروشلم کا انتظار تھا جو قیامت سے پہلے آسمان سے اترے گا اور زمین پر شہر کی صورت اختیار کر لے گا۔ (53) چنانچہ کسی عیسائی کو ایلیا میں کوئی رغبت محسوس نہیں ہوتی تھی۔ یوز بیبس کی تحریر یہ معدرت خواہانہ تھیں۔ وہ عیسائیوں کو قانونی حیثیت دلانا چاہتا تھا۔ غالباً اسی لیے وہ مسیحی زائرین کی تعداد کا ذکر کرتے ہوئے مبالغہ آرائی سے کام لیتا ہے۔ اس طرح وہ یہ تاثر دینا چاہتا تھا کہ عیسائیت کو یعنی اس کے مذہب کو عالمگیر مقبولیت حاصل ہے۔ دوسری اور تیسری صدی عیسوی کے دوران یروشلم کو عیسائی زائرین کے کسی بڑے روحانی مرکز کی حیثیت حاصل ہونے کا کوئی تاریخی ثبوت موجود نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ عیسائی یوحنہ اور متی کی انجیلوں کے مطابق اسے ایک مجرم شہر سمجھتے تھے جس نے حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) کو مسترد کر دیا تھا۔ حضرت عیسیٰ نے کہا تھا کہ مستقبل میں لوگ یروشلم جیسے کسی مقدس مقام پر اکٹھے نہیں ہوں گے بلکہ ان کی (حضرت عیسیٰ) عبادت خلوص نیت کے ساتھ کریں گے۔ معبدوں اور مقدس پہاڑوں سے عقیدت رکھنا کافروں اور یہودیوں کی خصوصیت تھی اور عیسائی ان دونوں سے لتعلق ہونے کے خواہش مند تھے۔

یوں یروشلم کو عیسائی نقشے میں کوئی اہم حیثیت حاصل نہیں تھی۔ ایلیا کے بشپ کی جگہ قیصریہ کا بشپ فلسطین کا نام ہب پیشووا تھا۔ جب ممتاز عیسائی عالم اور بیجن 234ء میں فلسطین میں مقیم ہوا تو اس نے اپنی درس گاہ اور کتب خانہ قیصریہ میں قائم کرنا پسند کیا۔ جب اس نے ملک بھر کے دورے کئے تو وہ بھی ملتو کو طرہ بائل میں مذکور جغرافیائی صورتحال سے آگاہ ہونا چاہتا تھا۔ وہ یقیناً ان جغرافیائی مقامات کو دیکھ کر کسی روحانی کیفیت کی تحصیل کا متنی نہیں تھا۔ لیکن یہ مقامات بہر حال اس کے لیے محترم تھے۔ اس کا کہنا ہے کہ صرف کافر لوگ ہی کسی معبد میں خدا کی تلاش کر سکتے ہیں اور صرف وہی سوچ سکتے ہیں کہ خدا

کسی ایک مخصوص مقام میں رہائش رکھتا ہے۔ (54) اس کی دلچسپی صرف اس بات میں تھی کہ انجیل میں مذکور مقامات کو اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ مثلًا بیت الحم کو دیکھے جہاں حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) پیدا ہوئے تھے۔ چرنی کو دیکھے (جو یقیناً محفوظ کر لی گئی تھی) اور ثابت کرے کہ جو کچھ انجیل میں ہے وہ درست ہے۔ لیکن اور بھن ایک فلاطونی طالب علم تھا۔ اس کے خیال میں عیسائیوں کے لیے ضروری تھا کہ وہ خود کو مادی دنیا سے آزاد کر لیں اور ایک مکمل روحانی خدا کے طالب ہو جائیں۔ انہیں ارضی مقامات سے وابستہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ۔۔۔ ”زمینی شہر کی بجائے آسمانی شہر کی جستجو کرنا چاہیے۔“ (55)

اگرچہ اب قدیم یو شلم کا مذهب وسیع طور پر موجود نہیں تھا اور لوگوں میں مقدس مقامات کا تصور دھندا ہو رہا تھا لیکن ایلیا کے مقامی عیسائی شہر کے باہر حضرت عیسیٰ سے منسوب مقامات کی زیارت کرنا پسند کرتے تھے۔ یوز بیبس ہمیں بتاتا ہے کہ کوہ زیتون کی چوٹی پر جانا عیسائیوں کا معمول تھا کیونکہ اسی مقام سے حضرت عیسیٰ کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا تھا۔ وادی قدرون میں گتسمنی کے باغ میں بھی لوگ جاتے۔ یہاں گرفتاری سے پہلے حضرت عیسیٰ نے بڑی دلسوzi کے ساتھ دعا کی تھی۔ اسی طرح دریائے اردن کے اس مقام کی بھی زیارت کی جاتی تھی۔ جہاں یوحنانے حضرت عیسیٰ کو پتسمہ دیا تھا۔ (57) مصنوعی غاروں کو خاص طور پر رومی و یونانی دنیا میں مقدس مقامات سمجھا جاتا تھا۔ ایلیا کے عیسائی بھی دو مقامات کی زیرت کے لیے جاتے تھے۔ ایک مقام بیت الحم میں تھا جسے حضرت عیسیٰ کی بجائے پیدائش کہتے ہیں اور دوسرا کوہ زیتون جہاں حضرت عیسیٰ دوبارہ زندہ ہو جانے کے بعد یوحنانوی پر ظاہر ہوئے تھے۔ (57) عیسائی ان مقامات کی زیارت کو اس لیے نہیں جاتے تھے کہ وہ ”آدم زاد یسوع“ کو یاد کریں۔ انہیں حضرت عیسیٰ کی زمینی زندگی میں بہت کم دلچسپی تھی۔ یہ مقامات اس لیے اہم تھے کہ انہوں نے خداوند کو دیکھا تھا۔ دونوں مقامات پر مجسم کلام دنیا پر ظاہر ہوا تھا۔

کوہ زیتون کی ایک اور بھی اہمیت تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اسی مقام پر حضرت عیسیٰ نے اپنے حواریوں کو یو شلم پر آنے والی تباہی اور آخری دنوں کے بارے میں تباہی تھا۔ (58) کوہ زیتون پر یہودیوں کو معبد کی تباہی کو سوگ مناتے ہوئے دیکھ کر عیسائی طنزیہ انداز میں مسکرا کر رہے تھے۔ اور بھن یہودیوں کی ان رسومات کو فسوسناک اور گمراہ کن قرار دیتا ہے۔ وہ یہودیوں کی حالت زار کو انا جبل کی صداقت کا ایک ٹھووس ثبوت سمجھتا ہے۔ پیشین گوئیاں اور نداء غیبی قدیم زمانے میں بہت اہمیت رکھتی تھیں۔ یو شلم کی تباہی کے بارے میں حضرت عیسیٰ کی پیشین گوئی کا حرف بحروف درست ثابت ہونا اور بھن کے کفار مخالفین کا منه بند کرنے کے لیے کافی تھا۔ اس کا کہنا ہے کہ جب یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا تو ان کی تباہی کا دور شروع ہو گیا۔ ان کی تمام ادارے جن پر انہیں انتہائی فخر و ناز تھا ملیا میٹ ہو گئے ان میں معبد، قربان گاہ، کاہنوں کی شان و شوکت، تقریبات، اقتدار و اختیار کچھ بھی نہ رہا۔ (59) یہ صور تھاں حضرت عیسیٰ کے پیروکاروں کے لئے تسلیم بخش تھی۔ ایلیا، کے عیسائیوں نے کوہ زیتون پر خود بھی ایک جوابی تقریب منعقد کرنا شروع کر دی۔ یوز بیبس کہتا ہے کہ وہ چوٹی پر جاتے اور شہر کی تنجیر اور تباہی کی باتیں کرتے۔ (60) پہاڑ سے وہ اجڑے ہوئے معبد کے چبوترے کو دیکھتے

جس پر فاتح شہنشاہوں کے مجسمے ایستادہ تھے۔ یہ منظر انہیں یہودیت کی ناکامی اور اپنے مذہب کی کامیابی کی نوید دیتا۔ ان کا مذہب ابھی فلسطین میں زیادہ مقبول نہیں ہوا تھا لیکن بقیہ سلطنت میں زبردست کامیابی حاصل کر رہا تھا۔ جب وہ رومان ایلیا کے بارے میں سوچتے کہ یہ اس مجرم شہر کو نابود کر کے تعمیر کیا گیا ہے جس نے یسوع کو تسلیم نہیں کیا تھا تو انہیں اپنے مذہب کی حقانیت کا ایک زندہ ثبوت اپنے سامنے پھیلا ہوا دکھائی دیتا۔ لیکن ابھی تک ایک بات پر بیشان کن تھی۔ رویوں کی طرح حضرت عیسیٰ اور سینٹ پال رحم و مروت اور انسانوں سے محبت کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ حضرت عیسیٰ تو اپنی تعلیمات میں یہاں تک کہہ گئے تھے کہ ان کے ماننے والوں کو اپنے دشمنوں سے بھی محبت کرنا چاہئے۔ لیکن تیسیری صدی کے عیسائی اس وقت غیر ضروری غرور و نخوت میں مبتلا ہو گئے جب انہیں شہر کے پرانے باسیوں اور اپنے لیش رو یہودیوں کا مستقبل مخدوش نظر آنے لگا۔ تو حید پرست ہمیشہ اس حقیقت کو تسلیم

کرنے پر مجبور ہوئے تھے کہ یروشلم کے پرانے قابضین نے اسے ایک مقدس شہر کا احترام دیا تھا اور ان کے اپنے عہد کا استحکام بھی اسی طرز عمل پر مختصر ہو گا۔ ایلیا کے عیسائیوں نے یہاں اچھے آغاز پر توجہ نہ دی۔ انہیں اس بات کی پرواہی نہیں تھی کہ جس شہر میں یسوع مصلوب ہوا اور پھر زندہ ہو گیا وہاں انہیں اپنے اعلیٰ تر نسب اعین کے سات مثالی زندگی گزارنا چاہئے۔

یو یسیل 313ء میں قیصر یہ کا بشپ بنا اس کے ساتھ روم سلطنت میں عیسائیوں کے پرشکوہ دور کا آغاز ہو گیا۔ اور بھن کی طرح یو یسیل بھی فلاطونی تھا وہ معبدوں اور مقدس مقامات سے کوئی عقیدت نہیں رکھتا تھا۔ اس کی نظر میں عیسائیت اور ابتدائی قسم کے ناقص عقائد کو پیچھے چھوڑ آئی تھی۔ اس کا اصرار تھا کہ فلسطین میں کوئی خصوصیت نہیں ہے۔ یہ کسی بھی لحاظ سے (زمین کا) مرکز نہیں ہے۔ (61) ایلیا صرف اور صرف مجرم شہر ہے۔ یہ کسی احترام کے لائق نہیں۔ یہ عیسائیوں کے لئے صرف انتی اہمیت رکھتا ہے کہ یہ یہودیت کی موت کی علامت ہے۔ ”اس زمانے میں ملک چند افراد ہی کو شہر کا اصل نام یاد تھا۔ یو یسیل خود اسے ایلیا کے نام سے پکارتا ہے۔ زیادہ تر عیسائیوں کی طرح وہ بھی صرف ایک ہی ”یروشلم“ کو جانتا تھا جو آسمانوں میں تھا، اس دنیا میں کہیں نہیں پایا جاتا تھا۔ 312ء میں قسطنطین نے اپنے شاہی حریف میک زیل یسیل کو میلویان کے پل پر شکست دے دی اور اپنی فتح کو عیسائیوں کے خدا سے منسوب کیا۔ 313ء یو یسیل کے منصب برداری کے سال میں قسطنطین نے عیسائیت کو روم سلطنت کے سرکاری مذاہب میں سے ایک قرار دے دیا۔ سینٹ پال کی کوششوں سے عیسائیت ایشیائی کو چک، یونان اور روم تک پہنچی تھی۔ اس نئے مذہب کو ماننے والے زیادہ تر غریب طبقوں سے تعلق رکھتے تھے۔ رومی شہنشاہوں نے عیسائیوں کو طرح طرح کی اذیتیں دیں لیکن عیسائیوں نے رومی شہنشاہ کو خدامانے اور روم کے دیوتاؤں کے سامنے سر جھکانے سے انکار کر دیا۔ اذیتوں کا نشانہ بننے ہوئے، ہلاکت کے کنارے پر پہنچی ہوئی عیسائیت کسی بیساکھی کے بغیر، سیاسی طاقت سے محروم اور کسی مقدس شہر کے بغیر عروج کی طرف گامزن ہو گئی۔ اور پھر اس

نے انجام کارا بیلیا کو بھی مکمل طور پر تبدیل کر دیا۔

=====

حوالہ جات

1. Benjamin Mazar, The mountain of The Lord (New York,1975) p.113.

2. Antoine Duprez, Jesus et les Dieux Guerisseur a La Propose De Jean V (Paris- 1970).

3. F.E. Peters, Jerusalem: The Holy City in The Eyes of Chroniclers, visitors, Pilgrims and prophets From the Days of Abraham to The beginnings of Modern Times (Princeton 1985). p. 125.

4:5 (Eusebius, ECELESIASTICAL HISTORY) یوزبیسٹس -4

5. ORIGEN, SERMON in honour of Mathew 12.B

باروخ-10 -6

7. Yalkut. song of songs...1:2
8. AVOT de rabbi Nathan 6.
9. SIFRE on Leviticus 19:8.
10. MEKHILTA on Exodus 21:73
11. SANHEDRIN 4:5
12. BABA METZIA 58B

13.	M. BERAKOTH	5:5				
14.	FOURTEENTH BENEDICTION					
15.	YALKOT on 1 KINGS - 8					
16.	PESIKTA de Rabbi Kazhana	103A				
	(BARUCH)	4	باروخ	-2	-17	
	(ENOCH)	7:26	خنوج	-4	-18	
		8: 2-3, 8:5	خنوج	-4	-19	
	(Revelation)	2:10	کتاب وحی	-20		
		22:1-2	کتاب وحی	-21		
	24: 52-53		لوقا کی انجیل	-22		
			رسولوں کے اعمال	-23		
		1:8	متی کی انجیل	-24		
		24: 1-3	یوحنا کی انجیل	-25		
		1:1-5, 14	یوحنا	-26		
		7:38-39	یوحنا			

یوحنا نے اپنی انجیل میں یسوع مسیح کی طرف سے جملہ لکھا ہے ”میں ہوں۔۔۔“ جو عید (سکوتھ) کے موقع پر کہا گیا۔ سکوتھ کے موقع پر یہ مذہبی رسم میں عبادت کے دوران استعمال کیا جاتا تھا۔ یسوع نے یہ اپنے لیے کہا اور یہ اس طلاق شیکنے کے معنوں میں استعمال کی۔

2:19-21	یوحنا	-27
4: 20-24	یوحنا	-28
8:57	یوحنا	-29

معبدے جا رہا تھا تو یہ شیکنے کے خصت ہونے کے متراff تھا۔

DAVIES, Gospoal and The Land-12.

30. DIO CASSIUS, History 69:12.
31. IBID --

32. VERGIL, Aeneid 5: 785-86

میکاہ (عہد نازمہ قدیم) 3:12 - 33
 جان ولکن سن کا خیال ہے کہ محراب ہیرودیس کے دور سے تعلق رکھتی - 34

۔۔۔

K.J. ASALI, Jerusalem in history-- p. 82

35. J. BERAKOTH 1:4A, Line27: B. KEUBOTH 17.A

36. T. AVODAH ZARAH 1:19

37. GENESIS RABBAH A:18

38. T. B. MEGILLA 29A

39. MEKHILTA VISHA 14

40. T. B. BERAKOTH 6A, NUMBERS RABBAH 11:2

41. NUMBER RABBAH. 1:3

42. SONG OF SONGS. RABBAH 8:12

43. M. KELIM 1:6-9

44. PIR QE RABBI ELEZER 31.

45. J. BERAKOTH 9:3, 13D.

46. MICHAEL AVI-YONAM, the Jews of Placestine: A Political History from The Bar Kokhba War to the Arab conquest (Ox Ford- 1976), pp. 80-81.

47. ROBERT L. WILKEN, The Land Called Holy: Palestine in Christain History and thoughts (New Haven and London. 1992) p. 106.

48. EUSEBIUS, ECCLESIASTICAL HISTORY 4:

49. EUSEBIUS, ONOMASTIKON 14:19-25

50. MELITO, PASCHAL SERMON

51. EUSEBIUS, The Proof of the Gospel 6: 18-23
 52. MELITO, PASCHAL SERMON
 53. IRENAEUS, HERESIES 5: 35: 2: JUSTIN,
Dialogue with Trypho The Jews 80-5
ORIGEN, First Principles,4:2:1
 54. ORIGEN, Against Celsus, 3:34, 7: 35
 55. ORIGEN, First Principles 4:2:1
 56. EUSEBIUS, Proof of the Gospel 1:1:2, 3:2:47, 7:2:1
 57. ACTS Of John 97.
 58. muti 24:3
 59. ORIGEN, First Principles 4:1:3
 60. EUSEBIUS, Proof of the Gospels, 6:18 :23
 61. IBID 3: 2: 10
-

Virtual Home
for Real People